

حاضرت علیؑ



کتاب وقف

دربار پیر شاہ زنجانی

سلسلہ روحانیات حضرت سید میراں حسین شاہ زنجانی

پیر بھائی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری لاہور

(جملاً حقوق محفوظ)

حضرت کی دنیا



ایسٹ ڈیپارٹمنٹ
الطیلسا اور رونا روڈ، لاہور
042-3180611

ISBN: 978-969-9571-11-11

قیمت: -/150 روپے

مکتبہ اہلسنت

کاشانہ زرخانی، D-125، گلبرگ 2، حضرت سید میراں حسین زرخانی روڈ نزد مین مارکیٹ، لاہور



انتساب

میں اپنی کتاب ”حاضرات کی دنیا“ اپنے استاد گرامی خانوادہ سادات معصومین علیہم السلام حضرت نجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی (مرحوم) ماہر روحانیات اور بانی گولڈن جوبلسی ادارہ آئینہ قسمت لاہور کے نام سے منسوب کرتا ہوں جن کی سوانح عمری اس کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہی کی عطا میں اپنی برسہا برس کی محنت کو جمع کر کے آپ کے فرزند ارجمند شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی چیف ایڈیٹر روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت لاہور کی نذر کر دیا ہے کہ وہ ”حاضرات کی دنیا“ کو اپنے خاندانی روحانی فیوض و برکات اور دربار مصطفائی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض اپنی اجازت سے جاری کریں۔ بلاشبہ جب تک باب العلم سے کسی وسیلہ سے تمکک قائم نہ ہو دربار مصطفائی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض جاری نہیں ہوتا۔

عامل قیصر احمد بی اے کراچی پاکستان
مؤرخہ 7 جون 1996ء

پیش لفظ

حاضرات کے اعمال و موضوع صدیوں سے عالمین کی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت اور زنجانی جنتری میں اب تک بے شمار حاضرات کے بحرب اعمال شائع ہو چکے ہیں جنہیں قارئین نے دلچسپی سے پڑھا اپنے عمل میں لائے اور بحرب پایا۔ یہ موضوع چند سالوں میں پاکستان بھر میں اتنا مقبول ہوا کہ فرمائش کی جانے لگی کہ اس موضوع پر ادارہ آئینہ قسمت کوئی کتاب شائع کر کے آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل مگر بحرب حاضرات سے آشنائی کرائی جائے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے قیصر احمد بی اے نے قلم اٹھایا اور کتاب حاضرات کسی دنیا ترتیب دینی شروع کر دی۔ ان کو دیکھ کر حسد میں ڈاکٹر محمد منثور عالم صدیقی صاحب نے بھی اپنے قلم میں نئی روشنائی بھری اور شوق روحانیات سے کتاب بحرالحاضرات قلبند کر دی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ حسد ہر شے میں بڑا ہے سوائے علم میں۔ مجھے ان دونوں روحانی دوستوں پر فخر ہے جنہوں نے قارئین کی تشنگی دور کرنے کے لئے حاضرات کسی دنیا اور بحرالحاضرات ترتیب دی۔ آپ دونوں کتب کا مبالغہ کر کے ہی دونوں دوستوں کی خوبصورت روحانی کاوش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے شک مکتبہ آئینہ قسمت کی فہرست میں یہ ایک خوبصورت اضافہ ہے۔

ایڈیٹر روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت لاہور
سید انتظار حسین زنجانی
18.01.1998



اجازت نامہ

اللہ تعالیٰ آپ کے روحانیت کے شوق کو سلامت تا قیامت رکھے آمین۔
حاضرات کی دنیا مکمل کتاب کی اجازت کا ہدیہ ایک ہزار روپے ہے۔ ہدیہ ادا کر کے سجادہ
نشین دربار عالیہ زنجانیہ شہزادہ سید انتظار حسین شاہ
زنجانی سے اجازت نامہ حاصل کریں۔

آپ کا ہدیہ بانی ادارہ حضرت سید ناصر حسین شاہ زنجانی قبلہ کے مزار اقدس
اور گاہ پیر شاہ زنجانی کی فلاح سالانہ عرس اور لنگر میں شامل کیا جائے گا۔ وفات شاہ زنجانی
11 ربیع الاول 1392ھ کی مناسبت سے سالانہ عرس جشن عید میلاد النبی ﷺ کے
ساتھ ہر سال منایا جائے گا۔ حضرت سید ناصر حسین شاہ زنجانی (مرحوم) کی سوانح عمری اسی
کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔

خصوصی اجازت تجربہ حاضرات کے لئے کتاب کا کوئی ایک عمل 6 کلو چینی
کا صدقہ سحرات الارض کو ذال کر بعد شوق کر سکتے ہیں۔
شاہ زنجانی

تقریظ

فلسفہ دان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں خیال کی طاقت اس قدر زبردست ہے
کہ اس ہی کے ذریعے اس عالم موجودات کے تمام کام انجام پارتے ہیں جس کے ثبوت دیکھنے
والی آنکھوں اور پرکھنے والے دلوں کو قدم قدم پر مل رہے ہیں۔ اگر خیال کی طاقت دنیا میں
موجود نہ ہو تو فلاسفوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہی نہ ہو سکے کیوں کہ سب سے پہلے
خیال ہوتا ہے اور جب وہ پختہ ہو کر یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت سے عملی کام
شروع ہوتا ہے۔

حاضرات ارواح کے عامل کے لئے لازم ہے کہ ارادہ کا پختہ، صابر، مستحکم قوت ارادی
والا باحوصلہ اور پاکیزہ خیال رکھنے والا ہو اور حاضرات کی کسی آیت یا اسم کا عامل ہو۔ اگر خود
تو جہی سے کام لینا چاہے تو وہی فزیکل مشقیں کرے۔ جو مسمریزم یا پشائیزم کے عامل کے لئے
واجب ہیں۔ کبھی سائنس نے روحانیت اور روحانی علوم کو شجر ممنوعہ سمجھ رکھا تھا مگر اب
یورپ امریکہ کے عظیم سائنس دانوں، فلاسفوں، پروفیسروں نے اسے قبول کر لیا ہے۔
در اصل روحانی علوم ہمارے اسلاف کا ورثہ ہیں۔

مجھے اپنی قوم کے نامور سپوتوں پر فخر ہے جو ماورائی علوم کے نئے باب رقم کر رہے ہیں
ان میں ایک جانا پہچانا نام جناب قیصر احمد بی۔ اے کا ہے۔ یہ نام محتاج تعارف نہیں ہے۔
موصوف نے جس محنت اور جانفشانی سے حاضرات ارواح جیسے نازک موضوع پر قلم اٹھایا
ہے۔ یہ ان کی ماورائی علوم میں برسوں کی محنت کا منہ بوتا ثبوت ہے زیر نظر کتاب
”حاضرات کی دنیا“ میں موصوف نے حاضرات ارواح پر نہ صرف سیر حاصل بحث کی ہے
بلکہ اپنے صد ری اعمال کو بلا بخل پیش کر دیا ہے۔ جو لوگ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے ان
کے لئے یقیناً حاضرات ارواح باز پچہ اطفال ثابت ہوگی ”حاضرات کی دنیا“ کے اکثر
اعمال کامیں نے خود تجربہ کیا اور حرف بحرف درست پایا۔

فاضل مصنف و مؤلف نے اس قدر آسان اور سہل اعمال پیش کئے ہیں کہ ان کی بھل بھنی کو بے ساختہ داد دینے کو ہی چاہتا ہے۔ میرے دل سے ان کے لئے بے اختیار دعا نکلتی ہے۔

ع اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شہرت دوام بخشے اور فاضل مصنف کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔

عالم حکیم غلام سرور شباب

حویلی لکھا۔ ضلع اوکاڑہ

نگارش قادری

برادر عزیز جناب قیصر احمد بی اے ہمارے علمی دوستوں میں سے ہیں۔ گذشتہ چند برسوں میں انہوں نے عوام الناس کو ایسے ایسے نادر و نایاب عملیات سے روشناس کرایا ہے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ پیش نظر کتاب حاضرات کی دنیا کی جملکیں آپ نے آئینہ قسمت کے صفحات قرطاس پر ملاحظہ کی ہوں گی۔ جناب زنجانی صاحب کے بقول بہت سے لوگ ان اعمال پر عمل پیرا ہو کر کامیابیوں سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب علوم روحانیہ میں ایک عمدہ اضافہ ثابت ہو گی اور تشنگان علوم مخفیہ کی تسکین کا سبب بنے گی۔

باہر سلطان القادری عفی اللہ عنہ

فیصل آباد

کوئٹہ سے خالد خاں ظلمی لکھتے ہیں

میں روایتی تعریف نہیں حقیقی کیفیت قلب سپرد قلم کر رہا ہوں۔ قیصر احمد بی اے ایک راست گو روحانی انسان ہیں۔ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کے اوراق کے کسی حصہ میں اہل و حقہ دار کے لئے یقیناً حصہ محفوظ ہے۔

کمپیوٹر ٹیکنالوجی

زندہ لوگ مردوں سے براہ راست مذاکرات کر سکیں گے

موت اختتام کا نہیں بلکہ توانائی کا ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہو جانے کا نام ہے

زندہ افراد بہت جلد کسی روحانی وسیلے کے بغیر مردوں سے بات چیت کر سکیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان اس رابطے اور تعلق میں کمپیوٹر الیکٹرانک ٹیکنالوجی اور ٹیلی ویژن سیٹ اہم کردار ادا کریں گے۔ اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے ماہر روحانیات اور مردوں سے گفتگو کرنے کے دعویدار ہمزوان پراگ نے امریکی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بتایا کہ موت اختتام کا نہیں بلکہ توانائی کی ایک صورت سے دوسرے میں منتقلی کا نام ہے اور توانائی کو کبھی ختم نہیں کیا جاسکتا۔ مرے ہوئے افراد کے اشارے بالکل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی طرح ہوتے ہیں اور ریڈیو ویوز پر ہمیشہ سفر میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ فضا میں منتشر ان ویوز کو ایک رسیور کی مدد سے وصول کیا جاسکتا ہے اور مرنے والوں کے پیغامات وصول کئے جاسکتے ہیں۔ ہمزوان پراگ نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ مجھے مردوں سے گفتگو کا ہنر سیکھے 14 سال ہو گئے ہیں۔ لوگ مجھ سے اپنے مرے ہوئے پیاروں کا حال و احوال پوچھتے ہیں اور میں روحانی پیغام رساں کے طور پر دو دنیاؤں کے درمیان کام کر رہا ہوں لیکن کمپیوٹر نظام کے آنے کے بعد لوگوں کو اس کام کے لئے میری ضرورت نہیں رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ روحانی وسیلہ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا استعمال گناہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمزوان پراگ نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے مرے ہوئے پیاروں میں سے کسی ایک کا نام اسے بتائے تو وہ مرے ہوئے شخص کی شکل دیکھ لیتا ہے یا پھر اس کی آواز اسے سنائی دینے لگتی ہے اور یہ مرے ہوئے شخص پر منحصر ہے کہ وہ کس شکل و صورت میں ان سے ہم کلامی چاہتا ہے۔ بعض اوقات مرے ہوئے شخص کی موت کی پوری صورتحال قلم کی طرح میری نظروں میں آجاتی ہے۔

انہوں نے ہالی ووڈ کی معروف پیرشار مارلن منرو اور شہزادی ڈیانا کی روحوں سے بھی

ہم کھائی کا دعویٰ کیا ہے۔ بھم نے بتایا کہ ایک دن سوزان سٹرائس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگلے جہاں میں مارلن منرو کا کیا حال ہے؟ روحانی رابطے پر مارلن منرو نے صرف اتنا کہا کہ مجھ پر توجہ دینے کی بجائے سوزان اپنا خیال رکھیں۔

ڈیانا کی جس رات حادثے میں موت ہو گئی میں ایک ہوٹل میں تھا۔ میرے فون کی کھنٹی پانچ مرتبہ برطانوی انداز میں بجی لیکن ریسیور اٹھانے پر ہر مرتبہ کوئی نہیں بولا۔ ہوٹل والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو کوئی فون نہیں آیا لیکن فون میں کچھ رمز ضرور تھا۔ ڈیانا روحانیت میں یقین رکھتی تھی اور برطانوی شاہی خاندان بھی صدیوں سے روحانیت کا اسیر ہے۔

بھم نے بتایا کہ مجھ پر میرے کام کے حوالے سے کئی الزامات عائد کئے جاتے ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں کوئی جاوگر یا مداری نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں بھم نے بتایا کہ اپنی ماں سے شدید جذباتی لگاؤ کی بدولت میرا اگلے جہاں ان سے ابھی رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ بھمزوان پراگ کی کتاب "جنتیوں سے گفتگو" ریسٹ سیلر جا رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کے براہ راست پروگرام میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے بہت سے لوگوں نے بھمزوان پراگ کو ای میل بھیجی یا ٹیلی فون کر کے اگلے جہاں موجود اپنے پیاروں کی خیریت دریافت کی اور مرنے کے برسوں بعد پہلی بار ان کے پیغامات وصول کئے۔ پروگرام میں بہت سے ای میل ایسے بھی آئے جن میں بھمزوان پراگ پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ ٹیلی ویژن کے مطابق بھمزوان پراگ کی روحانی صلاحیتیں ایک ایسی بحث ہے جس پر بعض لوگ یقین کریں گے اور بعض اسے مسترد کریں گے۔

مانٹریال (کینیڈا) میں ہر 6 ماہ کے بعد روحانیت علوم مخفی والوں کی نمائش لگتی ہے جس میں ایسے چراغ فروخت ہوتے ہیں جن کے رگڑنے سے جن حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے تخت سیاہ فروخت ہوتے ہیں جن پر بیچے بھی ارواح حاضر کر سکتے ہیں۔ سیب کے بیج ماتھے پر باندھنے سے نظر بندی کے طور پر باندھنے والا سب کی نظروں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ علی ہذا القیاس مشہور امریکی سائنس ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں مجسمہ آزادی نیویارک اور یونگ جہاز غائب کر چکا ہے۔ اس کی قلم بھی ادارہ سے لے کر دیکھی جاسکتی ہے۔ امکانات روشن ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں حاضرات آئینہ جمشید ٹی وی سکرین پر بھی دیکھے جاسکیں گے۔ فی الحال آپ حاضرات کی دنیا کے مطالعہ سے مفلوظ ہوں۔

حاضرات بابا ولایت علی شاہ

طریقہ : عروج ماہ میں نوچندے پیر کو بازار سے ایک بڑی بوتل عرق گلاب کی اور ایک بڑی بوتل کیوڑہ کی خرید کر لائیں۔ گھر آکر ایک خالی بڑی بوتل لیں اور اس خالی بوتل میں آدھی بوتل عرق گلاب اور آدھی بوتل کیوڑہ بھر دیں پھر اس بوتل میں ایک عدد عمد نامہ (جو طبع شدہ بازار میں مل جاتا ہے) اڈال کر اس بوتل کو صاف و پاک جگہ اٹھا کر رکھ دیں۔

منگل اور بدھ گزار کر جب نوچندی جمعرات آئے تو بعد نماز عشاء با وضو ہو کر پاک و صاف معطر لباس پہن کر قبلہ رو مصلحہ بچھائیں اور اپنے سامنے اس بوتل کو رکھیں اور دو عدد اگر بتی ساگا کر بسم اللہ شریف پڑھ کر سو بار سورہ اخلاص اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بوتل کا ڈھکنا کھول کر عرقیات پر دم کریں۔ یہ بوتل حاضرات میں کام دے گی۔ جب کبھی حاضرات کرنی ہو شیشے کے پاک و صاف گلاس میں دم شدہ بوتل کا عرق بھریں اور معمول کو جس کی عمر 7 سال تا 12 سال تک ہو۔ گلاس میں دیکھنے کے لئے کہیں اور خود تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر گلاس پر دم کریں حاضرات کا نزول ہو گا۔ اس حاضرات میں دو بزرگ بھائی بابا ولایت علی شاہ اور بابا کفایت علی شاہ حاضر ہوں گے۔ سلام کے بعد عامل معمول کی معرفت اپنا مدعا بیان کرے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش ملے گا۔ اس حاضرات میں ایک پابندی یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ درگاہ بابا ولایت علی شاہ سعید آباد کراچی میں ضرور حاضری دی جائے (بیرونی حضرات کسی شریعی پر فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچادیں) اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب بابا ولایت علی شاہ کو پہنچایا جائے مجھے تو اس درگاہ شریف کی آب و ہوا تک معطر لگتی ہے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے

معزز قارئین کرام آپ کو اس سے زیادہ سہل اور آسان عمل شاید ہی کہیں مل سکے۔

یہ خزانے تجھے ممکن ہے خوابوں میں ملیں

حاضرات سفلی ہریارام

طریقہ : پہلے اس حاضرات کی زکوٰۃ ادا کرے وہ اس طرح کہ نوچندی سنبھڑے سے یہ زکوٰۃ شروع کرے اور کوئی مناسب وقت مقرر کر کے رجال الغیب کا لحاظ رکھتے ہوئے تین دن یہ عمل 575 پانچ سو پچتر بار پڑھے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی عمل یہ ہے۔

”ہریارام اللہ ظاہر ہے“

جب کبھی حاضرات کرنی ہو دس یا بارہ سال کے بچے یا بچی کے دست راست کے انگلیٹھے کے ناخن پر کاجل لگائے اور کاجل پر ایک بوند سرسوں کا تیل لگا کر بچے یا بچی کو اس میں دیکھنے کے لئے کہیں اور عامل بچے یا بچی کے روبرو بیٹھ کر بلا تعذر اور کورہ عمل پڑھے حاضرات کا نزول ہو گا۔

بادر کراؤں کہ یہ سفلی حاضرات پہلی بار متعارف کرائی گئی ہے یہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی یہ ایک صدی طریقہ ہے جو خاندان درخاندان چلا آ رہا تھا اور آپ کے استفادہ کے لئے پہلی بار قلمبند کیا گیا۔ یاد رہے کہ حاضرات کے عملیات بچوں کا کھیل نہیں ہیں کہ ہر کس و ناکس کر گزرے۔ حاضرات کے اعمال میں آپکی ارتکاز توجہ اور روحانی قوت کا بہت زیادہ دخل ہے آپ میں جس قدر روحانی قوت ہوگی اس قدر جلد حاضرات کھلے گی۔ اگر کسی پر خدا نخواستہ حاضرات نہ کھلے تو نظر کھولنے والے اسماء جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ان کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر معمول پر پھونکیں انشاء اللہ فی الفور حاضرات کھل جائے گی۔ حاضرات و نظر کھولنے والے اسماء یہ ہیں۔

مَنْقُوشِ مَبْهُوشِ خَرِشِ خَرْدِشِ فَرْدِشِ

(حاضرات آیت کریمہ نمبر 1)

اس حاضرات میں کیا خصوصیت ہے اس کے منکولات کیا کیا کام سرانجام دے سکتے ہیں یہ آپ کو حاضرات کرنے پر معلوم ہو گا یہ حاضراتوں کی سر تاج حاضرات ہے جس کی سچائی میں کوئی کام نہیں ہے۔ جس پر یہ حاضرات کھلے گی وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو گا کیوں کہ اس

حاضرات میں ذہن و دل اور روح و جسم کی پاکی اور صفائی بنیادی شرط ہے یہاں تک کہ معمول بھی صوم و صلوات کا پابند ہو اور عامل بھی۔ اس حاضرات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں معمول کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے البتہ ایک پابندی ضرور ہے کہ معمول بذات خود عامل نہ ہو بصورت دیگر حاضرات نہیں کھلے گی۔ آیت کریمہ کی یہ حاضرات آپ کے لئے ایک روحانی تحفہ ہے اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے ایسے گوہر نایاب بہت کم ہاتھ آتے ہیں گویا یہ حاضرات یا قوت و مرجان سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔

طریقہ

اس حاضرات کو حاضر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں ایک سرخ رنگ کی موم بتی جلا کر رکھیں اور اس کے ساتھ حاضرات کے منکولات کا توشہ سات عدد گلاب جامن سات عدد گلاب کے پھول رکھیں۔ اس حاضرات میں عامل کا منہ مشرق کی طرف ہو گا اور پیٹھ کعبہ کی طرف ہوگی اور معمول کا منہ جنوب کی طرف ہو گا حاضرات شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور خیال رکھیں کہ موم بتی ایک ہی لوم میں جلتی رہے لو کو ادھر ادھر بھڑکنانہ چاہئے ورنہ معمول کی نظر اور دھیان میں خلل پیدا ہو جائے گا بس اس بات کا زیادہ خیال رکھیں۔

پھر اکتالیس مرتبہ آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** پڑھ کر معمول پر دم کریں اور معمول سے کہیں کہ وہ غور سے موم بتی کی لو کو دیکھتا رہے اس لوم میں دو جن شہنشاہ معظم کی سواری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب شہنشاہ معظم حاضر ہو جائیں تو عامل معمول کی معرفت انہیں سلام کرے جب سلام کا جواب مل جائے تو عامل اپنا مقصد بیان کرے جائز سوال کا فوراً جواب ملے گا اور جو جائز کام شہنشاہ معظم سے کرنے کو کہا جائے گا وہ فوراً اسے انجام دیں گے لیکن کام کی شرط یہ ہے کہ وہ ان سے متعلق ہو جب حاضرات ختم کر لیں تو پہلے شہنشاہ معظم کا شکر یہ ادا کریں اور انہیں جانے کی اجازت دیں۔ بعدہ ختم حاضرات توشہ پر آیت کریمہ کے منکولات کی فاتحہ دی جائے اور نیاز بچوں میں تقسیم کر دی

جائے اور پھولوں کو کسی بزرگ کی قبر پر یا سمندر یا دریا میں ڈال دے۔ یہ حاضرات میرے معمولات میں سے ہے۔ آپ بھی تجربہ کیجئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور آپکی محنتوں کو قبول فرمائے آمین ثم آمین !

ضروری نوٹ : اس حاضرات کو بچہ اپنی پر ہرگز ہرگز نہ کریں ورنہ بچہ دو جنات کو دیکھ کر ڈر و خوف سے بیہوش ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ حاضرات بچوں پر کسی بھی صورت میں نہ کریں تاکیدیہ۔

(حاضرات آیت کریمہ نمبر 2)

یہ حاضرات 10 تا 7 سال کے لڑکائی لڑکی پر ہوتی ہے لڑکائی لڑکی کو اپنے رو برو بٹھاؤ اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لئے کہو۔ جب وہ آنکھیں بند کر لے تو عامل خود یہ عمل ایک بار پڑھے۔

دس بار لا الہ الا انت اور گیارہویں بار پوری آیت کریمہ بچے پر دم کرے اور عامل بچہ یا بچی سے یہ کلمات 5/7 مرتبہ ادا کروائے۔

”اے اللہ اپنے نور کا اندھیرے میں اجالا کر“

پھر چند ثانیے بعد بچہ اپنی سے پوچھے اجالا ہوا یا نہیں؟ اگر بچہ یا بچی نہیں میں جواب دے تو پھر مذکورہ بالا طریقے کے مطابق عمل پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ انشاء اللہ روشنی نظر آئے گی۔ جب بچہ یا بچی بتائے کہ اجالا ہو گیا ہے تو عامل بچہ یا بچی سے کہے کہ جا رو بکشس سے کہو کہ یہاں جھاڑو لگائے۔ جب جا رو بکشس جھاڑو لگا کر چلا جائے تو پھر ماشکی کو بلاؤ کہ یہاں چھڑکاؤ کرے جب ماشکی اپنا کام کر چکے اور چلا جائے تو پھر کہا جائے کہ دریاں بچھاؤ۔ تخت شامی لے کر آؤ۔ درباری حاضر ہوں۔ شہنشاہ معظم کو بلاؤ کہ وہ تخت پر تشریف رکھیں اور دربار لگائیں۔ جب شہنشاہ معظم حاضر ہو جائیں تو عامل بچہ یا بچی کے ذریعہ سلام عرض کرے۔ جب شہنشاہ معظم کی طرف سے سلام کا جواب مل جائے تو عامل اپنا دعایان کرے اور سوال کرے ہر

سوال کا جواب تسلی بخش ملے گا۔

اگر شہنشاہ معظم کسی سوال کا جواب نہ دیں تو عامل بچہ یا بچی معمول کی معرفت کے کہ شہنشاہ معظم اگر ناراض ہیں تو لال رنگ کا جھنڈا دکھائیں اور اگر ناراض نہیں ہیں تو ہرا جھنڈا دکھائیں ہر دو صورتوں میں جھنڈا دکھائی دے گا۔ اگر لال جھنڈا نظر آئے تو حاضرات (شہنشاہ معظم کے شکر یہ کے ساتھ) ختم کر دیں اور اگر ہرا جھنڈا نظر آئے تو حاضرات جاری رکھیں۔ جب عامل حاضرات کرنے بیٹھے تو پانچ عدد گلاب جامن اور دو عدد گلاب کے پھول ایک پلیٹ میں رکھ لے اور دو اگر بتی بھی سلگائے جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے تو شہنشاہ معظم کا شکر یہ ادا کیا جائے اور حاضرات ختم کر دی جائے بعد ختم گلاب جامن معصوم بچوں میں تقسیم کر دی جائے۔

یاد رکھیں : حاضرات کے موقوفات سے کبھی غیر شرعی سوال نہ کریں گو کہ آپ کے مجبور کرنے پر وہ آپ کے غیر شرعی سوال کا جواب تو دے دیں گے۔ لیکن آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہے گا۔ مثلاً بعض صاحبان حاضرات کے موقوفات سے سٹے کا نمبر معلوم کرتے ہیں یا پرائز بانڈ کا نمبر معلوم کرتے ہیں جو ایک غیر شرعی مسئلہ ہے چنانچہ اس قسم کے سوالات سے اجتناب کیا جائے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہاں البتہ سفلی حاضرات کے موقوفات سے اس قسم کے سوال کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن اکثر تجربہ میں آیا ہے کہ اگر سفلی حاضرات کے موقوفات سے سٹے یا پرائز بانڈ یا لائٹری کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ عامل کو مس گائیڈ کرتے ہیں لہذا سفلی حاضرات کے موقوفات کے جواب کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگانا عامل کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ حاضرات سے درست جواب حاصل کرنے کے لئے کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟

حاضرات چوری کی گئی شے کی دستیابی و چوری کی گرفتاری
مرغی کے انڈے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تَبَارَكَ

الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا
تَرَىٰ فِيهَا خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۗ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ
الْبَصَرُ حَامِئًا وَهُوَ حَاسِرٌ ۗ لَكَ لَكَّةٌ كَرْنُكَ هُوَ جَاءَ تَوَقُّلًا يَاعْطَرُجُ كَر كَر
لڑکے کو دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ انڈے کی طرف دیکھتا ہے اور عامل (آپ) سورہ
-نہیں پڑھتا ہے اور لڑکے سے دریافت کرتا ہے۔ لڑکا چور کا پورا حال و حلیہ بتائے گا یہ ایک
عجیب راز و بھید کا عمل ہے ہر کسی سے ظاہر کرنے کا نہیں ہے نا اہلوں سے چھپانا چاہئے کہ وہ ایسے
راز کو عام طور سے فاش نہ کریں۔ فقیر نے اس عمل سے سینکڑوں چور اور چوریاں پکڑوائی ہیں
یہ عمل کبھی خطای نہیں کرتا۔ آزمائش شرط ہے۔

حاضرات گرفتاری سارق (چور)

ایک مشک خالی لے کر اس کے اوپر آیت الکرسی اور یہ سات نام انبیاء علیہ السلام
نوح، لوط، صالح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد
صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لکھیں پھر الگ الگ ایک ایک نام کے
ساتھ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر مشک میں پھونکیں اور ہر مرتبہ آیت الکرسی کے بعد
یہ پڑھتے جائیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمَا اَرْسَلْتَ هَذَا اَنْ
تَنْفُخَ بَطْنَ هَذَا السَّارِقِ کَمَا نَفَخْتَ هَذِهِ الْقُرْاٰیةَ جب
سات پھونکیں پوری ہو جائیں تو مشک کا منہ باندھ کر لٹکادیں چور کا پیٹ انشاء اللہ تعالیٰ بہت
بخت پھول جائے گا اور چور مال واپس لے کر آئے گا۔

حاضرات سحر و تشخیص الامراض

اگر کسی پر سحر و جادو یا کسی بیماری کا پہچانا منظور ہو کہ کیا غلط ہے جو ایسی تکلیف ہو رہی
ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۗ اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ رُوَاحِ بِاِ لَشَّیْطٰنِ اَحْضُرُوْا یَا
اَصْحَابَ الْجِنِّ وَ الشَّیْطٰنِ وَ یَا اَصْحَابَ السِّحْرِ
الْوَسْوَسِ الْخَنَّاسِ جو کچھ کہ آسب جن و پری دیو و بھوت و چڑیل و غیبی و
سحر و جادو ہر بلا کہ موجود ہو اس فلاں شخص بیٹے فلاں کے بدن پر مسلط ہوا ہے اور آزار پہنچاتا
ہے اور مزاحمت علاج معالجہ کی کرتا ہے اس نقش میں حاضر ہو حاضر ہو۔ اے منوگلو اس
تعویذ میں دکھاؤ۔

حاضرات کا نقش

۷۸۶

یا میکائیل

یا جبرائیل

۳۲۴	۳۲۷	۳۳۰	۳۱۷
۳۲۹	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۸
۳۱۹	۳۳۲	۳۲۵	۳۲۲
۳۲۶	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۱

یا عزرائیل

بِحَقِّ یَا بَدُوْحِ یَا بَدُوْحِ

یا اسرافیل

اوپر لکھا ہوا عمل تھوڑے پھول خوشبودار پر سات یا گیارہ مرتبہ یا اکیس بار پڑھ کر
پھونکے اور اپنے دانے ہاتھ سے مریض کے دانے ہاتھ میں دیدے اور کہے کہ وہ ان کو سونگھے
اور تھوڑا عطر تعویذ کی سیاہی میں لگا دے اور کہے کہ اس نقش کی سیاہی میں دیکھ اور ان پھولوں
کو سونگھے اگر آسب ہو گا تو بدن بیمار کا بھاری ہو جائے گا اور سر پر آجائے گا یا نقش کی سیاہی میں
نظر آنے لگے گا اس وقت جلن لیں کہ آسب ہے اور اگر بدن پر چھوٹیاں سی چلیں اور سونگی

جیسی چھبیس تو جانیں کہ جادو ہے۔ حاضرات کرنے سے پہلے اس حاضرات کے متوکلات کا توشہ ایک پاؤ برنی چند عدد گلاب کے پھول اور مندی سبز و خشک رکھیں بعد حاضرات برنی بچوں میں تقسیم کر دیں۔

حاضرات کل عالم و کل شہنشاہ جنات

یا اسرائیل	۷۸۶	یا ہیرائیل
۲۷	۲۰	۲۵
۲۲	۲۳	۲۶
۲۳	۲۸	۲۱
یا اسمعیل	بحق یا بایسط	یا ہواکیل

طریقہ : یہ حاضرات دن ہو یا رات ہر وقت کار آمد ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا نقش بچہ اپنی کودیدے اور تھوڑا سا عطر سیاہ خانہ میں لگا دے اور کہے کہ اس نقش کی سیاہی میں غور سے دیکھ اور عال آیت کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ برابر بلا تعداد پڑھتا رہے اور بچے پر برابر پھونکتا رہے تھوڑی ہی دیر میں شاہ بکتانوش کی حاضری ہو جائے گی یا جس بادشاہ کی حاضری کرے حاضر ہو گا خواہ وہ بادشاہ جنات ہو یا کسی ملک کا بادشاہ یا انسان جس کے لئے حاضرات کرے گا وہی آجائے گا۔ اس نقش میں جو اوپر لکھا گیا ہے اسم یا بایسط ہے جس سے سارے عالم کی حاضرات ہوتی ہے۔ حاضرات کرنے سے پہلے اس حاضرات کے متوکلات کا توشہ ایک پاؤ برنی چند عدد گلاب کے

پھول اور مندی خشک رکھیں بعد حاضرات برنی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ حاضرات آپ بڑے لوگوں پر بھی کر سکتے ہیں اس میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ اس حاضرات میں عامل خود بھی دیکھ سکتا ہے۔

حاضرات بادشاہ ملک قیقطوش

عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِبَيْتٍ بَيْتًا بَيْتًا خِيَا خِيَا طَرَسَا طَرَسَا حاضرتیں حاضر متیں حاضر متیں حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو اے بادشاہ ملک قیقطوش حاضر ہو اے سفید دیو یا راور جینی یا لایک غابور سے یا لونانہ ہماری یا کشنہ ہماری بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام جلدی حاضر ہو جلدی حاضر ہو جلدی حاضر ہو۔

طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت کو اکتالیس مرتبہ یا اکیس مرتبہ اکیس یوم تک پادشہ ہو کر پڑھے تو اس عزیمت کا عامل ہو جائے گا جب کبھی بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی بچہ اپنی کے دست راست کے انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگائے۔ بچے کی عمر 10 یا 12 سال سے زائد نہ ہو۔

کاجل پر ایک بوند سرسوں کا تیل لگا کر بچہ یا بچی کو اس میں دیکھنے کے لئے کہے اور عامل مندرجہ بالا عزیمت صرف سات بار پڑھ کر بچے پر دم کرے تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ ملک قیقطوش کی حاضری ہو جائے گی جس سے آپ اپنے تمام مسائل کا حل سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات بادشاہ بکتانوش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَادِشَاهَ بَكْتَانُوشَ مَلِكِ الْجَيْشِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِحَقِّ أَبِي جَمْهُورِشِ أَخُوكَ أَخُوكَ أَي تَاجِ الْمَلِكِ أَنْبِكَ أَنْبِكَ نَجِيًّا نَجِيًّا سَاعَتَهُ سَاعَتَهُ كَحَوْلَتِهِ كَحَوْلَتِهِ حَطْمًا حَطْمًا

مَيْسَرًا مَيْسَرًا عَجَلًا عَجَلًا يَا شَاهِ بَكْتَانُوشِ أَحْضَرُو
 أَحْضَرُو جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَحْضَرُو أَحْضَرُو
 مِنْ جَانِبِ الشِّمَالِ وَالْجَنُوبِ أَحْضَرُو أَحْضَرُو مِنْ
 جَانِبِ لَا يَمِينِ وَلَا يَسْرِبِ حَقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ يَا مَنْوُ كِلَانِ عَزِيْمَتِ حَاضِرُشُو حَاضِرُ
 شُو-

طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت کو اکتالیس مرتبہ یا اکیس مرتبہ ایکس یوم تک با وضو ہو کر
 اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس عزیمت کا عامل بن جائے گا۔

جب بھی حاضرات کرنی ہو یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی بچہ یا بچی کو جس کی عمر 7 تا 12 سال
 ہو اس کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگائے اور اس پر تھوڑا سا عطر لگائے اور بچہ اپنی کو
 اس میں دیکھنے کے لئے کہے اور خود مندرجہ بالا عزیمت سات یا گیارہ بار پڑھ کر بچے پر دم کرے
 تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ بکتانوش کی حاضرات ہو جائے گی جس کے ذریعے آپ ہر قسم کے
 سوالات کے جوابات سونی صد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

ضروری نوٹ : حاضرات کا نقش صرف ایک ہی مرتبہ کام کرتا ہے اگر دوبارہ
 حاضرات کرنی ہو تو پھر نیا نقش لکھنا پڑیگا تب حاضرات کھلے گی ورنہ حاضرات نہ ہوگی نقش صرف
 ایک ہی مرتبہ کار آمد ہوتا ہے۔

حاضرات

عَزَّ مَتْ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِخَاتِمِ
 سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَرْبًا غَرْبًا كَهَلًا كَهَلًا
 مَهَلًا مَهَلًا سَرِيْعًا نَيْبًا وَصَفِ جَنِّ شَاهِ مَلِكِ
 بَكْتَانُوشِ سُخِ شَاهِ تَاجِ الْمَلِكِ حَاضِرُشُو حَاضِرُ

شُو جِنِّ دِيُو پَرِي حَاضِرُشُو حَاضِرُشُو حَاضِرُشُو -
 طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت کو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں
 بعد سات دن ایک سو سات مرتبہ پڑھیں۔

اب جب بھی حاضرات کرنی ہو تو دس یا بارہ سال کے بچے پر مندرجہ بالا عزیمت چالیس
 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو چینی کی پلیٹ میں جو نقش بنایا ہے اس کے سیاہ خانہ میں دیکھنے کو
 کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاء اللہ حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم
 کے سوالات کے جوابات سونی صد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ چینی کی پلیٹ میں جو حاضرات کا
 نقش بنایا جائے گا وہ مندرجہ ذیل ہے۔

حاضرات کا نقش

۷۸۶

جبرائیلؑ	۲۳۷	میکائیلؑ
۳۸۲		۱۱۲
اسرافیلؑ	۳۱۹	عزرائیلؑ

حاضرات چوری کی گئی شے کی دستیابی و چوری کی گرفتاری

مندرجہ ذیل نقش کے تین یا سات فیتلے تیار کرے اور صاحب خانہ کے گھر میں چراغ
 روشن کرے یا آگ میں جلانے یا کوری ٹھیکری پر لکھ کر آگ کے نیچے دفن کر دے۔ ایسا کرنے
 سے چور کو یقیناً تکلیف ہوگی اور وہ مال واپس کرنے پر مجبور ہو گا ورنہ اس کو اس سال کی بیماری
 لاحق ہوگی یا سخت بیمار ہو گا۔

یا عامل ایسا نہ کر سکے تو اس کا دوسرا طریقہ حاضرات کا ہے۔ ان دو نقشوں میں جہاں جہاں
 ہم نے سیاہ نشان لگائے ہیں وہاں عامل بچہ کو نقش میں دیکھنے کو کہے اور آپ آیت کریمہ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾ اتالیس مرتبہ نیچے پر پڑھ کر دم کرے۔ تھوڑی سی دیر میں ماضرات کا نزل ہو جائے گا اور نیچے کو چور کی شکل واضح نظر آجائے گی اور پچھ چور کا تمام طیبہ و احوال بتا دے گا۔

ماضرات کے نقش مندرجہ ذیل ہیں

یا اسرائیل	۷۸۶	یا میکائیل
۱۱۱	۱۲۳	۱۱۸
۱۲۳	۱۱۲	۱۲۳
۱۱۶	۱۲۶	۱۱۳
۱۲۵	۱۱۵	۱۲۰

یا اسرائیل چور کو تکلیف داسہاں کی بیماری ہو یا عزرائیل

یا اسرائیل

۱۶۵۸	۱۶۵۱	۱۶۵۶
۱۶۵۳	۱۶۵۵	۱۶۵۷
۱۶۵۲	۱۶۵۹	۱۶۵۲

یا اسرائیل چور کو تکلیف داسہاں کی بیماری ہو یا عزرائیل

اگر طریق بالا پر عمل کرنے سے مال واپس نہ ملے تو پھر سورہ اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوْتِرَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اتالیس بار سرسوں یا رانی پر پڑھ کر دم کرے اور ان کو لوہان میں ملا کر چوری والے گھر میں دھونی دے تین دن کے اندر چور کو سخت تکلیف ہوگی۔ لیکن جب "هُوَ الْاَبْتَرُ" پر آئے تو اس طرح

کے۔ السَّارِقُ مَالٍ اَبْتَرًا بْتَرًا بْتَرًا۔

انشاء اللہ چوتھے روز بعد مال کے حاضر ہو گا۔

اگر چاند کے مینے کی 27 یا 29 تاریخ کو مٹی پر اس طرح دم کر کے دشمن کے مکان یا کسی بھی دکان میں اس مٹی کو پھینک دے تو بے شک و شبہ دشمن کی دکان یا کاروبار تباہ ہو گا اور گھر اجڑ جائے گا۔ تجربہ ہے۔

چور کو تکلیف دینا اور اس سے مال واپس لے کر آنا

مندرجہ ذیل طلسم کو کانڈ کے ٹکڑے پر مع اس آیت شریف کے تحریر کرو پھر مشتبہ لوگوں سے کہہ دے کہ جس نے میرا مال چرایا ہے دیدے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اقرار نہ کرے تو تب یہ عمل کرے۔ طلسم آیت شریف کے لکھ کر اس کو مشک (مشکیزہ) میں رکھ کر اس میں ہوا بھرے۔ پھر اس کا منہ اس ذوری سے جس سے کہ عورتیں بال باندھتی ہیں۔ (پنجابی میں جس کو پراندہ کہتے ہیں) باندھے تاکہ ہوا نہ نکل سکے۔ اس کے بعد اس مشک کو اس جگہ لٹکا دے جہاں سے مال چوری کیا ہو اور ایک انار کی لکڑی لے کر تین دفعہ آہستہ آہستہ مشک پر مارے اور کہے کہ چور کاپیٹ بھی مشک کی طرح پھول جائے۔ خدا کے حکم سے جوں ہی ایسا کیا جائے گا تو اس چور کا سانس لینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا مشکل ہو جائے گا جب تک کہ وہ مال واپس نہ کرے گا۔ جب چور مال واپس کر دے تو مشک کو فوراً کھول دے جو نمی ہوا نکلے گی چور کاپیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آجائے گا۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہوا عمل ہے۔

طلسم یہ ہے۔

اَفْرَايْتُمْ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هُوَ الْاَلَا وَاَضَلَّ لَهٗ الْاَلٰهَ وَ عَلٰى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشْوَةً وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الْاَلٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

چاہئے کہ وہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور کورے کپڑے پر بیٹھ کر عمل پڑھے ایک چراغ
سرسوں کے تیل کا جلائے رات بارہ بجے یہ عمل کرے مسان کی راکھ رکھ کر یا مسان میں
پڑھے۔ ایک عدد بڑے سائز کا سفید کانڈلے ایک پیالہ شراب اور سیندور رکھے۔ شراب میں
انگلی ڈبو کر سیندور لگائے اور ایک مرتبہ مندرجہ بالا اسم پڑھ کر ایک نشان کانڈل پر لگائے۔
اندرونا مشا اور دوسرا اسم پڑھ کر دوسرا نشان کانڈل پر پدرونا مشا لگائے۔ اس طرح یہ عمل
ایک سو ایک بار کرے اکیس رات کا عمل ہے اسی طرح اکیس رات عمل کرے اکیسویں رات
اندرونا مشا اور پدرونا مشا حاضر ہوں گی اور تابع ہو کر ہر کام بخوشی بجالائیں گی۔ (آزمودہ)

حاضرات سحر گلاب

سحر گلاب بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام

طریقہ : گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اکتالیس بار مندرجہ بالا عزیمت پڑھے۔ سحر
گلاب حاضر ہوگی اور آپکے دائیں ہاتھ پر وزن ڈالے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات بارہ
بجے کے بعد ایک کانڈل پر اپنا سوال لکھے اور کانڈل قلم تکیہ کے قریب ہی رکھ لے۔ گیارہ بار درود
شریف اور اکتالیس مرتبہ سحر گلاب بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام پڑھے اور تکیہ پر سر رکھ کر
سو جائے سحر گلاب حاضر ہو کر آپ کو سوتے ہوئے اٹھائے گی اور جواب لکھوائے گی یہ عمل
میرے بحرات میں سے ہے۔

حاضرات ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین ۞

طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت با وضو بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود
شریف پڑھیں اور روزانہ قبلہ رخ بیٹھ کر اگر بتی ساگرا آٹھ سو چھتیس مرتبہ چالیس یوم پڑھیں
اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر جب بھی کبھی ضرورت پڑے یا حاضرات کی

ضرورت پیش آئے تو بچہ یا بچی کے دائیں انگوٹھے پر کابل لگائیں اور تھوڑا سا عطر بھی لگائیں تا
کہ چمک پیدا ہو۔ اب بچے کو دیکھنے کے لئے کہیں اور آپ (عامل) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ
کر اکتالیس مرتبہ ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین ۞ پڑھ کر بچے پر دم کرے
تھوڑی ہی دیر میں ماضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کے مشکل سے مشکل
سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عزیمت استخارہ کا بھی
کام دیتی ہے۔

دیگر اگر بچے پر نقش کے ذریعے ماضرات کھولنی ہو تو مندرجہ ذیل نقش میں جہاں ہم نے
سیاہ نشان لگایا ہے یعنی خانہ نمبر 16 میں بچے کو دیکھنے کے لئے کہیں اگر لڑکی ہو تو 12 سے 14
سال تک کی ماضرات میں دیکھ سکتی ہے۔ عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر مندرجہ
بالا آیت ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین ۞ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پھونکے
تھوڑی ہی دیر میں ماضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات اور سوالات
کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات کا نقش

یا میکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

۲۰۸	۲۱۲	۲۱۵	۲۰۱
۲۱۲	۲۰۲	۲۰۷	۲۱۳
۲۰۳	۲۱۷	۲۱۰	۲۰۶
۲۱۱	۲۰۵	۲۰۴	۲۱۶

یا عزرائیل


بحق ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین حاضرات حاضرو
حاضرشو

یا اسرافیل

ماضرات واسطے حاضر کرنے جنوں کے اور واسطے نکالنے جنوں کے ماضرات

عزمت علیکم برب افاعیل و اسماعیل ملکین
مَسْلَطًا يَا سَلَّطِينَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ درد ہدش
بینگندش بحرمت این نامہا این نامہا این نامہا
حاضر شو حاضر شو زود آمد زود آمد دیدہ حاضرہ
واسطے حاضر کرنے جنوں کے اور واسطے نکالنے جنوں
کے بے لیکن بوقت خروج کہے خارج شو خارج شو
حاضرہ دیگر

علیقا علیقا انت تعلم مافی قلوبہم طلیقا
صدیقاً صدیقاً طلیقا۔



نفس برائے جن کار

این ہر دو نقش ہاں بسرخ نوشتہ مقابله امین ذی الجن
دارند فی الحال جن بیاید و حاضرہ بخواند

جن و شیاطین کو حاضر کرنے کا باب

بذریعہ ماضرات

عزیمت احضار جن و شیاطین وغیرہ

جس کسی آدمی پر جن شیاطین وغیرہ کا اثر ہو اور عامل چاہے کہ اس شخص منوثر کے بدن
میں وہ آسیب حاضر ہو جائے یا کہ اور طریق سے حاضر کرنا چاہے تو ان عزیمتوں کو پڑھے۔ اور یہ
ترکیب استعمال کرے یعنی آیہ کریمہ **أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ**
عِبثًا کو آخر (سپارہ ۱۸ آیت ۱۱۵) تک تین بار اور اوپر اشیائے بد بو پیاز کا چھلکا لہسن اور
بلدی کوئی ہوئی اور مینڈھے (بھیڑ) کے بال کے اوپر پڑھ کر دم کرے اور جلاھے۔ اسی وقت جن
آسیب حاضر ہو کر ہم کلام ہو گا سب احوال اپنا کہے گا مگر وہاں اس کا شخص مذکور یعنی آسیب زدہ
تک پہنچا کرے بلکہ اس کے سامنے جلائے۔

عزیمت احضار جن و شیاطین

ہر وقت حاضر کرنے ان کے پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ
وَاقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ بِمَا عَزَمَ اللّٰهُ عَلٰی السَّمٰوٰتِ
فَارْتَفِعَ وَ عَلٰی الْاَرْضِ فَسَطَحَتْ وَ عَلٰی الْجِبَالِ
فَارْسَتْ وَ عَلٰی النَّیْرَانِ فَسَعِرَتْ اِنْ كُنْتُمْ فِی شَرْقٍ اَوْ
غَرْبٍ اَوْ جَنُوبٍ اَوْ شَمَالٍ بِحَقِّ ہٰذِہِ الْاَسْمَاءِ فَتَمَثَّلُوْا
بَشَرًا سَوِیًّا سَوِیًّا ہِیَّا شَرٰہِیَّا شَرٰہِیَّا الْوَحَا
الْوَحَا الْوَحَا السَّاعِثَہُ السَّاعِثَہُ السَّاعِثَہُ السَّاعِثَہُ
العجل العجل العجل الآن بحکم خاتم سلیمان

بن داؤد علیہما السلام أَحْفَرُوا أَحْفَرُوا أَحْفَرُوا -

عزیمت احضار جن وغیرہ

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ شَقِيقًا شَقِيقًا عَطِيبًا
عَطِيبًا طَلِيبًا طَلِيبًا مَلِيبًا مَلِيبًا سَرْدًا سَرْدًا
كَرْدًا كَرْدًا كَهَلًا كَهَلًا مَبَلًا مَبَلًا بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَبِيبًا بَوْنًا بَوْنًا أَنَا عَصِي مَنْ
يَكُونُ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ
إِسْرَائِيلَ وَعِزْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَإِنَّهُ بِخَيْتِشِ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِي سَخَّرَهُ لِرِيحِ
أَلَّا جِبْتُمْ سَرِيعًا إِنَّكَ حَاضِرُشِو حَاضِرُشِو أَيُّهَا
الْجَانُّ وَ سُلْطَانُ الْجَانِّ أَحْضَرُوا فِي هَذِهِ الْمَكَانِ
عَجَلُوا عَجَلُوا عَجَلُوا -

عزیمت احضار جن وغیرہ

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَنَّهُ بِمَا
أَبْرَبُوا بِمَاوَابْرَصُوا بِمَاو أَحْضَرُوا نَبِيَّ مُحَمَّدٍ شَاهِ بَادَن
اللَّهُ تَعَالَى بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ
حَاضِرُشِو حَاضِرُشِو حَاضِرُشِو -

عزیمت احضار جن وغیرہ

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتَحُونُ

فَتَحُونُ حَبِيبَكَ حَبِيبَكَ الْمِيمَا الْمِيمَا صَفَكَ
صَفَكَ أَلَا أَلَا بَلِيبًا بَلِيبًا طَلِيبًا طَلِيبًا
سُورِدًا سُورِدًا كَهَلًا كَهَلًا شَخْبًا شَخْبًا شَدِيدًا
شَدِيدًا ابْنِيَا ابْنِيَا سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ
أَحْضَرُوا صَاحِبَ الْجَنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ جَنَابِ
الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَ مِنْ جَنَابِ الْجَنُوبِ
وَالشَّمَالِ مِنْ جَنَابِ الْيَمَنِ وَالْأَيْسَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
بِحَقِّ مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَيُّهَا
الْحَيَّانُ وَ سُلْطَانُ الْجَانِّ أَحْضَرُوا عَجَلُوا سَامِعًا
مَطِيعًا -

عزیمت احضار جن شیاطین وغیرہ

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَرْوَاحِ الشَّيَاطِينِ وَ يَا أَصْحَابَ
التَّيْحَرِ وَ لَيْلُوسَ وَ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسِي شَرَّ
الْجَنُودِ وَ الْإِبْلِيسِ وَ يَا قَنُودَ الْمَلِكِ وَ يَا مَيْمُونِ
الْمَلِكِ وَ يَا نُورَ الَّذِي أَقْوَى بِحَقِّ مَيْمُونِ زَنْگِي وَ
بِحَقِّ مَيْمُونِ حَبِيبِي وَ بِحَقِّ نُورِي وَ بِحَقِّ صَاحِبِ
الْأَعْوَانِ الْهِنْدِيِّ أَخْرِجْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْجَنِينِ أَخْرِجْ مِنَ
الْمَادِرِ وَ لِعَفْرِيتِ أَخْرِجْ مِنَ الْخَنَّاسِ مِنَ الْجَنُودِ وَ
الْإِبْلِيسِ أَخْرِجْ مِنَ الْوَادِي مِنَ الْبَارِي أَخْرِجْ مِنَ
الْكُونِ وَ الْأَكْنَانِ أَخْرِجْ مِنَ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِنَ الشَّجَرِ

وَالْأَشْجَارَ أَخْرِجْ مِنَ الْاَكْنَانِ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ
 مَقَامٍ بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ آصَفِ بْنِ بَرَخِيَا بِرَخِيَا بِحَقِّ قَيْقَطُوشِ
 شَطْرَجِنِ وَالشَّيَاطِينِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ يَا قَوْلَ يَا قَوْلَانَ يَا خُوخُلَ خُوخُلَانَ يَا
 بَرَكَلَ بَرَكَلَانَ يَا عَجُوزَامَ الصَّبِيَّانِ خُذَا تَبِعَ يَا شِرَالَا
 خَيْرَ خُذْ خَيْرَ هَذَا هَذَا يَا شِرَالَا خُذَا الْفَرَزَ بِحَقِّ جَمِيعِ
 التَّوْرَةِ مُوسَى وَبِحَقِّ جَمِيعِ الْاَبْنِيَّاتِ عِيسَى وَ
 بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَبِحَقِّ الْمَرْقَانِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقِّ جَمِيعِ الْكُتُبِ
 الَّتِي أَنْزَلْتَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ
 قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ تَمَّ بِرَبِّهِ اسْئَلُكَ بِرَبِّكَ وَامْتَازُوا
 الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا مِنْ
 جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا
 مِنْ جَانِبِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ بِرُجْهٍ بَاشِدِ أَبِي
 خَاكِي آتَشِي بَادِي دَرُو جُو دَفْلَانِ بِنِ فِلَانِ حَاضِرْشُو
 حَاضِرْشُو حَاضِرْشُو بِحَقِّ سَيِّدِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ كِيْلَانِي رَحْمَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِحَقِّ
 مَخْدُومِ جِهَانِيَا سَيِّدِ جَلَالِ بَخَارِي قُدُسِ اللَّهِ سِرَّةِ
 الْعَزِيزِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدِ غُوثِ الْيَرِي رَحْمَةِ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَبِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

عزیمت احضار (حاضر کرنا) جن وشیاطین

عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا
 مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجِيبُوا أَيُّهَا الْمَلُوكُ كِ أَرَاضِيَّتَهُ
 بِذَا لَعِيدِ الْمَاخُودِ عَلَيْكُمْ بِحَقِّ بَشَعِ أَمُوَيْلِ إِيْلِ
 لَكَهْطَهْطُونِيهِ بِشَارِشِ طَارِشِ طَارِشِ شَمَخَا بَارُوخِ
 يَا إِلَهَ وَالرَّفِيعِ جَلَالَةَ الطَّاهِرِ مَكَانَهُ وَ سُلْطَانَهُ
 صَاحِبِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ السُّلْطَانِ وَالْعِزِّ وَالْجَبْرُوتِ
 الْآ مَا أَجَبْتُمْ وَتَوَكَّلْتُمْ بِقَضَاءِ حَاجَتِي
 بِكَذِّابِكْذِابِكْذِابِكْ بِدَلِّ نَامِ اِبْنِ مَلِكِ كَالِي - حاجت اپنی بیان کرنے کے
 بعد کے: أَجِيبُوا بِحَقِّ الْمَلِكِ طَيْطَمِ عَيْلِيَا وَبِحَقِّ أَهْيَا
 أَشْرَاهِيَا أَذُونَايَ أَصْبَاوُوثِ اِلْ شِدَايِ عَالِيْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ أَجِيبُوا وَادْفَعُوا كَذَا وَ
 كَذَا بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ الْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا
 الْعَجَلِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ
 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ وَ
 عَلَيْكُمْ بَخِجْ بَخِجْ بِسَلَامِ بَارُوخِ بِعِزَّةِ لَمِيْطِ ظِيْطِيْطِ
 بِسَمِطِ مِيْشَا حَمَامِيْشَا صَرْفِيَا ئِيْلِ اِفْتَائِيْلِ تَكْهِيْلِ
 عَجَلُوا عَجَلُوا عَجَلُوا أَحْضَرُوا الْآنَ بِحَكْمِ خَاتَمِ
 سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِحَقِّ مُحَمَّدِ

مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عزیمت احضار جن و شیاطین وغیرہ حاضر کرنے کے

یہ عزیمت تین مرتبہ پڑھے۔ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعِزَّتِ اللَّهِ وَ قَدْرَتِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِ اللَّهِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ بِحَقِّ أَهْلِهَا وَ شَرَاهِيهَا الْعَجَلِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ "یا جیم" کو سو بار پڑھے پس تین بار اس عزیمت کے پڑھنے سے "یا جیم" کو سو بار پڑھنے سے آسیب حاضر ہوگا۔

جسم میں حاضر کرنے کے لئے

سورہ لا ینلاف قریبش اور آیت الکرسی اور آیتہ کریمہ فکبکبو فیہا ہم الغائون و جنود ابلیس اجمعون پڑھے کہ مجرب ہے۔

حاضرات کے نقش

معلوم ہو کہ حاضر کرتے وقت ان نقشوں میں سے ایک نقش لکھ کے عمل احضار کرے۔ بعض میں حاضری کے وقت زمین میں لکھ کر اس پر بٹھاتے ہیں اور بعض سر میں رکھتے ہیں۔ بعض کندست پر لکھتے ہیں وہ نقش معہ بیان عمل اس جگہ تحریر ہوتے ہیں۔ یہ نقش نامہ ہے اسے لکھ کر سر میں رکھے اگر شخص آسیب زدہ کے آنک میں آنے چاہے تو مضائقہ نہیں وگرنہ لازم ہے کہ دوسرے کاموں میں طفل نابالغ کو واسطے حاضری کے بٹھائیں۔

یہ نقش نامہ ہے اسے لکھ کر سر میں رکھے جن بھوت آسیب فوراً حاضر ہو کر ہر کلام ہوگا۔

نقش نامہ ۷۸۶

یا مسکائیل	۲۵	۲۰	یا جبرائیل
۲۶	۲۲		۲۲
یا عنزائیل	۲۱	۲۸	یا اسرافیل

اس نقش کو زمین پر لکھ کے بٹھائے

بدوح

۸	۲	۱۰
۹	۷	۴
۳	۱۱	۶

ایضاً اس نقش کو زمین پر لکھ کے بٹھائے

خوا


۶	۱	۸
۷	۵	۴
۲	۹	۳

اس نقش کو زمین پر لکھ کے طفل نابالغ کو حاضرات میں بٹھائے یا کہ طفل مذکور کے ہتھیلی پر لکھے۔ شکل یہ ہے۔

قراطیس قراطیس قراطیس قراطیس علیقا علیقا حلیقا حلیقا طلیقا

سام اووس	داووع عییم الفتنه	سام اووس
۲۷	۲۰	۲۵
۲۲	۲۳	۲۶
۲۳	۲۸	۲۱

اس شکل کو بھی زمین کے اوپر ثبت کر کے طفل نابالغ کو اس میں بٹھائے یا کہ وہ شخص جو آسیب زدہ ہو اسے اس نقش میں بٹھا کر اس کے روبرو لسن اور ہلدی کوئی ہوئی اور (بھیش) کے بال جس پر آیہ آفَحَسْبُكُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا (سپارہ ۱۸ آیت ۱۱۵) کو آخر تک تین بار پڑھ کر دم کرے اور جلاوے اور دھواں آسیب زدہ کی ناک میں پہنچے اسی وقت آسیب حاضر ہو کر ہم کلام ہو گا سب احوال اپنا کہے گا۔ مجرب است۔



اس شکل کو زمین پر ثبت کر کے طفل نابالغ کو اس میں بٹھائے یا جو شخص آسیب زدہ ہو اسے اس نقش میں بٹھائے یا سر میں رکھیں یا کف دست پر لکھیں جن 'بھوت' آسیب فوراً حاضر ہو کر ہم کلام ہو گا۔

حاضرات کلمہ طیبہ

حاضرات 7 تا 12 سال کے لڑکا / لڑکی پر ہوتی ہے لڑکا یا لڑکی اپنے روبرو بٹھاؤ اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لئے کہو جب وہ آنکھیں بند کر لے تو عامل خود یہ عمل ایک بار پڑھے۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اور دس بار لا الہ الا اللہ مُحَمَّدَ رَسُوْلُ اللہ بیچے پر دم کر کے عامل بیچے سے یہ الفاظ تین مرتبہ کہلوائے۔

”اے اللہ اپنے نور کا اندھیرے میں اجالا کر“

پھر چند ثانیے بعد بچہ / بچی سے پوچھے اجالا ہو آیا نہیں؟ اگر بچہ نہیں میں جواب دے تو پھر مذکورہ بالا طریقے کے مطابق عمل پڑھ کر بیچے پر دم کریں انشاء اللہ روشنی نظر آئے گی۔
 جب بچہ / بچی بتائے کہ اجالا ہو گیا ہے تو عامل بچہ سے کہے کہ جا روب کشس سے کہو کہ یہاں جھاڑو لگائے۔ جب جا روب کشس جھاڑو لگا کر چلا جائے تو پھر ماشکی کو بلاؤ کہ یہاں چھڑکاؤ کرے جب ماشکی اپنا کام کر چکے تو کہنا جائے کہ دریاں بچھاؤ۔ تخت شاہی لیکر آؤ درباری حاضر ہوں۔ شہنشاہ معظم کو بلاؤ کہ وہ تخت پر تشریف رکھیں اور دربار لگائیں۔ جب شہنشاہ معظم حاضر ہو جائیں تو عامل بچہ یا بچی کے ذریعے سلام عرض کرے۔ جب شہنشاہ معظم کی طرف سے سلام کا جواب مل جائے تو عامل اپنا مدعا بیان کرے۔ اور سوال کرے ہر سوال کا جواب تسلی

بخش ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اگر شہنشاہ معظم کسی سوال کا جواب نہ دیں تو عامل بچہ / بچی معمول کی معرفت کہے کہ شہنشاہ معظم اگر ناراض ہیں تو لال رنگ کا جھنڈا دکھائیں اور اگر ناراض نہیں ہیں تو ہرا جھنڈا دکھائیں ہر دو صورتوں میں جھنڈا دکھائی دے گا۔ اگر لال جھنڈا نظر آئے تو حاضرات (شہنشاہ معظم کے شکر یہ کے ساتھ) ختم کر دیں اور اگر ہرا جھنڈا نظر آئے تو حاضرات جاری رکھیں۔ جب عامل حاضرات کرنے بیٹھے تو پانچ عدد گلاب جامن اور دو عدد گلاب کے پھول ایک پلیٹ میں رکھ لے اور دو اگر جتنی بھی سلگائے۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے تو شہنشاہ معظم کا شکر یہ ادا کیا جائے اور حاضرات ختم کر دی جائے بعدہ ختم گلاب جامن معصوم بچوں میں تقسیم کر دی جائے۔


عمل حاضرات

بیاری 'غائب' اشیاء کی چوری اور تمام سوالات کا جواب سو فیصد درست حاضر کرنا۔ جس دن مطلع صاف ہو عمل کرے۔ نابالغ بچے کو نملائے۔ اچھے پاکیزہ کپڑے پہنائے اس پر عطر بھی لگائے اور یہ آیت کاغذ پر لکھ کر بچے کے ماتھے پر کسی دھاگے سے باندھ دے
فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَذِبِكَ فَصَرَكَ الیَوْمَ حَدِيدًا
(۲۶ پارہ) نُسْرَى اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ (۷ پارہ)۔

اس کے بعد اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر بچے کی ہتھیلی پر رکھے نقش کے درمیان گول حلقہ سیاہ بنائے اور بچے سے کہے کہ وہ اپنی مٹھی بند نہ کرے بلکہ اس نقش کو ہتھیلی باندھ کر نہایت غور سے سیاہ نقطہ کو دیکھتا رہے اور اپنی نظر نہ ہٹائے۔

نقش یہ ہے۔

جبرائیل



نقش کو ہتھیلی پر رکھ کر آیت الکرسی پڑھے اور سورہ یاسین مَقْمُھُوْن تک پڑھے اور بچے کے جسم پر پونک دے پھر ورد شروع کرے اطرور پڑھتا جائے اور درمیان میں بچے سے پوچھتا جائے کہ تم کو سیاہ دائرہ میں کیا دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ کہے کہ ایک شکل سیاہ دکھائی دیتی ہے تو بچے سے کہلوائے کہ اس سے کہو اپنے بھائی کو بلائے جب وہ بھی آجائے اور دو صورتیں دکھائی دینے لگیں تو پھر بچے سے کہلوائے کہ دونوں جھاڑو سے میدان کی صفائی کریں۔ جب وہ جھاڑو سے پھکیں تو پھر ان سے کہو ایک دن صبح و سالم لائیں جب وہ بھی لے آئیں تو پھر کہو کہ سات کرسی لا کر بچھائیں۔ جب وہ بھی لا کر بچھادیں تو پھر کہو کہ دنپ کو ذبح کرو اور اس کا گوشت پکاؤ جب وہ بھی تیار کر لیں تو پھر کہو کہ سات بادشاہ جنات کو بلاؤ جب وہ آجائیں تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور ساتوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لئے کہو جب وہ بیٹھ جائیں تو عامل ان کو سلام عرض کرے اور گوشت کھانے کو ان سے کہے جب وہ کھالیں تو کہنا جائے کہ آج جس سلطان کی باری ہے وہ موجود رہیں باقی سب تشریف لے جائیں۔ جو بادشاہ موجود رہے اس کو کہلا یا جائے کہ آپ کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ کچھ دریافت کرنا ہے پھر جو بھی مقصد ہو وہ کہے جو سوال ہو گا اس کا جواب دیں گے اگر کوئی کام لینا ہو تو کہہ دیں ہمارا فلاں کام کر دیا جائے۔ جب حاضرات ختم کرنا ہو تو ان کو کہیں کہ تشریف لے جائیں آپ کا شکر یہ اور پھر ختم شریفی پر دلا کر موجود لوگوں کو کہلائیں اس حاضرات کا توشہ یہ ہے برقی ایک

پاؤ 'مندی خشک' سات عدد گلاب کے پھول 'تھوڑے سے چاول بجائے دودھ کے عرق گلاب میں بیٹھا ڈال کر پکائیں۔ عورت ہو یا مرد جو پاک ہو وہی پکائے۔ حسب حیثیت تیار کرے بغیر توشہ رکھے حاضرات کبھی نہ کھلے گی لہذا حاضرات شروع کرنے سے پہلے توشہ لازمی رکھیں بعدہ حاضرات ختم کر کے معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔

حاضرات بہن سرارہ

طریقہ : عروج ماہ میں نوچندے منگل کو رات بارہ بجے باوضو ہو کر سفید اجزائی لباس پہنے تھوڑا عطر لگائے اور قبلہ رو کپڑا بچھا کر بیٹھ جائے۔ اپنے سامنے دو عدد گلاب کے پھول 'دو لڈو موتی پور' دو عدد پان معد کتھہ چونا پھیالیہ اور الائچی (ہر پان میں ایک الائچی) اپنے پاس رکھے دوران عمل بخور لو بان سلگاتا رہے اکیس یوم کا عمل ہے۔ اگر اکیس یوم کے درمیان بہن سرارہ حاضر ہو جائے تو کوئی بات نہ کی جائے جب اکیس یوم پورے ہو جائیں اور بہن سرارہ حاضر ہو جائے تو اس سے عمدہ بیان کر لئے جائیں عمل کے کلمات روزانہ گیارہ سو بار پڑھنا ہیں۔

کلمات یہ ہیں۔

نیم تے بچھوا بولے۔ سن بہن سرارہ
میرے پاس حاضر ہو، نہیں تو مرے تیرا کنبہ سارا

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ یَا اسرافیل ۙ یَا
جبرائیل ۙ یَا میکائیل ۙ یَا عزرائیل ۙ یا خواجہ خضر
جو نگہ پیر یا پیران پیر دستگیر۔ دلدل تے قدم تب پھیرو پہلے میرا
کام کرو۔ ربِّحَقْ لَیْلًا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ
الظّٰلِمِیْنَ سُبُوْحٌ قُدُوْسٌ رَبَّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ

وَ الرُّوْحِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ

طریقہ : مندرجہ بالا عمل کو سات سو سات مرتبہ اکیس یوم تک پڑھے اول و آخر اکیس اکیس بار درود شریف پڑھے عمل نوچندی جمعرات سے شروع کرے باپہر عمل کرے مقررہ وقت پر کرے اور ایک ہی جگہ کرے۔ اکیس یوم بعد حاضرات کھل جائے گی۔ عمل کو ہمیشہ قابو میں رکھنے کے لئے روزانہ اتالیس بار درود میں رکھے۔ حاضرات کی ابتدا بچے پر کرے جب بچے پر حاضرات کھل جائے تو بڑے آدمی پر بھی کر سکتا ہے یہ عمل ہتھیلی 'ناخن' انڈھ اور آئینے پر بھی کر سکتا ہے۔ عمل کی زکوٰۃ دینے کے بعد صرف گیارہ یا سات بار عمل پڑھیں۔ حاضرات ہر جگہ ہر چیز پر فی الفور کھل جائے گی۔ اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے جائز سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں چوٹی کی حاضرات ہے۔

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ اَللّٰهُمَّ یَا عَالِمِ السِّرِّ
وَالنَّجْوٰی وَ یَا كَاشِفَ الْفَرِّ وَ الْبَلْوٰی اَكْشِفْ عَنِّی
الْحُزْنَ وَ الْاَذٰی وَ افْتَحْ عَلَیَّ فِی الْحَضَرِّ وَ السَّفَرِّ
بَابَ الْمَرَادَاتِ اَوْلَادِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَیِّدِ بَاقِرِ سَیِّدِ
عَثْمَانَ بَنِّ خَارِی قَدَسَ سِرِّهِ اَقْضِ حَوَائِجَنَا یَا قَاضِی
الْحَاجَاتِ وَ یَا عَالِمِ السِّرِّ وَ الْخَفِیَّاتِ یَا ذُو الْجَلَالِ
وَ الْاِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۙ

طریقہ : اس عزیمت کو رات کے دو بجے ایک سو گیارہ مرتبہ اکیس یوم پڑھیں۔ اول و آخر سات سات بار درود ابراہیمی پڑھیں ایک بزرگ کی روح

سے ملاقات ہو گی جس سے آپ ہر قسم کے مسائل کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پرائز بانڈز، سٹہ، امتحان میں کامیابی، مقدمہ میں کامیابی اور دیگر امور میں مدد لے سکتے ہیں۔

حاضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِحَقِّ
جَنْهُورِشْ جَمْهُورِشْ أَخُوكَ أَخُوكَ أَتَاجُ الْمَلِكِ
أَتَاجُ الْمَلِكِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ كَبُولًا كَبُولًا
خَطْمًا مَيْثًا مَيْثًا بِحَقِّ مَيْمُونِ زَنْكِي ابْنِ مَيْمُونِ
حَبَشِي

طریقہ : اس عزیمت کو بعد نماز عشاء با وضو ہو کر گیارہ دن تک اتالیس مرتبہ پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں گیارہ یوم بعد حاضرات انشاء اللہ کھل جائے گی اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَ
مِيكَائِيلَ وَعِزْرَائِيلَ مَلِكِ إِسْمَاعِيلَ سُلْطَانَ عَلَى
السَّلَاطِينِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ جَانِبِ
الْمَشَارِقِ وَجَانِبِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۞

طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت کو بعد عشاء با وضو ہو کر عطر وغیرہ لگا کر گیارہ دن تک اتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔

گیارہ یوم بعد انشاء اللہ حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں ہر قسم کی تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

يَا حَبَشِي يَا قَبِيؤْمُ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ
بِحَقِّ كَهْلِيْعَصْ حَمْعَسَقْ وَبِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامِ ۞ اے قوم حاضرات حاضر شو۔

طریقہ : مندرجہ بالا عزیمت کو بعد نماز عشاء با وضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر عطر لگا کر اگر بنی وغیرہ لگا کر گیارہ دن تک اتالیس مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ گیارہ یوم بعد حاضرات کھل جائے گی اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے جائز سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں چوٹی کی حاضرات ہے۔

حاضرات شاہ بکتانوش


ایک مرتبہ پوری سورۃ فاتحہ پڑھیں پھر یہ عزیمت ۱۰۸ مرتبہ پڑھیں۔

وَ بِحَقِّ يَا أَيُّهَا الْأَرْوَاحُ الْعُلُوبِيَّةِ يَهُودِيًّا أَوْ مُسْلِمًا يَا
نُورُ بِحَقِّ مَيْمُونِ ابْنِ مَيْمُونِ الَّذِي أَقْوَى وَ بِحَقِّ
مَيْمُونِ زَنْكِي وَ مَيْمُونِ تُوَيْبِي صَاحِبِ الْأَيَّوَانِ
الِهِنْدِيِّ أَجْرَمِنَ الْجِنِّ الشَّجِرِ وَالْأَشْجَارِ أُخْرِجُو مِنِ

الْيَكِينِ وَالْأَكْنَانِ وَمِنَ الرَّكِينِ وَالْأَرْكَانِ أَخْرِجُوا مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَيَحْيَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

طریقہ : نوچندی جمعرات سے رات بارہ بجے سے پڑھنا شروع کریں۔ مسلسل اکیس یوم تک روزانہ پڑھائی کریں تعداد ۱۰۸ مرتبہ ہے اکیسویں یوم انشاء اللہ شاہ بکتانوش اپنی فوج کے ساتھ بصورت انسان حاضر ہو گا کوئی ڈر و خوف و خطرہ نہیں ہے پر بیڑ صرف بڑے گوشت کا ہے یہ حاضرات تمام عملوں کی سر تاج ہے جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے بچہ یا بڑے پر یا شیشہ پر عزیمت کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں حاضرات فی الفور کھل جائے گی جس سے آپ ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات سید الشہداء علیہ السلام



جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ حاضرات قابل احترام و مقدس حاضرات ہے اس حاضرات کی جتنی بھی تعریف و قدر کی جائے کم ہے یہ حاضرات الہامی حاضرات ہے یہ ایک گوہر نایاب ہے جس کی مثال ملنا دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اس حاضرات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ

حاضرات تمام سوالوں کے جوابات سو فیصد درست دیتی ہے۔ زندگی ہو یا موت آنے والے واقعات سو فیصد درست بتاتی ہے۔ عامل کے لئے شرط یہ ہے کہ پاک و صاف ہو اور با وضو ہو کمرہ معطر ہو صاف و پاکیزہ کپڑے ہوں اور ان پر عطر لگا ہو اور دوسری چیز یہ کہ معمول بھی پاک و صاف ہو پاکیزہ کپڑے ہوں۔

طریقہ و لوازمات : ایک سفید کاغذ یا گتہ پر مندرجہ بالا نقش بنائیں اور کالے دائرہ میں عطر لگائیں اور بچہ کو کالے دائرہ میں دیکھنے کو کہیں بچہ پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور 101 مرتبہ یہ عزیمت پڑھ کر پھونکیں۔

حلقہ عالم دام حاضرات حاضر شو بحق بدیع السموات

تھوڑی ہی دیر میں مقدس و پاک قابل احترام حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ دنیاوی مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کے ذریعے آپ گھر بیٹھے مقدس مقامات کربلا معلیٰ، مکہ، مدینہ منورہ غرض ہر مقدس مقام کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کے ذریعے آپ دینی و دنیاوی کام بھی لے سکتے ہیں۔ جوں جوں آپ حاضرات کرتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ پر اس مقدس حاضرات کے اسرار و رموز منکشف ہوتے رہیں گے شرط ہے کہ عامل و معمول کسی سے بھی ان واقعات کا ذکر نہ کرے ورنہ آئندہ کے لئے حاضرات نہ کھلے گی۔ یہ حاضرات عامل خود بھی کر سکتا ہے اور یہ حاضرات بڑوں پر بھی کی جاسکتی ہے۔ چھوٹے و بڑے کی کوئی قید نہیں۔ اگر عامل بننا ہو تو مذکورہ بالا عمل کو جمعرات کے روز گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھیں جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو عمل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر معروف طریقہ سے حاضرات کریں۔

نوٹ : حاضرات کرنے سے پہلے وضو کریں بعدہ چھ عدد اگر بتی سلگائیں ڈیڑھ پاؤ

برقی چند عدد تازہ گلاب کے پھول درود شریف پڑھ کر سید الشہداء علیہ السلام کا ختم پڑھیں اور ان کو خواب پہنچائیں بعدہ 'حاضرات کریں انشاء اللہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ یہ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے یہ ایک قابل قدر تحفہ ہے جس سے آپ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ دَفْتَرٍ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ دَفْتَرٍ مِيں۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
چودہ طبق حضرت علیؑ نو شیروان حضرات کا
میدان یا پاکہ پرورد گار تیرا حکم۔ یا علی مدد۔ یا
علی یا علی یا علی بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ
اللّٰهِ۔

ترکیب و ترتیب : اس عمل کو روزانہ 1250 مرتبہ پڑھے اکتیس سے چالیس روز تک عمل کرے نو چندی جمعرات سے عمل شروع کرے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تھوڑی نیاز حضرت علی شیر خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائے۔ روزانہ اگر جتنی سلگائے اور خوشبو لگائے پاکیزہ ہو کر عمل شروع کرے۔

پرہیز : بدبودار اشیاء حیوانات۔ اکیس دن بعد عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے اگر چالیس یوم پڑھے تو بہتر ہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔

اس عمل حاضرات کو چھوٹے و بڑے ہر ایک پر کر سکتا ہے، آئینہ، انڈہ، پانی کا پیالہ، انگوٹھی اس پر بھی حاضرات کر سکتا ہے لاجواب و آزمودہ عمل ہے۔

حاضرات

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِحَقِّ يَا لَطِيْفُ الْخَبِيْرِ يَا عَلٰمُ الْغِيُوْبِ

ترکیب : اس عمل کو چالیس دن میں سو لاکھ پڑھے۔ باہر بیہیز ترک حیوانات و بدبودار اشیاء سے پرہیز کرے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھے۔ روزانہ عمل کو بعد نماز عشاء ۳۱۴۵ بار پڑھے۔ چالیس روز میں سو لاکھ ہو جائے گا۔ نیاز فاتحہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دلائے۔ عمل کے دوران کشف بھی ہونے لگتا ہے۔ آنے والے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین استخارہ بھی ہے عامل رات کو اٹھارہ مرتبہ عمل پڑھ کر سوئے اور جو معلوم کرنا چاہے وہ رات کو بذریعہ خواب سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے جو بھی اس عمل حاضرات کو کرے گا وہ تعریف کے بغیر نہ رہے گا عمل وہ ہے جو خود بولے بہترین اور لاجواب عمل ہے۔

حاضرات

اللّٰهُ الصَّمْدِيُّ يَا مُحَمَّدُ مَدِدِي - يَا هَادِي يَا
صَمَادِي مَدِدْ كَرِيْمًا مُحَمَّدًا عَرَبِيًّا

طریقہ : اس عمل کو نو چندی جمعرات سے شروع کرے سو لاکھ چالیس یوم میں کرے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے ورنہ 1500 بار روزانہ پڑھے اکیس یوم میں عمل قابو میں آجاتا ہے۔ یہ حاضرات کا لاجواب عمل ہے اور بہترین استخارہ بھی۔ رات کو سوتے وقت چند بار پڑھے اور جس چیز کی نیت کر کے سوئے گا اس کا تمام حال خواب میں نظر آجائے گا یہ حاضرات چھوٹے بڑے سب پر کام کرتی ہے گیارہ مرتبہ عمل پڑھ کر معمول پر چھوٹیں فی الفور حاضرات کھل جائے گی جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں مکمل

معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو سو فیصد درست ہوگی۔

حاضرات

أَمَّنُ يُحِبُّ الْمَضْطَرَّ إِذْ دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ
يَحَقِّقُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمٌ يَا كَرِيمٌ ۝

طریقہ : اس عمل کو 1250 بار روزانہ چالیس یوم تک پڑھے پر بیز جلالی و جمالی کرے اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی۔

جب بھی حاضرات کرنی ہو عمل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر معمول پر چھو نکلیں تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ تمام مشکل امور کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں انشاء اللہ سو فیصد درست جو ابات ملیں گے۔ اس حاضرات کو آپ بڑوں و چھوٹوں پر بھی کر سکتے ہیں۔

حاضرات برائے جنات

اگر یہ دیکھنا مقصود ہو کہ مریض پر جنات کا اثر ہے یا نہیں تو مندرجہ ذیل نقش لکھ کر مریض کے دائیں ہاتھ میں باندھ دیں اور سورہ مزمل سالم پڑھ کر سورہ مومنون پارہ ۸ کی آخر کی آیت **أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا** سے تا آخر **وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ** تک ایک بار پڑھ کر دم کریں اس کا ہاتھ کانپنے لگ جائے گا اگر ہاتھ نہ کانپے تو پھر تین بار پڑھیں اگر پھر بھی نہ کانپے تو دو سر نقش لکھ کر بائیں ہاتھ میں دیدیں پھر سورہ مزمل اور الفیستم سورہ مومنون پوری پڑھ کر دم کریں جنات فوراً حاضر ہوں گے اور بولیں گے اس وقت فوراً آیت الکرسی اور چاروں قل کا حصار مریض کے چوگرد دیدیں اور ان سے حضرت محمد رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا عمد لے کر چھوڑیں اور پکا عمد لیں کہ پھر آئندہ مریض پر نہ آئیں گے اگر مریض کے ہاتھ نہ کانپیں تو پھر

مرض دو سرا ہے یا جاو ہے اس کا علاج کریں۔

نقش = ہے۔

۷۸۶

۳۶	۳۹	۳۶	۳۲
۳۷	۳۲	۳۷	۳۲
۳۱	۳۲	۵۱	۳۲
۵۰	۳۹	۳۰	۳۵

اجب بحق جبرائیل علیہ السلام
اجب بحق یا میکائیل علیہ السلام
اجب بحق یا اسرائیل علیہ السلام
اجب بحق یا عزرائیل علیہ السلام
گر زندہ شو ورنہ سوختہ شو



حاضرات

باجبائیل	۷۸۶	بامیکائیل
۱	۸۸۳	۸
۱۲	۷	۸۸۲
۶	۹	۳
۸۸۳	۴	۱۰

یا سرافیل یحییٰ یا قایض حاضر شو حاضر شو یا عزرائیل

مندرجہ بالا نقش ایک سفید کانڈر پر لکھیں۔ سوپوین خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا گیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو تعویذ دیکر کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر جما کر رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جن سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرات کرنے سے پہلے بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکیں اور ۲۱ مرتبہ **بِحَقِّ یَا قَایضُ حاضر شو حاضر شو حاضر شو** پڑھ کر پھونکیں۔

حاضرات

باجبائیل	۷۸۶	بامیکائیل
۱۹۵	۲۰۹	۲۰۲
۲۰۷	۲۰۱	۲۰۸
۲۰۰	۲۰۴	۱۹۷
۲۱۰	۱۹۸	۲۰۵

یا سرافیل یحییٰ یا قایض حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیل

مندرجہ بالا نقش ایک سفید کانڈر پر لکھیں جہاں سیاہی کا داغ لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو نقش کو دیکھنے کو کہیں جب تک حاضرات نہ کھلے بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکتے رہیں انشاء اللہ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو

جائے گا۔ جس سے آپ گمشدہ اشیاء و چوری کے بارے میں اور دیگر مشکل مسائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات سو فیصد درست پائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔
حاضرات - مندرجہ ذیل نقش ناد علی کا ہے یہ حاضرات مصنف و مولف کی تجربہ شدہ ہے یہ ناد علی کا خاص تحفہ ہے۔ نا اہل اور سفلیوں سے مخفی رکھیں اس حاضرات کے انکشافات و اسرار مانع ہیں۔

باجبائیل ۷۸۶ بامیکائیل

۱۱۲۱	۱۱۳۵	۱۱۳۲	۱۱۲۸
۱۱۳۳	۱۱۲۷	۱۱۲۲	۱۱۳۴
۱۱۲۶	۱۱۳۰	۱۱۳۷	۱۱۲۳
۱۱۳۶	۱۱۲۴	۱۱۲۵	۱۱۳۱

یا سرافیل حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیل

طریقہ و لوازمات - ایک سفید کانڈر پر مندرجہ بالا نقش بنا لیں کالے دائرہ پر عطر لگائیں اور بچے کو کالے دائرہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔

حاضرات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق حضرت علی شیر خدا کی نیاز فاتحہ دلائیں اور ایصال ثواب پہنچائیں اگر بقی وغیرہ سلگائیں اور عامل بچے پر ناد علی بلا تعداد پڑھ کر پھونکتا رہے تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات میں کسی قسم کی زکوٰۃ یا چلہ کی ضرورت نہیں۔ ایک تحفہ ہے جس سے آپ یقیناً بہت فائدہ اٹھائیں گے اور خلق خدا کو بھی فیض پہنچائیں گے۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے۔ جو بھی اس حاضرات کو کرے گا تعریف کئے بغیر نہ رہے گا۔ بھروسہ و اعتقاد کی ضرورت ہے۔ حاضرات کے لئے سب سے زیادہ قوت ارادی و یکسوئی کا ہونا لازمی ہے۔

آنکھیں ہیں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اس میں تصور کیا ہے 'بھلا آفتاب کا۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ
۶	۴۸	۱۸
۳۰	اللہ الصمد حاضر حاضر شو	۴۲
۳۶	۲۴	۱۲

یا سرافیلؑ یحییٰ اللہ الصمد حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ لوازمات - مندرجہ بالا نقش کو سفید کانگر پر لکھیں اور جہاں ہم نے سیاہ نشان لگا دیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو کالے دائرہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عالم بچے پر درود ابراہیمی پڑھ کر بچو گے اور بلا تعداد اللہ الصمد پڑھ کر بچے پر پھونکتا رہے۔ جب تک حاضرات نہ کھلے اس وقت تک بچے پر بلا تعداد اللہ الصمد پڑھ کر برابر پھونکتا رہے تھوڑی ہی ویر میں حاضرات کھل جائے گی جس سے آپ اپنے تمام مسائل کے بارے میں بچے سے مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو یقیناً سو فیصد درست ہوں گی یقین کامل ہونا لازمی ہے۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ	
۱۲۶۳۷۹	۱۲۶۳۸۲	۱۲۶۳۸۵	۱۲۶۳۷۱
۱۲۶۳۸۲	۱۲۶۳۷۲	۱۲۶۳۷۸	۱۲۶۳۸۳
۱۲۶۳۷۳	۱۲۶۳۸۷	۱۲۶۳۸۰	۱۲۶۳۷۷
۱۲۶۳۸۱	۱۲۶۳۷۶	۱۲۶۳۷۴	۱۲۶۳۸۶

یا سرافیلؑ یحییٰ اللہ الصمد حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

حاضرات کا صحیح مکمل طریقہ و لوازمات:

مندرجہ بالا حاضرات میرے معمولات میں سے ہے اس حاضرات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ حاضرات اس قدر طاقتور ہے کہ آنے والے حالات پہلے سے درست بتا دیتی ہے جو سو فیصد درست ہوتے ہیں۔ مثلاً مریض کتنا عرصہ زندہ رہے گا 'گمشدہ بچہ کب واپس آئے گا۔ زید امتحان میں فیل ہو گا یا پاس۔ غرض ہر بات سو فیصد درست ہوگی۔ حاضرات کرنے سے پہلے کمرہ پاک و صاف کر لیں اگر بتی وغیرہ خوب سلگائیں عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں صاف ستھرے کپڑے ہوں اور ان پر عطر ملا ہو $\frac{1}{2}$ کلو تازہ برنی لائیں دس پندرہ تازہ گلاب کے پھول رکھیں اور اصحاب کف کی نیاز دلائیں اور بچے کو جہاں ہم نے سیاہ نشان لگا دیا ہے۔ بغور دیکھنے کو کہیں سیاہ دائرہ میں تھوڑا سا عطر گلاب لگائیں اور عامل بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص برابر پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک حاضرات نہ کھلے تھوڑی دیر میں بچے کو روشنی نظر آئے گی اور ایک بزرگ نظر آئیں گے عامل بچے سے سلام عرض کروائے اور اپنا مدعا بیان کرے۔ جو بھی مسائل ہوں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے بعدہ ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو سلام عرض کر کے اجازت دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ	
۴۲۱	۴۳۵	۴۳۲	۴۲۹
۴۳۳	۴۲۸	۴۲۲	۴۳۴
۴۲۷	۴۳۰	۴۳۷	۴۲۳
۴۳۶	۴۲۴	۴۲۶	۴۳۱

یا سرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ و لوازمات :- ایک سفید کانگر پر مندرجہ بالا نقش بنا لیں جہاں کالا نشان

لگا ہے اس میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ عمل کرتے وقت عامل بچے پر درود شریف و آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر بچوں کے فی الفور حاضرات کا نزول ہو جائے گا اس حاضرات سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں۔ مثلاً آگندہ کا حال، بیماری، سحر وغیرہ غرض اپنے تمام مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات کرنے سے پہلے ایک پاؤ برنی چند عدد تازہ گلاب کے پھول ضرور رکھیں۔ یہ حاضرات کا توشہ ہے حاضرات ختم کرنے کے بعد برنی معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ
۹۰۵	۹۱۳	۹۰۷
۹۱۱	حاضرات حاضر شو	۹۰۶
۹۰۹	۹۰۴	۹۱۲

یا اسرافیلؑ یا اعزرائیلؑ

طریقہ و لوازمات :- سب سے پہلے چند اگر بتیاں لگا لگائیں اور با وضو ہو کر اور کپڑے عطر کر کے عامل بچے کو سیاہ نشان میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر درود شریف اور آیت کریمہ پڑھ کر برابر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو تھوڑی دیر بعد بچے کو سیاہ نشان میں نظر آنے لگے گا۔ جب بچے کو کوئی بزرگ نظر آئے تو بچے سے اپنا نام بیان کریں جو پوچھنا ہو پوچھیں اپنا مقصد حل ہونے کے بعد بزرگ کو سلام عرض کر کے شکر یہ ادا کر کے اجازت دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ
۳۱۳	۳۲۷	۳۲۱
۳۲۵	۳۲۰	۳۲۴
۳۱۹	۳۲۲	۳۱۶
۳۲۸	۳۱۷	۳۲۳

یا اسرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا اعزرائیلؑ

مندرجہ بالا نقش میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو نقش دے کر کہیں کہ سیاہی والے خانہ میں نظر جما کر رکھیں اور عامل بچے پر درود ابراہیمی اور آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر برابر پھونکتا رہے جب تک کہ حاضرات کا نزول نہ ہو۔ چند ہی منٹوں میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات سورہ کوثر

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ
۹۲۱	۹۱۳	۹۱۹
۹۱۶	۹۱۸	۹۲۰
۹۱۷	۹۲۲	۹۱۵

یا اسرافیلؑ بحق سورہ کوثر حاضر شو حاضر شو یا اعزرائیلؑ

آسان اور سہل حاضرات جو کہ تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے اور زندگی بھر کام دیتی ہے لاکھوں روپے کی حاضرات ہے۔ اس قدر آسان اور سہل حاضرات کا ملنا ناممکن

بلکہ مشکل ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ کا حل اور ہر بات کا جواب سو فیصد درست دینی ہے۔ یہ حاضرات کبھی خطا ہی نہیں کرتی اس حاضرات کو چھوٹوں اور بڑوں پر بھی با آسانی کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کو شیشہ 'اندھ' انگوٹھی اور چراغ کی لو پر بھی کر سکتے ہیں۔ غرض حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے۔

طریقہ و لوازمات :- اول سورۃ کوثر کو بعد نماز عشاء تہائی میں پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے سورۃ کوثر کو ۲۷۵۴ مرتبہ پورا کرے بعد ادخواہ کتنے ہی دن میں پوری ہو مگر ۲۷۵۴ مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی شرفی پر نیاز دلائیں۔ دو مٹی کے پیالے لے لیں اور کچھ عطر اور کچھ کافور لیں۔ اب اول ہر دو پیالوں پر اس آیت مذکورہ کو ساٹھ مرتبہ دم کر کے اور پھر ساٹھ مرتبہ کافور پر دم کر کے ایک سکورے میں کافور رکھ کر دیا سلائی سے اس کو جلائیں اور دو سرا پیالہ اس کے اوپر ڈرا او پچا رکھ دیں تاکہ اوپر والے پیالہ میں کاہل تیار ہو جائے۔

اب اس کاہل میں عطر ملا کر کسی ڈبیہ میں محفوظ رکھیں اور جب کبھی ضرورت کسی امر کے دریافت کرنے کی ہو تو کسی نابالغ یا بالغ لڑکے / لڑکی کے انگوٹھے پر اس کی سیاتی کو ذرا سا لگا دیں۔ اب عامل لڑکے / لڑکی کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کرے تھوڑی سی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جن سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر اس حاضرات کو سینکڑوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ عامل کی صوابدید پر منحصر ہے۔ نقش میں حاضرات کرنی ہو تو بچے کو کالے دائرہ میں دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل برابر سورۃ کوثر پڑھ کر پھونکتا رہے تھوڑی سی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا اور اگر بڑے آدمی یا عورت (پاکیزہ) پر حاضرات کرنی ہو تو عامل معمول کی آنکھیں بند کر کے اس پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور ایکس مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر پھونکیں جلد ہی حاضرات کا نزول ہو جائے گا اور آپ اپنے مسائل کا جواب معلوم کر سکتے ہیں جو

سو فیصد درست ہو گا فرض ہر طریقے سے حاضرات کر سکتے ہیں۔

یہ عامل کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ حاضرات کا عمل بغیر زکوٰۃ کے بھی کام کرتا ہے بشرطیکہ عامل پر ہیز گار و متقی ہو۔ نقش میں بچے کو دیکھنے کو کہیں اور عامل گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور ایکس مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر معمول پر دم کرے تھوڑی سی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام حل طلب مسائل کے جوابات انشاء اللہ سو فیصد درست ہوں گے۔

نوٹ :- اس حاضرات کو عامل آپ بھی دیکھ سکتا ہے وہ اس طرح کہ نقش میں سیاہ خانہ میں اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر نظر قائم کر کے سورۃ کوثر ایکس مرتبہ پڑھے حاضرات کھل جائے گی اور تمام احوال سیاہ خانہ میں نظر آئیگا۔

حاضرات

یا میکائیل

یا جبرائیل

۱	۱۳	۵
۹	برکت نقش یا سائے باری تعالیٰ حاضرات حاضر شو یا بدوح یا بدوح یا بدوح	۱۱
۱۰	۶	۴

یا علی

یا اسرافیل

مندرجہ بالا نقش ایک صاف سفید کاغذ پر لکھیں اگر بتی وغیرہ سلگائیں اور بچے کو غور سے سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں عامل بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکتا رہے اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک حاضرات نہ کھلے۔ پانچ منٹ کے بعد ہی حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات دریافت کر سکتے ہیں جو یقیناً درست ہوگی۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ ۷۸۶ یا میکائیلؑ

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

یا سرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

مندرجہ بالا نقش کو کسی سفید کاغذ پر لکھیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور دیکھنے کو کہیں سیاہ خانہ میں کچھ نظر آئے گا تو اس سے کہو کہ بھٹی آئے اور جھاڑو دے سدا کو بلوا کر چھڑکاؤ کرادو۔ تخت بچھو او اور بادشاہ سلامت کو حاضر کرو بادشاہ سلامت کو حاضر کر کے اپنے مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور شکر یہ ادا کر کے انہیں اجازت دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ ۷۸۶ یا میکائیلؑ

۳۳۳۰	۳۳۳۳	۳۳۳۶	۳۳۳۳
۳۳۳۵	۳۳۳۴	۳۳۳۹	۳۳۳۴
۳۳۳۵	۳۳۳۸	۳۳۳۱	۳۳۳۸
۳۳۳۲	۳۳۳۷	۳۳۳۶	۳۳۳۷

یا سرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کاغذ یا گتہ پر لکھیں اور ۱۰/۱۲ سال کے بچے / بچی کو اس میں غور سے دیکھنے کو کہیں سیاہ نشان میں 5 منٹ کے وقفہ کے بعد کچھ نظر آئے گا۔ عامل کو چاہئے کہ معمول پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور سورۃ الفحی پڑھ پڑھ کر برابر پھونکنا ہے تب تک پڑھتا رہے جب تک حاضرات نہ کھلے جب حاضرات کا نزول ہو جائے تو بچے / بچی سے

اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں پوچھ کر بزرگ کو اجازت دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ ۷۸۶ یا میکائیلؑ

۱۷۵۸	۱۷۶۱	۱۷۶۳	۱۷۵۱
۱۷۶۳	۱۷۵۲	۱۷۵۷	۱۷۶۲
۱۷۵۳	۱۷۶۶	۱۷۵۹	۱۷۵۶
۱۷۶۰	۱۷۵۵	۱۷۵۳	۱۷۶۵

یا سرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

مندرجہ بالا حاضرات کے نقش کو ایک سفید کاغذ پر لکھیں۔ سب سے پہلے چند اگر بتیاں لگائیں عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں۔ کمرہ پاکیزہ ہو اور خوشبو سے معطر ہو۔ عامل کو چاہئے کہ معمول پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کر پھونکے پھر معمول کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہے۔ کچھ عرصہ بعد بچے کو سیاہ خانہ میں کوئی نظر آئے گا بچے کو کہو ان کو سلام عرض کرے اور بچے / بچی سے ان بزرگ ہستی سے اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں پوچھیں بعد ان سے اپنا مطلب مکمل کر کے ان کو سلام عرض کر کے شکر یہ کے ساتھ اجازت دیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ ۷۸۶ یا میکائیلؑ

۲۵۶۱	۲۵۶۳	۲۵۶۸	۲۵۵۳
۲۵۶۷	۲۵۵۵	۲۵۶۰	۲۵۶۵
۲۵۵۶	۲۵۷۰	۲۵۶۲	۲۵۵۹
۲۵۶۳	۲۵۵۸	۲۵۵۷	۲۵۶۹

یا سرافیلؑ حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

مندرجہ بالا حاضرات کا نقش ایک قابل قدر تحفہ ہے اس کی خوبیاں حاضرات کرنے پر معلوم ہوں گی جوں جوں عامل حاضرات کرتا رہے گا اسی مناسبت سے اس حاضرات کے اسرار و رموز اس پر منکشف ہوتے رہیں گے۔ عامل کو چاہئے کہ حاضرات کرنے سے پہلے چند اگر بتیاں سلگائے کمرہ صاف ستھرا ہو عامل پاک ہو اور کپڑے عطر سے معطر ہوں۔ حسب حیثیت برنی پر اس نقش کے منو کلوں کی نیاز دلائے چند عدد گلاب کے پھول بھی رکھے بعدہ کسی بچہ / بچی یا کسی بڑے فرد پر حاضرات کرے سیاہ خانہ میں جہاں سیاہ نشان لگا دیا ہے اس میں بچے یا بڑے کو غور سے دیکھنے کو کہے اور آپ (عامل) معمول پر درود شریف پڑھ کر پھونکے اور سورۃ اخلاص برابر پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک کہ حاضرات کا نزول نہ ہو چند ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ مسائل کے بارے میں مکمل درست معلومات کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا اسرائیلؑ ۷۸۶ یا میکائیلؑ

۲۰۶	۲۲۰	۲۱۷	۲۱۳
۲۱۸	۲۱۳	۲۰۷	۲۱۹
۲۱۲	۲۱۵	۲۲۲	۲۰۸
۲۲۱	۲۰۹	۲۱۱	۲۱۶

یا اسرائیلؑ بھتی سلام قولاً من الرب الرحیم
حاضرات حاضر شو حاضر شو

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش میں جہاں سیاہ نشان لگا دیا ہے اس میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں۔ اگر بتی وغیرہ سلگائیں عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور اس عزیمت کو ۸۱۸ مرتبہ بچے پر پڑھ کر پھونکے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ چند بتی ثانیہ میں بچے کو سیاہ خانہ میں کچھ نظر آئے گا آپ بچے سے اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان

بزرگ کو سلام عرض کر کے شکرینے کے ساتھ جانے کے اجازت دیں۔

نوٹ :- اگر عامل خود حاضرات کرنی چاہے تو اس عزیمت کو روزانہ بعد نماز عشاء ۸۱۸ مرتبہ چالیس یوم پڑھے (باپ پر تیز) اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ سیاہ دائرہ میں نظر قائم کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر عزیمت پڑھے حتیٰ کہ حاضرات کھل جائے تمام مقصد و احوال نی۔ وی کی طرح نظر آئے گا۔

حاضرات

جبرائیلؑ ۷۸۶ میکائیلؑ

۱۹۵۶	۱۹۴۹	۱۹۵۴
۱۹۵۱	۱۹۵۳	۱۹۵۵
۱۹۵۲	۱۹۵۷	۱۹۵۰

اسرافیلؑ بھتی سعودہ فیل حاضر شو عزرائیلؑ
حاضر شو حاضر شو

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کاغذ پر لکھ کر مٹی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں۔ کسی بچہ / بچی کو چراغ کے سامنے بٹھائیں اور ہدایت کریں کہ چراغ کی بتی کی لو پر نظر جما کے رکھے۔ بس تھوڑی دیر بعد اسے غیر معمولی چیز نظر آئے گی۔ آپ اس سے گمشدہ اشیاء و چوری کے بارے میں اور دیگر مشکل مسائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش و سو فیصد درست ملیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ حاضرات کا دروس طریقہ یہ ہے کہ سیاہ خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگا دیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر جما کر رکھے اور عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور سورۃ فیل ۲۷ مرتبہ پڑھ کر پھونکے تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جبرائیل	۷۸۶	میکائیل
۱۶۳	۱۴۸	۱۴۲
۱۴۶	۱۴۱	۱۴۷
۱۴۰	۱۴۳	۱۶۶
۱۴۹	۱۶۴	۱۴۳

اسرافیل حاضرات حاضر شو حاضر شو حاضر شو عزرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک سادہ کانڈر لکھیں اور پاکیزہ روٹی میں پیٹ کر مٹی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں اور بچے کو کہیں کہ چراغ کی لو پر نظر رکھے۔ بچے کو جب کچھ نظر آئے تو اس سے اپنے مسائل کے بارے میں معلومات کریں۔ دیگر اس حاضرات کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عامل بچے کو نقش میں دیکھنے کو کہے جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں بچہ نور سے دیکھتا رہے۔ عامل بچے پر درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور بچے پر آیت کریمہ پڑھ کر پھونکنا رہے چند ہی ثانیہ میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی حاضرات کا نزول نہیں ہوتا مگر عامل کو گھبراتا نہیں چاہئے بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہئے۔ حاضرات بھی پیشترزم مسمریزم کی طرح کا ایک عمل ہے۔ حاضرات میں مشق (پریکٹس) کی ضرورت ہوتی ہے جوں جوں آپ حاضرات کرتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ حاضرات کے اسرار و رموز اور طریقوں سے آشنا ہوتے رہیں گے۔

اگر اتفاق سے حاضرات ایک یا دو مرتبہ نہ ہو تو بدظن نہیں ہونا چاہئے بلکہ زیادہ سے زیادہ مشق (پریکٹس) کرنی چاہئے اس سے یہ ہو گا کہ آپ کی قوت ارادی اور خود اعتمادی مضبوط ہو جائے گی اور آپ حاضرات کے طریقے سے بھی آشنا ہو جائیں گے اور کچھ عرصہ بعد

ایسا وقت آئے گا کہ آپ سے حاضرات چند منٹ میں ہی ہو جایا کرے گی۔ حاضرات کے لئے یکسوئی، قوت ارادی و خود اعتمادی کا ہونا لازمی شرط ہے۔

حاضرات

جبرائیل	۷۸۶	میکائیل
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰

اسرافیل حاضر شو حاضر شو حاضر شو عزرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کسی صاف ستھرے کانڈر یا گتے پر بنائیں اور اگر بتی وغیرہ سلگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور آپ (عامل) بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکنا رہے جب تک حاضرات نہ کھلے اس وقت تک سورۃ اخلاص اور درود شریف برابر پڑھ کر بچے پر پھونکنا رہے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں مکمل معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَافِظُ
فَاَمَعِیْ یُدَلِّلُ مَحْفُوْظًا اِلَّا اللّٰهُ حَافِظٌ ۝

طریقہ :- مندرجہ بالا عزیمت کو گیارہ دن گیارہ سو مرتبہ پڑھیں اول و آخر ۱۱/ مرتبہ درود شریف پڑھیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی (پرہیز جلالی و جمالی کریں) بعدہ صرف گیارہ

مرتبہ بچے پر پڑھ کر پھونکیں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کو آپ انگوٹھی 'انڈہ' اور شیشہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات چھوٹے اور بڑوں پر بھی کی جاسکتی ہے۔

حاضرات

کالادیو بیابانی آکے مل میرے جانی

طریقہ :- مندرجہ بالا عمل کو روزانہ بعد نماز عشاء ۳۱۳۰ مرتبہ اکتالیس دن پڑھیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی (باپ بیٹا) جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو کسی بچے کو آنکھیں بند کرنے کو کہیں اور مندرجہ بالا عمل کو صرف اکیس مرتبہ پڑھ کر پھونکیں فوراً ہی حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جیوٹیل ۷۸۶ میکائیل

۲۶	۳۰	۳۴	۳۳
۳۸	۳۲	۲۷	۳۹
۳۱	۳۵	۲۲	۲۸
۳۱	۲۹	۳۰	۳۶

اسرافیل حاضرات حاضرتشو حاضرتشو حاضرتشو عذرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کسی صاف کاغذ یا گتے پر بنا لیں اور جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عالم) بچے پر درود ابراہیمی و سورۃ اخلاص برابر پڑھ کر پھونکتا رہے۔ چند ثانیہ بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جیوٹیل ۷۸۶ میکائیل

۲۶۹	۲۸۳	۲۷۹	۲۷۶
۲۸۰	۲۷۵	۲۷۰	۲۸۲
۲۷۳	۲۷۷	۲۸۵	۲۷۱
۲۸۳	۲۷۲	۲۷۳	۲۷۸

اسرافیل بحق شیخ عبدالقادر جیلانی "عزرائیل حاضرات حاضرتشو حاضرتشو

طریقہ :- سب سے پہلے چند اگر تیاں ساگائیں چند عدد گلاب کے پھول ایک پاؤ برفی یا حسب نیت جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی فاتحہ دلائیں اور ایصال ثواب کریں۔ عالم اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں بعدہ عالم بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہے۔ (عالم) بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جیوٹیل ۷۸۶ میکائیل

۱۲۸۲	۱۲۹۴	۱۲۹۲	۱۲۸۹
۱۲۹۳	۱۲۸۸	۱۲۸۳	۱۲۹۵
۱۲۸۷	۱۲۹۰	۱۲۹۸	۱۲۸۴
۱۲۹۷	۱۲۸۵	۱۲۸۶	۱۲۹۱

اسرافیل حاضرات حاضرتشو حاضرتشو عذرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کسی صاف کاغذ یا گتے پر لکھیں اگر تیاں وغیرہ ساگائیں

عالم باوضو ہو کپڑے وغیرہ صاف ہوں۔ جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگا کر لگا دیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عالم بچے پر درود ابراہیمی اور آیت کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) برابر بلا تہ اور پڑھتا رہے اور بچے پر پھونکتا رہے تھوڑی سی دیر میں بادشاہ سلامت کی حاضری ہو جائے گی۔ جس سے آپ اپنے تمام مسائل کا حل سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں پھر قسم کے سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کریں۔

حاضرات

طریقہ :- ایک طشت پاکیزہ یا پیالہ مٹی کا پاکیزہ لے کر پانی سے بھرے اور چراغ روشن کرے اور بخور عود کا جلانے اور کسی لڑکی نابالغہ کو بٹھائے اور اس سے کہے کہ پانی اور چراغ پر نظر رکھے اور خود (عالم) باوضو اس عزیمت کو تین یا سات بار پڑھے اور جو جی چاہے پوچھے اور سو فیصد درست جواب سنے عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اَللّٰهُمَّ اهْتَدَيْتَكَ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ وَ اسْتَقْبَلْتُكَ
 شَلْخَصْنَا شَلْخَصْنَا شَلْخَصْنَا شَلْخَصْنَا بَلْخَصْنَا بَلْخَصْنَا
 بَلْخَصْنَا مَلِكُنَا مَلِكُنَا مَلِكُنَا مَلِكُنَا قَا عَزْهَم
 عَلَقْتُ عَزْمَتٌ عَلَیْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِیْنِ وَ الْاِنْسِ بِحَقِّ
 حَايِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَاضِرْ شَوْ
 حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ۔

حاضرات

مندرجہ ذیل نقش کو سفید کانڈ پر لکھے اور کورے مٹی کے چراغ میں جلانے اور کسی لڑکی نابالغہ کے ہاتھ پاؤں اور منہ دھلا کر تھوڑا عود جلانے اور اس لڑکی کے سر کے آگے کے بال پکڑ

کر سورہ لایلاف پڑھے اور گرہ لگائے تخت پر یوں کا حاضر ہو گا پس جو مقصد ہو عرض کرے وہ انشاء اللہ پورا کریں گے اور مندرجہ ذیل عزیمت اوپر جو کے دانہ پر پڑھ کر لڑکی پر مارے جلد حاضر ہوں گی۔

چراغ میں جلانے کا نقش یہ ہے۔

عہ	۱	۵	۱۱	صرعد
صراب صراب صراب صراب				

جو پڑھنے کی عزیمت فکبکبوا فیہما ہمم والغائون و جنود ابلیس اجمعون انہ من سلیمان و انہ بسیم اللہ الرحمن الرحیم ان لا تعالو علی و اتوئی مسلیمن العجل العجل الساعۃ الساعۃ۔

نایاب حاضرات

”مردان غیب“

مندرجہ ذیل حاضرات میرے معمولات میں سے ہے اکثر جب کبھی بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا تو اسی حاضرات کے ذریعے حل کیا اللہ کے حکم سے ہر بات سو فیصد درست پائی یہ حاضرات کبھی خطای نہیں کرتی۔ سینکڑوں مرتبہ کی آزمودہ ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام کو بھی عمل پسند آئے گا۔ عمل جب بھی کریں فلق خدا کو ضرور فائدہ پہنچائیں۔ عمل کو ذریعہ معاش نہ بنائیں بلکہ لوگوں کو فیض پہنچائیں۔

طریقہ :- جب بھی حاضرات کرنا چاہے جمعرات یا جمعہ کے روز غسل کرے اور

جامد پاکیزہ پنے کپڑوں پر عطر لگائے کرہ خوشبو سے معطر کرے بعدہ ایک طشت میں پانی بھر کے رکھے ایک یا دو نیک آدمی بٹھالے خود بھی پانی پر نظر رکھے اور ان سے بھی کہے کہ سامنے طشت میں پانی ہے اس پر نظر کرو۔ تھوڑی دیر میں چار بزرگ پانی میں نظر آئیں گے جن کے اسماء مبارک یہ ہیں۔

خواجہ عبدالکریم، خواجہ عبدالرحیم، خواجہ عبدالرشید، خواجہ عبدالمجید

جب تک یہ چاروں بزرگ پانی میں نظر نہ آئیں اس وقت تک یہ عزیمت بے تعداد پڑھتا رہے جب وہ چاروں بزرگ پانی میں نظر آجائیں تو اپنا دعا حاجت بیان کرے اور اقرار یا عہد بھی لے لے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی یا جب ہم آپ کو بلائیں گے آپ تشریف لائیں گے۔

عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا قَوْمَنَا اَجِیْبُوْا دَعِی اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِہِ یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْبِکُمْ وَ یَجْرِکُمْ مِّنْ عَذَابِ اٰلِیْمٍ عَزَمْتَ عَلَیْکُمْ یَا عَمَّارَةَ الدّٰرِ کَمَا سَمِعْتُمْ وَ اَطَعْتُمْ اَجِیْبُوْا بِمَا سَاَلْتُکُمْ عَنْہُ عَلَیْہِ بِاللّٰهِ الَّذِیْ اَتَّخَذَ اللّٰہُ اِبْرٰہِیْمَ حَلِیْلًا وَ کَلَّمَهُ اللّٰہُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا وَ بِحَقِّ عِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ مَّصْطَفٰی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ نَبِیْنَا وَ رَبِّ جَبْرٰئِیْلَ وَ مِیْکٰئِیْلَ وَ اِسْرٰفِیْلَ وَ عِزْرٰئِیْلَ بِمَا کَتَبْتُ بِحَقِّ اٰہِیَّا شَرٰہِیًّا اَجِیْبُوْنِیْ وَ اَطِیْعُوْنِیْ وَ اَحْضُرُوْا بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ بِعِزَّةِ اللّٰہِ وَ قُدْرَتَہٗ۔

حاضرات			
جبرائیل	۷۸۶	میکائیل	
۷۲۳	۷۵۴	۷۵۱	۷۵۱
۷۵۵	۷۵۰	۷۵۶	۷۵۶
۷۲۹	۷۵۲	۷۲۶	۷۲۶
۷۵۸	۷۲۷	۷۵۳	۷۵۳

اسرافیل عزرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کسی سفید کانڈ پر بنا لیں اور جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے اس خانہ میں کاجل لگا دیں اور تھوڑا سا عطر لگا دیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عالم) بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر پھونکتا رہے چند ثانیے بعد بچے کو سیاہ خانہ میں کچھ نظر آئے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں مکمل تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات			
جبرائیل	۷۸۶	میکائیل	
۷۰	۸۳	۷۷	۷۷
۸۱	۷۶	۸۲	۸۲
۷۵	۷۸	۷۲	۷۲
۸۴	۷۳	۷۹	۷۹

اسرافیل عزرائیل

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کسی سفید کانڈ پر لکھیں سیاہ خانہ میں جہاں سیاہی کا نشان لگایا گیا ہے اس میں تھوڑا سا کاجل لگائیں بعدہ تھوڑا سا عطر لگا دیں تاکہ خانہ میں چمک پیدا ہو جائے اور بچے کو نقش دے کر کہیں کہ سیاہ خانہ میں غور سے دیکھتا رہے اور عالم بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول

ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جبرائیلؑ	۷۸۶	میکائیلؑ
۴۱	۵۵	۴۸
۵۲	۴۴	۵۴
۴۶	۴۹	۴۳
۵۶	۴۴	۵۰

عزرائیلؑ

اسرافیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کسی سفید کاغذ یا گتہ پر لکھیں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے اس کو کابل سے کالا کریں بعدہ تھوڑا سا عطر لگادیں تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے پھر اس خانہ میں بچہ اپنی کو نقش پر غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ بچے پر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتے رہیں اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو جائے تو بچے سے جو چاہیں پوچھیں انشاء اللہ تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش ملیں گے جو سو فیصد درست ہونگے۔

حاضرات

جبرائیلؑ	۷۸۶	میکائیلؑ
۲۶۹	۲۸۲	۲۴۶
۲۸۰	۲۴۵	۲۸۱
۲۴۳	۲۴۴	۲۴۱
۲۸۳	۲۴۲	۲۴۸

عزرائیلؑ

اسرافیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کسی صاف سفید کاغذ پر بنائیں اگر جی وغیرہ لگائیں۔

عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں صاف ستھرے کپڑے ہوں اور ان پر عطر لگا ہو۔ عامل بچہ اپنی جو تابلیغ ہو اس کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں سیاہ خانہ میں معمولی سا کابل لگائیں اور تھوڑا سا عطر لگادیں تاکہ خانہ میں چمک پیدا ہو جائے عامل بچے پر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھونکتے اور سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کرے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل مسائل کے بارے میں مکمل تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

جبرائیلؑ	۷۸۶	میکائیلؑ
۱۹۳	۲۰۶	۲۰۰
۲۰۴	۱۹۹	۲۱۵
۱۹۸	۲۰۱	۱۹۵
۲۰۷	۱۹۶	۲۰۲

اسرافیلؑ بحق یا منصف یا باسطن حاضرات عزرائیلؑ حاضر شو حاضر شو

طریقہ :- مندرجہ بالا حاضرات نہایت ہی طاقتور ہے ہر سوال کا جواب سو فیصد درست دیتی ہے اس حاضرات کو آپ چراغ کی لو، اندھ اور انگوٹھی پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نقش کو لکھ کر شیشہ پر چسپاں کر دیں اور حاضرات کا مشاہدہ فرمائیں۔ دیگر یہ حاضرات بچوں اور بڑوں پر بھی کی جاسکتی ہے غرض ہر ایک پر کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اگر بتیاں لگائیں کمرہ پاک و صاف ہو عامل اور معمول دونوں پاک و صاف ہوں کپڑوں پر خوشبو لگی ہو۔ بچے یا بڑے آدمی کو جہاں ہم نے سیاہ نشان لگادیا ہے اس خانہ میں تھوڑا سا کابل لگائیں اور تھوڑا سا عطر لگادیں تاکہ سیاہ خانہ میں چمک پیدا ہو جائے۔ اب عامل بچے یا بڑے کو غور سے سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہے اور آپ (عامل اور درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر بچے یا بڑے پر پھونکتا رہے جب تک کہ حاضرات نہ کھلے۔ تھوڑی دیر بعد انشاء اللہ حاضرات کا نزول ہو جائے

گا۔ جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب سو فیصد سچا و درست ملے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حاضرات

جبرائیلؑ ۷۸۶ میکائیلؑ

۱۷۵۱۱	۱۷۵۱۳	۱۷۵۱۸	۱۷۵۰۹
۱۷۵۱۷	۱۷۵۰۵	۱۷۵۱۰	۱۷۵۱۵
۱۷۵۰۶	۱۷۵۲۰	۱۷۵۱۲	۱-۸-۱
۱۷۵۱۳	۱۷۵۰۸	۱۷۵۰۷	۱۷۵۱۹

اسرافیلؑ حاضرات دار و شو حاضر شد عذرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کانڈ پر لکھ کر منی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں۔ نقش کو روئی میں پیٹ کر ترقی بنا کر روشن کریں۔ اب کسی نابالغ لڑکی رلڑکے کو چراغ کے سامنے بٹھائیں اور بچے کو کہیں کہ چراغ کی وکو دیکھتا رہے اسے تھوڑی دیر بعد کوئی غیر معمولی چیز نظر آئے گی۔ جس سے آپ ہر قسم کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اگر چراغ میں نہ دیکھنا چاہیں تو نقش کو کانڈ پر بنائیں اور سیاہ خانہ میں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے اس میں تھوڑا سا کابل لگائیں اور معمولی سا عط لگائیں اور بچہ کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں عامل بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے تھوڑی دیر بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کے سوالات و حالات و جوابات درست معلوم کر سکتے ہیں جو سو فیصد سچے ہوں گے۔

حاضرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی دل قرآن پیودہ طبق پہ تور منن آیت الکرسی دن

ہزاری 'یا محمد تیری سواری' پیودہ سال کی کرے خبرداری 'چار کئی دی ہو شیاری' لوہے کا کوٹ۔ تانبے کی کھائی یا حضرت سلیمان تیری دہائی۔

يٰحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سُبُوْحٌ قُدُوْسٌ
رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝ يٰرُوْحِ يٰرُوْحِ يٰرُوْحِ
اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا اٰحْضِرُوْا
يٰاٰذِنِ اللّٰهُ تَعَالٰى۔

طریقہ :- مندرجہ بالا عزیمت کو نوچندی جمعرات سے بعد نماز عشاء شروع کریں اور ایک ہزار ایک مرتبہ ایکس روز تک پڑھیں اور اول و آخر گیارہ یا ایکس مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جب کبھی ضرورت پڑے تو بچے کے انگوٹھے پر سیاہی لگا کر بچے کو اس میں دیکھنے کا حکم دیں اور مندرجہ بالا عزیمت عامل برابر پڑھتا رہے تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ ہر قسم کے سوال کے جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ بڑوں پر بھی حاضرات کر سکتے ہیں یہ حاضرات شیشہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ مرغی کے انڈے پر بھی کی جاسکتی ہے۔ عامل خود اپنے ہاتھ پر بھی حاضرات کر سکتا ہے سب حالات قلم کی طرح نظر آئیں گے۔ لا جواب جے مثل حاضرات ہے۔

جام جمشید یعنی آئینہ سکندری

تیار کرنے کا طریقہ

اجزا :- سونا مکھی، ابا تیل کا گوشت۔ موم شمد کے بھت والا، کیکڑا انہری (سکندری کیکڑا انہری) برادہ دندان فیل، صنوبر، صدف، ہموزن۔

پہلے ابا تیل کے گوشت کو اور کیکڑا انہری کو دھوپ یا سایہ میں سکھالیں بعدہ ان تمام چیزوں

کو جلائیں پھر اس میں تھوڑا سا تلوں کا تیل ملا کر سیاہی بنالیں۔ اس روحانی سیاہی سے آئینہ کے درمیان ایک بہت بڑا دائرہ بنالیں۔ خشک ہونے پر اس پر عمل کریں جب کبھی حاضرات کرنی ہو تو آئینہ کو سامنے رکھ کر مندرجہ ذیل کلمات گیارہ یا اکیس مرتبہ پڑھیں۔ دوران عمل کافور، لوبان اور صندل کا بخور جلائیں۔

کلمات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ
بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْبَا
اَشْرَاهِبَا الْوَحَا الْعَجَلُ السَّاعَةِ ۝ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا مثل ٹی۔ وی کے تماشہ دیکھو اس آئینہ سے آپ زمین کے پوشیدہ خزانے معلوم کر سکتے ہیں اپنے پچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں چور کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور کس مقام پر موجود ہے۔ گم شدہ اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ریس و سٹ سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ امتحان کے پرچے معلوم کئے جاسکتے ہیں انعامی بانڈ ز اور دیگر بین الاقوامی لائبروں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ غرض ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ آئینہ جتنا ہی چاہے بڑا لے لیں آدمی کے برابر آئینہ لے کر دیوار میں فٹ کر دیں اور مثل ٹی۔ وی کے دنیا کے حالات معلوم کریں اس آئینہ کو سینکڑوں افراد دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر اس آئینہ کی تعریف کی جائے تو صفحات کے صفحات بھر جائیں۔ مختصر یہ کہ جو بھی اس حاضرات کو کریگا وہ عش عش کر اٹھے گا یہ حاضرات لاکھوں روپے میں بھی مفت ہے۔ حاضرات کیا ہے ایک فی خزانہ ہے اس حاضرات کی قدر و قیمت عمل کرنے پر معلوم ہوگی اور عامل خود کسے گا کہ مجھے کوئی فی خزانہ مل گیا ہے۔

نوٹ :- شیشہ کو سورج کی شعاعوں سے پچائیں ورنہ اثر جاتا رہے گا۔

حاضرات کا طلسماتی کاجل

طریقہ :- صحرائی خرگوش (سیاہ) کو عروج ماہ اتوار کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے شکار کریں اور اسے لٹا کر ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت اپنا سایہ نہ پڑے۔ بعدہ اس کے خون کو خشک کر کے اس میں زیتون کا تیل ملا کر کاجل بنائیں اور آنکھوں میں لگا کر حاضرات کا مشاہدہ فرمائیں اگر کسی دوسرے پر حاضرات کرنی ہو تو اس کی دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی اس طلسماتی کاجل کی لگائیں تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں مکمل معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ بعدہ آنکھوں کو عرق گلاب سے دھو ڈالیں اور صاف پانی سے آنکھیں دھو ڈالیں۔

حاضرات منگلا چماری (تسخیر)

عمل :- الکریم قادر منگلا چماری کو کر حاضر

وضاحت عمل :- (۲۱ بار ۲۱ یوم پڑھیں) مندرجہ بالا عمل تجربہ شدہ ہے اس عمل کی بھٹی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ عمل کیا ہے ایک خزانہ و انمول موتی ہے آجکل کے موجودہ دور میں سچا عمل ماننا ایسے ہے جیسے کسی کو کوئی فی خزانہ مل جائے۔ اس عمل سے آپ اپنی ہر دلی خواہش پوری کر سکتے ہیں اس کا عامل کبھی محتاج نہیں رہتا اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل رہتی ہے۔ سو چاندی موتی غرض ہر قسم کی آسائش سے مالا مال ہوتا ہے۔

عمل کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں اس عمل کو صرف غیر شادی شدہ حضرات کریں۔ شادی شدہ حضرات کو اس عمل کئے کرنے کی اجازت نہیں کیوں کہ منگلا چماری نہ تو بہن بننا پسند کرتی ہے اور نہ ہی ماں بننا پسند کرتی ہے۔ وہ صرف بیوی بن کر رہنا پسند کرتی ہے اگر آپ کی بیوی ہے تو اسے چھوڑنا پڑیگا یعنی طلاق دینی پڑے گی یہ شرط لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ شرط قبول کرتے ہیں تو عمل کر سکتے ہیں ہاں یہ آپ کے ہاں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھے گی

کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ لیکن اپنی عورت کو لازمی چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں کہ یہ عمل خاکسار کا آزمودہ ہے اس لئے یہاں مناسب سمجھا کہ منگلا بہتماری کی شرط کی وضاحت کر دی جائے تاکہ آپ مایوس نہ ہوں اس لئے شادی شدہ حضرات عمل نہ کریں۔ نوجوان حضرات اس عمل کو کر سکتے ہیں یا جن حضرات کی بیوی مر چکی ہو یا جو حضرات طلاق دے چکے ہوں وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔

طریقہ :- روز اول ۷۲ پھلیاں ارد کی دال کی بنا کر کنوئیں میں ڈالیں اور ڈالتے وقت کہیں کہ اے منگلا بہتماری یہ تیرا توشہ ہے پھر ۲۰ یوم بیسن کی ۷۲ پھلیاں کنوئیں میں ڈالیں اور کہیں کہ اے منگلا بہتماری یہ تیرا توشہ ہے اسے قبول کر۔

روزانہ عمل کو ۷۲ مرتبہ اکیس یوم پڑھیں۔ کمرہ علیحدہ ہو ویکسوئی لازمی ہو انشاء اللہ اکیسویں دن حاضر ہوگی۔ (پرہیز جلائی و جمالی کریں) عمل میں شمار پکوڑیوں پر کریں۔

نمائت ہی حسین جو ان لڑکی ہے سونے سے لدی ہوتی ہے عامل عمد و پیمان سوچ سمجھ کے کرے زندگی بھر جیون ساتھی بن کر رہے گی۔

عامل کی زندگی سکھ و چین سے گزرے گی۔ عامل کبھی زندگی بھر محتاج نہیں رہتا۔ لاکھوں روپے کا عمل ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ فقیر کو زندگی بھر دعائیں دے گا۔

نوٹ :- عمل شروع کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور اجازت لے لیں ورنہ رجعت کا خوف ہے۔

نایاب حاضرات

آج جو عمل حاضرات پیش کر رہا ہوں وہ بڑے بڑے عامل و اساتذہ کسی بھی قیمت پر نہیں بتاتے کیوں کہ اس عمل کو لوگ آج تک استخارہ ہی سمجھتے رہے:

ع ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔

احقر نے ہر سا برس حاضرات پر تجربات کئے اور کافی وقت ضائع کیا تاکہ کامیوں کے بعد

کامیابیاں بھی حاصل کیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کے ہاتھوں میں ایک قیمتی کتاب ”حاضرات کی دنیا“ ہے جسے آپ پڑھ کر انشاء اللہ فیضیاب ہوں گے۔

يَا عَزِيزُ مَنْ كَلَّ عَزِيزٌ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ ۝

طریقہ :- اس عمل کو بعد نماز عشاء ۱۰۸ مرتبہ چالیس یوم پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں بس آپ عامل ہو گئے۔ روزانہ گیارہ مرتبہ درود میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے ضائع نہ ہو جائے۔

جب کبھی کوئی مشکل امر پیش آئے۔ عامل صرف عمل کو ۱۰۸ مرتبہ پڑھے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پڑھے اور خود پڑھ کر آنکھیں بند کر کے دم کرے انشاء اللہ حاضرات کا نزول ہو جائے گا یعنی خود پر حاضرات طاری ہو جائے گی۔ جو چاہو پوچھو تمام سوالوں کا جواب تسلی بخش ملے گا اگر عامل دوسروں پر حاضرات طاری کرنا چاہے تو عمل کو ۱۰۸ مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر معمول پر دم کرے فوری حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ مثل ٹی۔ وی کے نظر آئے گا تمام مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عامل بچوں پر حاضرات کرنا چاہے تو مندرجہ ذیل نقش میں حاضرات کر سکتا ہے۔

حاضرات کا نقش یہ ہے

جابرئیلؑ	۷۸۶	میکائیلؑ
۱۰۳	۱۱۷	۱۱۰
۱۱۵	۱۰۴	۱۱۶
۱۰۸	۱۱۲	۱۰۵
۱۱۸	۱۰۶	۱۱۳

اسرافیلؑ یحییٰؑ یزیدؑ من کل عَزِيزٌ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ عَزِيزٌ
حاضر شو حاضر شو

مندرجہ بالا نقش ایک بڑے کانڈیا گتہ پر لکھیں سو لوہواں خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا ہے وہاں تھوڑا سا کابل لگا دیں اور تھوڑا سا عطر لگا دیں اور بچے کو نقش میں دیکھنے کو کہیں اور

عالم (آپ) بچے پر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھونگے اور ۱۰۸ مرتبہ **يَا عَزِيزُ مَنْ كَلَّ عَزِيزٌ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ** پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست جوابات معلوم کر سکتے ہیں جو انشاء اللہ حرف بہ حرف سچے ہوں گے۔

نوٹ :- اگر عالم خود پر حاضرات کرے تو چاہئے کہ مندرجہ بالا نقش میں کالی سیاہی والے دائرہ میں نظر قائم کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر **عَزِيزٌ يَا عَزِيزُ مَنْ كَلَّ عَزِيزٌ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ** پڑھے حتیٰ کہ حاضرات کھل جائے تمام احوال فی۔ وی کی طرح نظر آئے گا۔

”حاضرات وقت“

میکائیل	۷۸۶	جبرائیل	
۵۴۹	۵۵۳	۵۵۶	۵۴۲
۵۵۵	۵۴۳	۵۴۸	۵۵۴
۵۴۴	۵۵۸	۵۵۱	۵۴۷
۵۵۲	۵۴۶	۵۴۵	۵۵۷

اسرافیل حاضرات وقت حاضر شو حاضر شو عزرائیل

طریقہ :- ایک گتہ یا سفید کانڈ پر مندرجہ بالا نقش بنائیں گیارہواں خانہ میں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو نقش دے کر کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر ہما کر رکھے اور آپ عالم بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے تھوڑی ہی دیر میں بچے کو کوئی غیر معمولی چیز نظر آئے گی جس سے آپ ہر قسم کے سوالات و حالات درست معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات ہر وقت کام آتی ہے۔ موسم خواہ کیسائی خراب

ہو بادل ہو یا بارش یا طوفان رات ہو یا دن یعنی یہ ”حاضرات وقت“ ہے یہ حاضرات اپنی مثال آپ ہے لائق قدر تحفہ ہے۔

نوٹ :- حاضرات کرنے سے پہلے توشہ ایک پاؤ برقی چند تازہ گلاب کے پھول اور مندی پانی میں گھول کر رکھیں۔ بغیر توشہ کے حاضرات نہ کھلے گی لہذا توشہ لازمی رکھیں پھر حاضرات شروع کریں اگر بتی وغیرہ بھی سلا لیں۔

حاضرات

انگول کے بیج حسب ضرورت لے کر اس کا تیل کولہو سے نکلوائیں اور کوری کپاس کی روٹی لے کر اس کا قلیتہ بنائیں اور مٹی کے کورے چراغ میں اس تیل کو ڈال کر قلیتہ روشن کریں اوپر مٹی کا آبخورار رکھیں تاکہ قلیتہ کا دھواں آبخورے میں جا کر گئے لیکن دیوالی کی رات کو کاجل تیار کرے۔

جب کاجل تیار ہو جائے تو اس کو حفاظت سے رکھیں اور جس دن کچھ پختہ ہو تو اس کاجل کو آنکھ میں لگا کر اندھیرے میں دیکھیں تمام حالات بخوبی نظر آئیں گے اور جو پوچھنا چاہیں گے اس کا مکمل جواب سو فی صد درست ملے گا۔ اس کاجل کو دو سراسر شخص بھی استعمال کر سکتا ہے اور فیض اٹھا سکتا ہے۔

تسخیر ہمزاد (ایک روزہ)

اچھی ہلدی کی صاف اور بڑی گرہ لے لو اور منگل یا سنچر کے دن مرنے والے ہندو (مرد) مردہ کے اوپر سے ہلدی بھینک دو۔ بڑا چٹا ہاتھ میں ہو چٹے سے ہلدی اٹھاؤ۔ جب مردہ کو جلا کر چلے جائیں تو اس ہلدی کی گرہ کو اسی جلتے مرزہ کی آگ پر سینگو اور ۸۹ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو ہمزاد حاضر ہو گا جو کہو گے کرے گا جواب عمل ہے۔

نوٹ :- اجازت لینا لازمی ہے ورنہ رجعت و جان کا خوف ہے۔

تسخیر ہمزاد (ایک روزہ)

۳ سال سے ۷ سال کے بچے کو قبر میں اتارتے وقت چار آنہ سرہانے رکھ کر کہو کہ یہ تمہاری چیز کے پیسے ہیں کھاؤ۔ پہلے گھر میں کھیر پکا کر دوہلیٹوں میں رکھ کر جاؤ۔ واپس گھر آ کر پردے میں بیٹھ کر ایک پیالہ ایک طرف رکھ کر کہو لو فلاں کھاؤ۔ کھالے گا لیکن نظر نہ آئے گا۔ دوسری کھیر کی پلیٹ نظر آنے پر دو۔

اپنے مقام پر ایک صاف و ستھری پردہ والی جگہ بناؤ۔ کام کراؤ تو واپس آئے تو فوراً مٹھائی دو جب بھی کوئی کام کروانا ہو تو پہلے مٹھائی لاکر رکھ لو تاکہ مٹھائی دینے میں پریشانی نہ ہو احتیاطاً گھر میں مٹھائی لاکر لازمی رکھو۔

نوٹ :- اجازت لینا لازمی ہے ورنہ رجعت و جان کا خوف ہے۔

تسخیر ہمزاد

منتر :- اُوْم نَمُو نَرَائِن اَنْمِه ہمزاد سُو اِہَا
گرو کی بھگت۔

طریقہ :- صبح آنکھ کھلتے ہی لینے لینے فوراً اس منتر کو اکیس بار شام سورج غروب ہوتے وقت سورج کی طرف منہ کر کے رات کو سوتے وقت لیٹ کر اکیس بار پڑھو۔

احتیاط :- مقام یا جگہ نہ بدلے جائیں۔

پرہیز :- گوشت، لسن، پیاز وغیرہ سے پرہیز کیا جائے اس عمل کو اکیس یوم پڑھو۔ اکیسویں روز ہمزاد حاضر ہو کر تابع ہو گا جو کہو گے کرے گا۔

تسخیر ہمزاد (سہ روزہ)

بِمَظْہِرِ الْعَجَائِبِ بِإِذْنِ اللَّهِ هَمَزَاد۔

طریقہ :- نوچندے پیر سے پہلے روز ۳۸ سو بار۔ دوسرے روز پھر ۳۸ سو بار۔

تیسرے روز چودہ سو بار پڑھو۔ کھیر، عطر، شراب، پشت پر رکھے

تیسرے دن حاضر ہو تو کھیر پیش کرے۔

خوراک :- دودھ، چاول، کامل خلوت۔

نوٹ :- اجازت لینا لازمی ہے ورنہ رجعت کا خوف ہے۔

تسخیر ہمزاد

قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورہ العنکبوت پارہ ۳۱)

۱۰ بار ایک اناج کی روٹی پر روزانہ پڑھو اور فوراً کونیں، سمندر یا دریا میں ڈال آؤ

ڈالتے وقت کہو کہ اے ہمزاد اسکو کھاؤ اور میرے پاس آؤ۔ جس دن آئے روٹی دیکر عہد کر

لو۔ ۳۱ یوم عمل کریں اکیسویں دن حاضر ہو گا جو کہیں گے فوراً حکم بجالائے گا۔

تسخیر ہمزاد

الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ يَا

قَوْمِ هَمَزَاد حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ۔

بعد نماز عشاء چار سو چوبیس بار اکیس یوم تک پڑھو ہمزاد حاضر ہو گا اور تابعداری کرے گا۔

کوئی پرہیز اور دن مقرر نہیں جس دن چاہے شروع کرو۔

تسخیر ہمزاد (سات یوم)

۷۸۶

۴۳۹	۴۴۲	۴۴۶	۴۳۲
۴۴۵	۴۴۳	۴۳۸	۴۴۳
۴۳۴	۴۴۸	۴۴۰	۴۳۷
۴۴۱	۴۳۶	۴۳۵	۴۴۷

نقش مربع سیاہی سے لکھو خالی خانہ کو اچھی طرح پر کرو سامنے نقش کو رکھ کر خالی خانہ میں نظر گاڑ دو اور سکون و یکسوئی سے مندرجہ ذیل اسم ایک ہزار مرتبہ سات یوم پڑھو۔ ساتویں دن حاضر ہو کر تابداری کرے گا۔

اسم یہ ہے: **يَا لَطِيفُ تَلَطَّفْ وَاللَّطْفُ فِي لَطْوِكُمْ يَا لَطِيفُ**

تسخیر ہمزاد (آٹھ روز)

منگل یا بدھ کو مسان میں بیٹھ جاؤ (مرد) مردہ جلتا ہو تو اس میں سے ایک کو تلو الگ کر کے اپنے پیشاب سے بجھاؤ کانڈ میں لپیٹ کر قبرستان جاؤ اور کسی سید کی قبر کی مٹی لے آؤ اور گھرا کر دونوں کو سرمہ کر لو۔ آئندہ منگل یا بدھ کو آب رواں پر جاؤ اور کانسی کی تھالی میں نقش ذیل سات مرتبہ لکھو اور دھو ڈالو۔ ہمزاد حاضر ہو گا۔ مسان جانے سے پہلے دو گھونٹ شراب پی لو۔ نقش یہ ہے۔

خوشی	عنی
اورنگ	تورنگ

تسخیر ہمزاد (سات یوم)

رات کے بارہ بجے کے بعد غسل کر کے خوشبویات لگا کر مصلے پر بیٹھ جاؤ۔ ایک گھنٹہ کامل تصور کے ساتھ آیت ذیل پڑھو۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝

پشت پر چراغ رکھو تاکہ سایہ تمہارے سامنے زمین پر پڑتا رہے۔ سایہ کی گردن نظر رکھو۔ سات یوم ایک گھنٹہ پڑھو انشاء اللہ ساتویں روز ہمزاد حاضر ہو گا اور تابداری کرے گا۔ (پرہیز جلالی و جمالی)

نوٹ :- اجازت لینا لازمی ہے ورنہ رجعت و جان کا خوف ہے۔

تسخیر ہمزاد

حَلَبِ شَافِي حَلَبِ كَافِي حَلَبِ مَاسِ مِيرَاسِيَه كَرْدُو رَاسِ -

رات بارہ بجے روزانہ ۴۱، ۴۱ مرتبہ اتالیس یوم پڑھے۔ شیشہ سامنے رکھے اور پشت کے پیچھے سرسوں کے تیل کا چراغ جلائے۔ اتالیسویں روز ہمزاد حاضر ہو کر تابداری کرے گا۔ (پرہیز جلالی و جمالی)

حضورِ مَسُوکِل

بھورا ہاتھی، زرد پالان، جس پہ بیٹھے باوا اولی سید پہلوان، آئیں گے باوا اولی، کریں گے کچھ بھلی، ہانک مار کے پاکی چلی۔

ترکیب :- اکیس روز تک ۱۰ بار سامنے گھی کا چراغ جلا کر پڑھو۔ شب سنیچریا منگل سے گوشت اور بدبودار اشیاء سے پرہیز۔

عمل ابلیس (سہ روز)

نوچندے اتوار یا منگل کی صبح جنگل میں جاؤ۔ سورج کی پہلی کرن پھونٹے ہی سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب کرو۔ جب معمولی سا گڑھا ہو جائے تو بائیں ہاتھ والی چھٹکی سے گڑھے میں تین چکر دو اسی طرح صبح اور شام تین روز کرو۔ چکر دیتے وقت یہ الفاظ تین مرتبہ دہرائو یا

ابلیس حاضر ہو یا ابلیس حاضر ہو یا ابلیس حاضر ہو۔ تیسرے روز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ عامل کو چاہئے کہ ڈر و خوف نہ کھائے اور جو صلہ و ہمت سے بات چیت کرے اور سوچ سمجھ کر عمد و بیان کرے۔

تسخیر جن (ایک روزہ)

اتوار کو سیاہ بلی کا چمڑہ (کھال) لاکر ٹوپی بنائے۔ دوسرے اتوار شہر سے باہر جا کھڑا ہو جو گائے یا بھینس پہلے داخل ہوگی اس پر ایک جن سوار ہوگا۔ اپنی ٹوپی کو مضبوط پکڑ کر اسکی ٹوپی اتار لو۔ ٹوپی اتارتے وقت یہ پڑھے سات روز پڑھے۔


راجہ جوگی مانگن جل الٹی انکی ریت ڈرتے رہو گرو جی تھوڑی کرو پریت ٹوپی لاکر گھر میں صندوق میں سات روز بند رکھے۔ سات روز بعد پانی کے کنارے (سمندر یا دریا، ندی یا جھیل) جا کر کے مجھ کو کوئی نشانی دے جا اور اپنی ٹوپی لے جا۔ وہ ایک انگوٹھی دے گا۔ آگ پر رکھنے سے حاضر ہوگا۔ جو کو گے وہ کام کرے گا اور زندگی بھر تابع اری کرے گا۔

نوٹ :- اجازت لینا لازمی ہے ورنہ رجعت و جان کا خوف ہے۔

حاضرات

مندرجہ ذیل نقش جن 'بھوت' چڑیل اور ارواح خبیثہ کے حاضر کرنے میں بے مثال ہے۔ نقش کی جتنی بتائیں اور مریض کی ناک میں دھونی دیں۔ طاقتور سے طاقتور جن 'بھوت' اور ارواح خبیثہ فی الفور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نقش سینکڑوں مرتبہ کا آزمودہ ہے کبھی خطائی نہیں کرتا۔ اگر گھر میں کسی بدروح یا آسیب کا سایہ ہو اور عرصہ سے گھر پر قبضہ کر رکھا ہو تو اس نقش کو بنا کر پانچ میں جلائیں انشاء اللہ ایک دو روز میں آسیب گھر چھوڑ کا بھاگ جائے گا۔

نقش حسب ذیل ہے۔



نوٹ :- حاضرات کرنے سے پہلے مٹکلوں کی نیاز گلاب کے پھول 'ایک پاؤ برنی' تھوڑی سی مندی گھول کر رکھے۔ پہلے جناب رسول خدا ﷺ کی نیاز دے کر قلیتہ مریض کے ہاتھ میں دے اور لفظ عبد اللہ بن کو توال جنیاں کی جگہ پر عطر مل دے اور مریض سے کہے کہ وہ عطر کی جگہ پر نظر رکھے۔ اگر آسیب ہو گا تو فوراً حاضر ہو کر ہم کلام ہو گا اور معافی مانگ کر دفع ہو جائے گا۔ دیگر اگر شیشہ میں حاضرات دیکھنا چاہیں تو نقش کے قریب شیشہ رکھیں کہ عکس نظر آئے۔ تو شہ نقش کے قریب ہی رکھیں تھوڑی سی دیر میں تمام احوال شیشہ میں نظر آئے گا۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا نایاب عمل ہے۔

حاضرات شاہ جنات :- ایک گتہ یا سفید کانڈ پر مندرجہ ذیل نقش بنائیں اور سولہویں خانہ میں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے اس میں خود دیکھیں یا بچہ اپنی کو دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل بچے پر یا خود پر اس اسم کو "یا معشر الجن" ۷۰۵ سات سو پانچ مرتبہ پڑھ کر دم

کرے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

عائل کو چاہئے کہ سب سے پہلے اس اسم ”یا معشر الجن“ کی زکوٰۃ نکالے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء اس اسم کو سات سو پانچ مرتبہ اکتالیس دن پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پھر عامل ہو جائے گا پھر اس حاضرات کو خود بھی دیکھ سکتا ہے۔

حاضرات کرنے سے پہلے توشہ ایک پاؤ برفی۔ چند تازہ گلاب کے پھول اور مندی پانی میں گھول کر رکھے۔ بغیر توشہ کے حاضرات نہ کھلے گی لہذا توشہ لازمی رکھیں۔ پھر حاضرات شروع کریں اگر جتنی وغیرہ بھی سلگالیں۔ یہ حاضرات بہت ہی طاقتور ہے اس سے آپ ہر قسم کے کام لے سکتے ہیں۔ مثلاً سٹریس، انعامی بانڈز کے نمبر، گمشدہ کا حال، بیماری سحر وغیرہ۔ غرض اپنے تمام مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے اگر عامل کی قوت ارادی مضبوط ہو اور بچے میں بھی قوت ارادی ہو تو حاضرات بغیر زکوٰۃ کے بھی ہو جاتی ہے لہذا پہلے نقش بنا کر حاضرات کریں امید ہے کہ حاضرات کام کرے گی۔ حاضرات کا نقش یہ ہے۔

	شمال				
	۱۷۶	۱۷۹	۱۸۲	۱۷۸	
	۱۸۱	۱۷۹	۱۷۵	۱۸۰	
	۱۷۰	۱۸۳	۱۷۷	۱۷۴	
	۱۷۸	۱۷۳	۱۷۱	۱۸۳	
	جنوب				

حاضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِحَقِّ
جَمْهُورِش جَمْهُورِش آخو كَ آخو كَ آتَا جَ الْمَلِكِ
آتَا جَ الْمَلِكِ السَّاعَةِ كَهَوْلًا كَهَوْلًا خَطْمًا مَيْشًا
مَيْشًا بِحَقِّ مَيْمُونِ زَنْگِي ابْنِ مَيْمُونِ حَبَشِي۔

طریقہ :- مندرجہ بالا عمل کو روزانہ بعد نماز عشاء ۳۱ مرتبہ گیارہ دن تک پڑھیں۔
(باپربیز) زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بعدہ جب بھی حاضرات کرنی ہو صرف ۲۱ مرتبہ بچے پر پڑھ کر
پھولیں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں
معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کو آپ انگوٹھی، شیشہ، انڈھ پر بھی کر سکتے ہیں۔

حاضرات

يَا حَيِّي يَا قِيَوْمَ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ
بِحَقِّ كَهْلِيْعَصْ حَمْعَسَقْ وَ بِحَقِّ سَلِيْمَانِ بْنِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامِ اے قوم حاضرات حاضرسو حاضرسو
حاضرسو۔

طریقہ :- مندرجہ بالا عمل کو روزانہ بعد نماز عشاء اکتالیس مرتبہ گیارہ دن تک
پڑھیں (باپربیز) اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے تو عامل بچے کی آنکھیں بند کر کے یا ناخن پر کاہل لگا کر
مندرجہ بالا عزیمت اکیس مرتبہ پڑھ کر پھونکے۔ فی الفور حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے
آپ اپنے مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلومات کر سکتے ہیں جو حرف بحرف درست
ہوں گی۔

حاضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ مَلِكًا سُلْطَانِ
الْبَجْنَ وَ الْإِنْسِ أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا مِنْ جَانِبِ
الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَ الْجَنُوبِ وَ الشَّمَالِ بِحَقِّ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ○

طریقہ :- مندرجہ بالا عزیمت کو بعد نماز عشاء اکتالیس مرتبہ گیارہ دن تک پڑھیں (پرہیز جلالی و جمالی) اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

جب بھی حاضرات کرنی ہو اور کوئی مشکل امر پیش آئے تو بچے کی آنکھیں بند کرائیں یا بچے / بچی جو نابالغ ہو اسکے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور عزیمت کو صرف اکیس مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو ناخن میں دیکھنے کو کہیں تھوڑی سی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے مشکل مسائل کے بارے میں تسلی بخش معلومات کر سکتے ہیں۔ تمام معلومات سو فیصد درست ہوں گی۔

حاضرات

سیاہ سانپ کی کینچلی 'سنگ مقناطیس' کا بچ سفید ان تینوں اجزاء کو تین تین ماشہ لے کر خوب کھل کر میں سرمد ہو جائے۔ بعد اس میں قدرے چنبیلی کاتیل ملائیں یہ ایک قسم کا مرہم سا بن جائے گا۔ اب اس کو اپنے انگوٹھے یا ناخن پر لگا کر یا ہتھیلی میں لگا کر اپنے مقصد کا دھیان رکھیں اور یکسوئی سے دیکھیں چند ثانیہ بعد مثل آئینہ تمام حال معلوم ہو جائے گا۔ عامل اس مرہم (اجزاء) کو دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ دوسرا شخص بھی اسی طرح حاضرات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس سیاہی کو آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ غرض ہر مذہب و ملت کا آدمی

اس سیاہی سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔

حاضرات

چاند کی پہلی تاریخ کو جب شنبہ (ہفتہ) پڑے تو اس دن ما لکگنی کاروغن کشید کروائیں اور اس روغن کو اسی دن مٹی کے نئے چراغ میں ڈال کر بارہ مہینے کھلنے والے کپاس کی روٹی کا قلیتہ بنا کر اس چراغ میں روشن کر کے کاجل حاصل کریں اس کو آنکھ میں لگائیں یا ناخن پر لگائیں اور اپنے مقصد کا دھیان رکھیں۔ پانچ دس منٹ بعد مثل نی۔ وی کے تمام احوال معلوم ہو جائے گا۔ عامل یہ کاجل دوسرے کو بھی دے سکتا ہے وہ بھی اسی طرح اس کاجل سے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے۔

حاضرات

بہد کادل اور سیاہ کو سے کی زبان دونوں کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور اس میں چنبیلی کاتیل حسب ضرورت ملا کر کاجل بنالیں۔ جب کبھی حاضرات کرنی ہو تو اس کاجل کو نابالغ بچے / بچی کی آنکھ میں لگائیں اور ایک عدد سفید چادر اوڑھا کر اس سے اپنا مقصد پوچھیں۔ تمام احوال آئینہ کی طرح نظر آئے گا۔

حاضرات

گر بہ سیاہ کا پتہ نکال کر اس کو سیاہ میں خشک کر لیں پھر سفید مرغ کی چربی میں اس پتہ کو ملا کر کوری پاک صاف روٹی میں تر کر کے اس روٹی کو روشن کر کے کاجل حاصل کریں۔ پھر اس کاجل کی ایک ایک سلائی نابالغ لڑکی / لڑکے کے لگائیں اور اسے سفید چادر اوڑھا کر جو پوچھنا ہو پوچھیں۔ تمام احوال درست بتائے گا۔

حاضرات

کو سیاہ پھاڑی اس کی زبان اور گوشت دونوں بروز اتوار حاصل کریں ان دونوں

چیزوں کو خشک کر کے کوری روئی میں پیٹ کر بکری کی چربی کے روغن میں مٹی کے چراغ میں فلیٹ روشن کر کے کابل حاصل کریں اور دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی لگا کر اپنے مقصد کا دھیان رکھیں تھوڑی ہی دیر بعد تمام احوال مثل آئینہ کے نظر آئے گا۔

حاضرات کا جادوئی آئینہ

گدھ کی آنکھیں، ہدہ کی آنکھیں، کوئے کی آنکھیں، چار عدد بکروں کا پتہ، ایک تولہ مکنا طیس، سیاہ بٹخ کی آنکھیں، تمام کو سیاہی میں خشک کر لیں۔ بعد ازاں خوب باریک پیس کر حسب ضرورت شد ملا لیں اور تانبہ کے قلعی شدہ برتن میں رکھ کر آگ پر رکھیں یہاں تک کہ تمام دوائیں جل جائیں۔ ان کو پیس کر حسب ضرورت چینیلی کا تیل ملا لیں اور صاف پاکیزہ آئینہ پر یہ سیاہی مل دیں جس حاضرات کا جادوئی آئینہ تیار ہے۔ جب بھی کسی امر کی ضرورت پیش آئے اس شیشہ میں دیکھیں جو پوچھنا ہو پوچھیں تمام احوال فی۔ وی کی طرح نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس سیاہی (کابل) کی ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگائیں تو جنات و روحانیات کا مشاہدہ ہو گا۔ اس کابل سے انسان اپنا ہمزاد خود دیکھ سکتا ہے لاجواب و بے مثل حاضرات ہے حاضرات کرنے کے بعد آنکھوں کو عرق گلاب سے اچھی طرح دھو لیں بعدہ صاف پانی سے دھو لیں۔

حاضرات
۷۸۶
یا جبرائیلؑ

۲۵۷	۲۵۶	۲۵۹
۲۵۸	۲۵۶	۲۵۷
۲۵۳	۲۴۰	۲۵۵

یا اسرائیلؑ حاضرات حاضرت شو حاضرت شو

طریقہ :- دس یا بارہ سال کے بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں عامل خود بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر برابری پھونکنا رہے جب تک حاضرات نہ کھل جائے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات سو فیصد درست حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا مشتو دیتا

اس اسم کو روزانہ بعد نماز عشاء ۲۷ مرتبہ چالیس یوم (بارہ بیس) پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے کسی نابالغ بچی یا بچہ پر آنکھیں بند کر کے یہ اسم اکیس مرتبہ پڑھ کر پھونکیں فوراً حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر نقش میں حاضرات کرنی ہو تو گیارہ حواں خانہ میں جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے بچے کو دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل بچہ پر درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور اس اسم کو ”یا مشتو دیتا“ صرف اکیس مرتبہ پڑھ کر پھونکے۔ فی الفور حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ تمام معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ عامل خود حاضرات کرنی چاہے یعنی خود حاضرات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ گیارہ حواں خانہ میں غور سے دیکھے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھے اور اس اسم کو ”یا مشتو دیتا“ صرف اکیس مرتبہ پڑھے حاضرات کا نزول ہو جائے گا اور مثل فی۔ وی کے تمام احوال نظر آئے گا جو سو فیصد درست ہو گا۔

حاضرات کا نقش مندرجہ ذیل ہے
یا جبرائیلؑ

۲۹۲	۲۹۶	۲۹۹	۲۸۵
۲۹۸	۲۸۶	۲۹۱	۲۹۷
۲۸۷	۳۰۱	۲۹۲	۲۹۰
۲۹۵	۲۸۹	۲۸۸	۳۰۰

یا اسرائیلؑ بحق یا مشتو دیتا حاضرت شو حاضرت شو

جام جمشید یعنی آئینہ سکندری تیار کرنے کا طریقہ

اجزا :- لاکھ دانہ 'لاجورد' سنگ مقناطیسی ہموزن 'گھری ایک عدد۔

گھری ذبح کر کے آلائش سے پاک کر کے سکھالیں۔ جب گھری سوکھ جائے تو اسے جلا لیں پھر اس راکھ میں تمام اجزاء سرمہ کی طرح باریک ہیں کر شامل کر لیں اور چنبیلی کے تیل میں تمام اجزاء ملا کر کسی صاف شیشہ یا آئینہ پر یہ سیاہی مل دیں آئینہ سکندری تیار ہے۔ جب بھی حاضرات کرنی ہو تو آئینہ کو سامنے رکھ کر مندرجہ ذیل کلمات صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں۔ دوران عمل کافور، لوبان اور صندل کا بخور جلائیں۔ کلمات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ بِسْمِ
اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْبَا اَشْرَاهِبَا
اَلْوَحَا الْعَجَل السَّاعَةِ ۝

تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا مثل ٹی۔ وی اور قلم کی طرح تماشہ دیکھو۔ اس آئینہ سے آپ زمین کے پوشیدہ خزانے معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنے ہنجرے ہوئے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں چور کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگندہ اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

ریس و سٹوڈنٹ دیگر بین الاقوامی لائبریریوں کے نمبر معلوم کر سکتے ہیں۔ غرض عامل جو پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے دیگر اگر آپ حاضرات کی انگوٹھی بنانا چاہیں تو ان تمام اجزاء کو انگوٹھی کا نمونہ نکال کر خالی جگہ میں بھر دیں۔ حاضرات کی جادوئی انگوٹھی تیار ہو جائے گی۔ اس انگوٹھی میں دیکھنے کا وہی طریقہ ہے جو آئینہ کے طریقے میں لکھا گیا ہے اسی طریقے سے انگوٹھی میں بھی حاضرات کریں اور اپنی دلی مراد پوری کریں۔

نوٹ :- آئینہ یا انگوٹھی کو سورج کی شعاعوں سے بچا کر رکھیں ورنہ اثر زائل ہو

جائے گا اور حاضرات نہ ہوگی۔ لہذا حاضرات کرنے کے بعد فوراً شیشہ یا آئینہ پر کپڑا ڈھانک دیں۔

حاضرات

کیکڑے کی آنکھیں، گھریلو بلی کی آنکھیں، ہدہ کی آنکھیں، چمگادڑ کی آنکھیں، ہڑتال بستی ایک تولہ، کاجنچ 1/2 تولہ، سنگ مقناطیس ایک تولہ، سرمہ سیاہ ایک تولہ۔

چاروں کی آنکھیں اسنخی لیکر سایہ میں خشک کر لیں بعدہ تمام چیزوں کو پیس کر چنبیلی کے تیل میں ملا لیں اور کسی صاف و پاکیزہ شیشہ پر یہ تمام سیاہی (کا جل) مل دیں جب بھی حاضرات کرنی ہو تو ایک - و مرتبہ العلیم الوہاب پڑھ لیں بعدہ شیشہ میں جو مقصد ہو وہ دل میں سوچیں اور آئینہ میں دیکھیں تمام مقصد و احوال آئینہ میں ٹی۔ وی کی طرح نظر آئے گا۔
نوٹ :- آئینہ کو سورج کی شعاعوں سے بچائیں۔

حاضرات

جب کبھی مشکل امور کے بارے میں پوچھنا ہو تو کانگڈ کے چار پرزوں پر یہ عبارت لکھو۔
ہامان، قارون، فرعون، ابوہم شیطان، ہنومان، نمرود، ہاروت، ماروت، شداد۔

رات کو سوتے وقت ایک ایک پرزہ (پرچہ) اپنی چار پائی کے چاروں پاؤں کے نیچے (تک) رکھ لیا کرو اور صبح ان پرچوں کو جلا دیا کرو۔ پرزے لکھتے اور جلاتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں۔ چند روز میں سوتے میں اپنے ہمزاد سے باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔

جب کبھی کسی بات کی خبر لینی ہو یا جو بھی پوچھنا ہو تو ان ناموں کے نیچے اپنا مطلب لکھ کر چار پائی کے چاروں پاؤں تلے رکھ دیا کرو۔ رات کو ہر بات کا مکمل و سو فیصد درست جواب ملے گا۔ نہایت ہی آسان و لاجواب عمل ہے۔ کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں اور ہی کسی قسم کے ڈر و خوف کی ضرورت۔

حاضرات شاہ بکتانوش

پہلے مندرجہ ذیل عزیمت کو ایک سو گیارہ مرتبہ چالیس روز پڑھے۔ بعدہ جب عمل میں آجائے کانغذ پر نقش لکھ کر ایک کوراچراغ میں روغن چنبیلی ڈال کر روشن کریں اور مریض کو رو برو بٹھائیں اور یہ عزیمت پڑھتے رہیں۔ شاہ بکتانوش حاضر ہو گا اس سے حال مریض کا بیان کریں اور جو پوچھنا ہو اور جو دریافت کرنا ہو سوال کریں وہ جواب دے گا اور اگر دوسرے آدمی پر حاضرات کرنا ہو تو لڑکی لڑکا نابالغ یا عورت پر حاضرات کرنا چاہئے۔

عزیمت شاہ بکتانوش یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اِحْبَ يَا مَهَائِلُ يَا عَمَاقِيلُ يَا قَنَائِلُ
يَا سَائِلُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَحْضَرُوا لِمَسْخَرَاتِ
وَالْحَاضِرَاتِ بِحَقِّ فَهْمُوشِ تَشْلِيْقًا تَشْلِيْقًا خَرْفُوشِ
خَرْفُوشِ عَدْقُوشِ صَرْحُوشِ سَرْطُوشِ يَشْفِيْتًا يَشْفِيْتًا اَزْ
قُوشِ اَزْقُوشِ هَدُوشِ مَدُوشِ بِحَقِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاَ
رْوَاحِ وَالشَّيَاطِينِ اَحْضَرُوا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اَحْضَرُوا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ
اَحْضَرُوا اَحْضَرُوا يَا فَتْحَ عَلِيِّ شَاهِ حَاضِرْشَوْ بِحَقِّ لَا اِلَهَ اِلَّا
اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ۔

حاضرات نقش یہ ہے۔

یا اجبرائیلؑ

۲۳۴۳	۲۳۵۴	۲۳۵۳	۲۳۵۱
۲۳۵۵	۲۳۵۰	۲۳۴۵	۲۳۵۶
۲۳۴۹	۲۳۵۲	۲۳۵۹	۲۳۴۶
۲۳۵۸	۲۳۴۷	۲۳۴۸	۲۳۵۳

یا عزرائیلؑ

یا عزرائیلؑ

حاضرات

یا مہکائیلؑ

۷۸۶

یا اجبرائیلؑ

۲۳۳۲	۲۳۲۶	۲۳۲۲	۲۳۳۹
۲۳۳۳	۲۳۳۸	۲۳۳۳	۲۳۲۵
۲۳۳۷	۲۳۲۰	۲۳۲۸	۲۳۳۴
۲۳۳۷	۲۳۳۵	۲۳۳۶	۲۳۳۱

یا اسرافیلؑ بِحَقِّ نَمِّ يٰ اَذِيْنَ اللّٰهُ حَاضِرَاتِ يٰ اَعَزَّ اَيْلُ
حَاضِرْشَوْ حَاضِرْشَوْ

طریقہ :- دس یا بارہ سال کے بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور آپ
(عالم اچھے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور یہ الفاظ قَمِّ يٰ اَذِيْنَ اللّٰهُ پانچ سو
بار پڑھ کر بچے پر پھونکے۔ صرف پانچ منٹ میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے
تمام مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کی
سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست بتاتی ہے۔ حاضرات میں
سرتاج و چوٹی کا عمل ہے۔

حاضرات

ہر قسم کی باتیں معلوم کرنے کے لئے بے نظیر ہے

طریقہ :- دریا / نہر کے کنارے بیٹھ کر با وضو سترہ روز بلا ناغہ ایک سو سات بار

مندرجہ ذیل عزیمت پڑھے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ تَبِيْ دَاِلِ وَ دَاِلِ
تَبِيْ دَاِلِ وَ دَاِلِ تَبِيْ دَاِلِ وَ دَاِلِ تَبِيْ دَاِلِ وَ دَاِلِ بِحَقِّ

جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ عِزْرَائِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ يَا
بُدُوْحَ حَاضِرًا يَا حَاضِرًا يَا حَاضِرًا يَا حَاضِرًا يَا حَاضِرًا

سترہ روز کے بعد جس کام کے معلوم کرنے کے لئے پڑھیں گا معلوم ہو جائے گا۔ اگر پانی کے
گلاس میں دیکھ کر پڑھے گا تو پانی میں تمام احوال مثل آئینہ کے نظر آئے گا۔ لاجواب و بے مثل
حاضرات ہے۔

حاضرات

یا مہیکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳

یا عزرائیل

یا اسرافیل

طریقہ :- دس یا بارہ سال کے بچے / بچی کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور
آپ (عامل) بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھونکے اور آیت کریمہ بلا تعداد پڑھ کر
بچے پر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کانزول نہ ہو۔ چند ثانیہ بعد حاضرات کانزول ہو جائے گا
جس سے آپ اپنے تمام مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے
ہیں۔

حاضرات

ذیل کا نقش ایک کانڈر لکھیں اور سو لہو میں خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا گیا ہے وہاں
تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو تعویذ دے کر کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر جما کر رکھے۔
تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کانزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں
معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرات کرنے سے پہلے عامل (آپ) بچے پر درود شریف و سورۃ
اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک کہ حاضرات نہ کھلے۔ نقش یہ ہے۔

یا مہیکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

۱۱۶۳	۱۱۶۷	۱۱۷۰	۱۱۵۶
۱۱۶۹	۱۱۵۷	۱۱۶۲	۱۱۶۸
۱۱۵۸	۱۱۷۲	۱۱۶۵	۱۱۶۱
۱۱۶۶	۱۱۶۰	۱۱۵۹	۱۱۷۱

یا عزرائیل

حاضرات حاضر شو حاضر شو

یا اسرافیل

حاضرات

مندرجہ ذیل نقش کو ایک سفید کانڈر لکھیں اور سو لہو میں خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ
لگایا گیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو کہیں کہ غور سے سیاہ خانہ میں دیکھے اور آپ
(عامل) بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکے اور اکیس مرتبہ بچے پر
"يَا قُطْبُ يَا اَبْدَالَ حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ" پڑھ کر پھونکے تھوڑی
ہی دیر میں حاضرات کانزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں سو فیصد
درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں حاضرات کرنے سے پہلے اگر حق و غیرہ سگالیں اور کمرہ پاک
وصاف ہو اور خوشبو سے معطر ہو۔ حاضرات کے لئے عامل اور معمول دونوں کا پاک و صاف
ہونا ضروری ہے۔

نقش حاضرات یہ ہے۔

۷۸۶

۴۲	۴۵	۴۹	۳۵
۴۸	۳۶	۴۱	۴۶
۳۷	۵۱	۴۳	۴۰
۴۴	۳۹	۳۸	۵۰

بحق یا قطب یا ابدال حاضرات
حاضر شو حاضر شو

حاضرات

یا اجبرائیلؑ

۷۸۶

یا میکائیلؑ

۳۸۰	۳۸۳	۳۸۶	۳۷۲
۳۸۵	۳۷۳	۳۷۹	۳۸۴
۳۷۴	۳۸۸	۳۸۱	۳۷۸
۳۸۲	۳۷۷	۳۷۵	۳۸۷

یا عزرائیلؑ

یا اسرافیلؑ

مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کاغذ پر بنائیں اور سیاہ خانہ میں بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتے رہیں۔ تھوڑی دیر میں بچے کو سیاہ خانہ میں نظر آئے گا جس سے آپ بچے کے ذریعے اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرات کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں کہ حاضرات کا نقش حاضرات کرنے میں صرف ایک ہی بار کارآمد ہوتا ہے دوبارہ آپ اسی نقش پر حاضرات نہیں کر سکتے لہذا حاضرات کرنے میں ہر مرتبہ نیا نقش استعمال کرنا ہوگا۔ نقش کو استعمال کرنے کے بعد چلتے پانی میں بہا دیا کریں تاکہ یہ ہے۔

حاضرات

یا میکائیلؑ

۷۸۶

یا اجبرائیلؑ

۳۲۷	۳۲۷	۳۳۰	۳۱۷
۳۲۹	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۸
۳۱۹	۳۳۲	۳۲۵	۳۲۲
۳۲۶	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۱

یا اسرافیلؑ حاضرات حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کاغذ پر بنائیں اور اگر ترقی وغیرہ سلگائیں بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عامل) بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا میکائیلؑ

۷۸۶

یا اجبرائیلؑ

۴۳۹	۴۴۲	۴۴۶	۴۳۲
۴۴۵	۴۳۳	۴۳۸	۴۴۳
۴۳۴	۴۴۸	۴۴۰	۴۳۷
۴۴۱	۴۳۶	۴۳۵	۴۴۷

یا اسرافیلؑ حاضرات حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو کاغذ پر لکھ کر مٹی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں۔ نقش کو روٹی میں لپیٹ کر ترقی بنا کر روشن کریں۔ اب کسی نابالغ لڑکی رلڑکے کو

چراغ کے سامنے بٹھائیں اور بچے کو کہیں کہ چراغ کی لو کو دیکھتا رہے۔ اسے تھوڑی دیر بعد کوئی غیر معمولی چیز نظر آئے گی جس سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات پوچھ سکتے ہیں۔ اگر حاضرات چراغ میں نہ کرنا چاہیں تو نقش کو سفید کانڈر لکھیں اور سوپوہو میں خانہ میں جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے۔ ادھر تھوڑا سا کاجل لگائیں اور معمولی سا عطر لگا دیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہے تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

فتیہ رواوا م ۳۱۹ ۱۱۳۱۱۸۶۱

طریقہ :- دو اگر بتی سلگائیں اور مندرجہ بالا فتیہ لکھ کر بتی صاف روئی میں لپیٹ کر تلوں کے تیل میں چراغ سفال نو میں ڈال کر جلائیں اور آپ عامل درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھتا رہے۔ جو بات دریافت کرنی ہو روحانیت نقش سے پوچھئے انشاء اللہ بذریعہ آواز جواب سو فیصد درست ملے گا۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ یا میکائیلؑ

۲۵۷	۲۵۶	۲۵۹
۲۵۸	۲۵۶	۲۵۳
۲۵۳	۲۶۰	۲۵۵

یا اسرافیلؑ حاضرات حاضر شو حاضر شو

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کانڈر لکھیں اور جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل

بچے پر درود ابراہیمی اور آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ یا میکائیلؑ

۱۹	۸	۵	۲۲	۷
۲۰	۱۰	۱۷	۱۲	۶
۱	۱۵	۱۳	۱۱	۲۵
۲	۱۴	۹	۱۶	۲۴
۲۳	۱۸	۲۱	۴	۳

یا اسرافیلؑ حاضرات حاضر شو حاضر شو

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کانڈر لکھیں دو یا تین اگر بتیاں سلگائیں عامل اور معمول دونوں پاکیزہ اور با وضو ہوں۔ جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگائیں۔ حاضرات کرنے سے پہلے ایک پاؤ برفی چند عدد گلاب کے پھول اور تھوڑی سی مندی پانی میں گھول کر رکھیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں چند ثانیہ بعد بچے کو سیاہ خانہ میں کچھ نظر آئے گا۔ عامل بچے پر درود ابراہیمی اور آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہے۔ جب بچے کو کوئی ہستی نظر آئے تو آپ بچے کے ذریعے اپنے تمام مشکل امور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ سوالوں کے جوابات سو فیصد درست پائیں گے۔ یہ حاضرات بہت ہی طاقتور ہے ہر قسم کے سوالات کے جوابات سو فیصد درست بتا دیتی ہے کبھی خطائی نہیں کرتی لا جواب و تحفہ نایاب ہے۔

جواب سو فیصد درست دیتے ہیں۔ حاضرات کرنے سے پہلے چند عدد گلاب کے پھول ایک پاؤ
برقی اور تھوڑی سی مندی گھول کر رکھیں بغیر توشہ کے حاضرات نہ کریں ورنہ حاضرات نہ
کھلے گی۔ حاضرات کرنے کے بعد منحنائی معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں اور پھولوں کو پانی میں سما
ویں یا کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔

حاضرات آیت کریمہ

عروج ماہ قمری میں اس عمل کی زکوٰۃ ایک ہفتہ میں مکمل کی جاتی ہے اور ترک جلالی بھی کیا
جاتا ہے۔ بعد نماز عشاء ۳۱۳ بار مندرجہ ذیل عزیمت کو پڑھئے۔ پڑھتے وقت چند اگر بتیاں سلگا
لیں اور عمل کے لئے جامہ سفید پہنیں۔ عمل والے کمرے میں کوئی دوسرا شخص یا سامان نہ ہو۔
عمل کے متعلق کسی سے کوئی ذکر نہ کریں۔ منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہئے۔ جب پہلے دن عمل
سے فارغ ہوں تو آیت کریمہ کا ثواب اصحاب بدر کو پہنچائیں۔ آخری دن یعنی ساتویں روز بھی
ایسا ہی کرے اور کسی سفید شرتی پر نیاز دیں اور شرتی خود بھی کھائیں اور معصوم بچوں کو بھی
کھلائیں۔ اب آپ اس حاضرات کے عامل ہیں۔ زکوٰۃ قائم رکھنے کے لئے چند بار اس عمل کو
روزانہ ورد کر لیا کریں۔ اب جب بھی حاضرات کرنی ہو تو کسی شریف بچی / بچہ کو نسلاد حلا کر
صاف کپڑے پہنائیں پھر نیاز کسی شرتی پر دیں اور اس کا ثواب آیت کریمہ کے منوکات اور
اصحاب بدر کو پہنچائیں۔ اب تھوڑا سا کاہل بچہ / بچی کے انگوٹھے پر لگائیں اور تھوڑا سا عطر لگا
کر ملیں تاکہ خوب چمک پیدا ہو پھر عزیمت پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ چند لمحے بعد ناخن کی سیاہی
میں ایک بار لیش بزرگ اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی نظر آئے گا۔


چنانچہ جو بات بھی معلوم کرنا ہو پوچھ سکتے ہیں۔ شروع شروع میں بچے کو آواز نہیں آتی
بلکہ عبارت میں تختہ سیاہ پر لکھا ہوا جواب ملتا ہے۔ لیکن جب منوکات عامل اور معمول سے
مانوس ہو جاتے ہیں تو آواز آنے لگتی ہے۔ آپ ہر جائز سوال کا جواب ان منوکات سے سو
فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن حاضرات نماز کے اوقات یا نصف الیل یا نصف النہار کو

نہیں کرنا چاہئے۔ حاضرات کے لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک لڑکا / لڑکی پر ہمیشہ حاضرات کی
جائے اگر پہلے دن حاضرات نہ کھلے تو دوسرے روز اور تیسرے روز بھی کرے۔ انشاء اللہ
تیسرے روز حاضرات ضرور کھل جائے گی۔ پہلے دن عزیمت کم از کم ۳۱۳ بار پڑھیں اور
دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا کریں۔ کچھ روز بعد دس یا گیارہ مرتبہ پڑھنے سے حاضرات
فی الفور کھل جایا کرے گی۔ جب منوکات سے معلومات حاصل کر چکیں تو ان کو شکر یہ کے
ساتھ سلام عرض کر کے رخصت کر دیں۔

عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ
وَاقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ اَحَبُّ یَا طَاطَیْلُ سَامِعًا مُّطِیْعًا
بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ
وَبِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝


حاضرات



طریقہ :- یہ حاضرات کسی کرامت سے کم نہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ

حاضرات "الہامی" حاضرات ہے۔ اس حاضرات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ ایک گوہر نایاب ہے جس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے کیوں کہ یہ حاضرات سوالوں کے جوابات سو فیصد درست بتاتی ہے۔ ایک سفید گتہ پر مندرجہ بالا نقش بنائیں۔ کالے دائرہ پر عطر گلاب لگائیں اور کالے دائرہ میں بچے کو دیکھنے کو کہیں حاضرات کرنے سے پہلے حسب مقدور شہینہ پر چاروں خلیفہ اور حضرت غوث پاک کی فاتحہ دے اگر بتیاں وغیرہ ساگائیں کمرہ صاف و ستھرا ہو عامل اور معمول دونوں پاک و صاف ہوں کپڑوں پر عطر لگا ہو کمرہ خوشبو سے معطر ہو عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے اور بعدہ ایک سو ایک مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی ریشا اللہ پڑھ کر پھونکے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کانزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل سے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات سے آپ جائز کام کے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناجائز کام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ حاضرات اذان و نماز کے وقت مت کریں اور محرم الحرام کے دنوں میں مت کریں۔ حاضرات وقت کی مناسبت کے ساتھ کریں حاضرات سے معلومات حاصل کر کے ان کو شکر یہ کے ساتھ سلام عرض کر کے جانے کی اجازت دیں۔


حاضرات



طریقہ :- مندرجہ بالا نقش چھار قلم کو کسی سفید موٹے کانڈ یا گتہ پر بنائیں اور بچے کو نقش دے کر کہیں کہ وہ کالے دائرہ کو غور سے دیکھے کالے دائرہ میں عطر گلاب لگادیں۔ عامل کو چاہئے کہ پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور چاروں قلم شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ کر بچے پر پھونکے فوراً ہی حاضرات کانزول ہو جائے گا اور روحانی مخلوق کے سربراہ حاضر ہوں گے جن سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں مکمل درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں اس میں عمر اور چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ کمرہ صاف ستھرا ہو اور خوشبو سے معطر ہو۔ عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں اس حاضرات سے آپ انشاء اللہ سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

شمال



جنوب

طریقہ :- ایک سفید کانڈ پر مندرجہ بالا نقش بنائیں اور کسی نابالغ لڑکے لڑکی کو کہیں کہ وہ سیاہ خانہ کو بغور دیکھتا رہے۔ کچھ وقفہ کے بعد بچے کو نقش میں ایک بارش بزرگ نظر آئیں گے۔ جن سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں عامل بچے پر درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس وقت تک پھونکتا رہے جب تک حاضرات نہ

کھل جائے جب حاضرات کھل جائے تو معلومات حاصل کر کے سلام عرض کر کے اور شکر یہ ادا کر کے انہیں جانے کی اجازت دیں۔

حاضرات



طریقہ زکوٰۃ :- ۲۰ نقش روزانہ لکھے رات کو ہر نقش پر یہ عزیمت۔

يَابُدُّوْحُ تَبْدُوْحٌ حَثَّ مِّنَ الْبُدُّوْحِ فِي الْبُدُّوْحِ بُدُّوْحِكُمْ
يَابُدُّوْحُ ۲۰ بار پڑھ کر دم کرے صبح $1\frac{1}{4}$ کلو آٹے کی ۲۰ گولیوں میں یہ نقش لپیٹ کر دریا (سمندر) برد کرے ۲۰ دن میں عامل ہو جائے گا۔

طریقہ حاضرات :- یہ نقش کالی سیاہی سے لکھ کر سفید کاغذ پر فریم کرائیں۔ خور و سال بچے کو دیکر درمیان والے کالے خانے پر نظر قائم کرنے کو کہیں اور عامل (آپ) بچے پر ۲۰ بار عزیمت دم کرے نزول حاضرات ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں تسلی بخش جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔

نوٹ :- یہ حاضرات بچوں اور بڑوں پر بھی کی جاسکتی ہے عامل خود بھی حاضرات دیکھ سکتا ہے۔ اس حاضرات میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ	۷۸۶	یا میکائیلؑ
۸۹	۳۵۶	۲۶۷
۳۳۵		۳۶۷
۲۷۸	۳۵۶	۱۷۸
یا اسرافیلؑ		یا عزرائیلؑ

اَجِبْ يَا جَعَزَائِيلُ بِحَقِّ يَا خَبِيْرٍ طَرِيْقَه :- بارہ روز عزیمت ۸۱۴ بار اول و آخر درود شریف ۱۱/۱۱ بار ۱۳ روز پڑھیں انشاء اللہ عامل ہو جائیں گے۔ روزانہ درود ۳۱ بار ضرور رکھیں۔

جب بھی حاضرات کرنی ہو تو کسی بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور عزیمت کو چودہ بار پڑھ کر بچے پر دم کرے نزول حاضرات ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر عامل خود بھی سیاہ خانہ میں دیکھ کر حاضرات سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔


حاضرات ہمدیاری

طریقہ :- نو چندے سنبھ کے دن سات چوراہوں کی سات کنکریاں لے کر آئیں۔ کسی شیشی میں $\frac{1}{3}$ تولہ شراب ڈالیں۔ ٹھیک ۱۴ بجے پہلے چوراہے کی ایک کنکری اٹھا کر شیشی میں ڈالیں۔ اسی طرح سات چوراہوں کی سات کنکریاں شیشی میں ڈالیں چرم سگ پر بیٹھ کر اتوار کی رات ساتوں کنکریاں شیشی سے نکال لیں۔ ہر کنکری پر سو بار ہمدیاری پڑھیں۔ بعد ختم کنکریاں شراب والی شیشی میں ڈال دیا کریں۔ متواتر اکیس روز پڑھیں عامل ہو جائیں گے۔ ناخن پر سیاہی لگا کر بچے پر ہمدیاری اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں حاضر ہوگی اور ہر مشکل سوال کے جواب تسلی بخش و سونفید درست دے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمدیاری دوران

عمل حاضر ہو جاتی ہے اگر عامل ساتھ رکھنا چاہے تو ساتھ رکھ لے ورنہ صرف حاضرات میں حاضر ہو کر سوال کا جواب دینے کی پابندی کرنا کر جانے دیں۔ یاد رکھئے بعد عمل کنکریوں والی شیشی کسی اجاڑ جگہ میں دفن کر آئیں۔ پرہیز گوشت، جماع۔

حاضرات

لَيْسَ لَهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفُهُ



طریقہ :- (6 x 6) کے سفید موٹے کانڈ پر نقش بالا کالی سیاہی سے بنائیں اور موٹے گتے پر چپکالیں۔ ۳ فٹ کے فاصلے پر لٹکا کر درمیانی دائرے پر نظر قائم کر کے سات سو اٹھاون بار آیتہ بالا معہ درود شریف اول و آخر ۱۱/۱۱ بار متواتر سات روز پڑھیں نزول حاضرات ہو گا روزانہ گیارہ مرتبہ کا ورنہ رکھیں بدستور حاضرات کرائیں اور حاضرات کے منوکات سے تسلی بخش معلومات حاصل کریں۔

حاضرات ہمزاد خود

چاند کی پہلی تاریخ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی ناک کا بایاں تختنا پاک روئی سے بند کر لیں۔ رات بعد از عشاء کمرہ تنہائی میں چار زانو بیٹھ جائیں۔ گردن اور کمر سیدھی رکھیں۔ آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ ام الدماغ میں زرد رنگ کا پھول کھلا ہوا ہے جس پر ایک سفید چوکی ہے اور اس پر آپ خود بیٹھے ہیں۔ متواتر ایک گھنٹہ یہ مراقبہ کریں بعد ختم بایاں تختنا

آزاد کر دیں اور سونے سے پہلے پھر نئی روئی سے بند کر لیں۔ ۱۳ تاریخ کے بعد ۱۵ تاریخ سے دایاں تختنا بند اور بایاں آزاد رکھ کر حسب سابق عمل شروع کر دیں۔ جب آپ کو اپنی شبیہ عمل اور تادیر نظر آنے لگے اس سے 'قلب سے باتیں شروع کر دیں اور کہیں کہ مجھے فلاں بات کی خبر دو۔ آہستہ آہستہ سوالات میں اضافہ کرتے جائیں۔ پوری توجہ اور دلجمعی سے کیا تو ممکن ہے ایک ماہ میں ہو جائے ورنہ دوسرے یا تیسرے مہینے ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت حاصل ہونے کے بعد آنے والے سائل کا جواب آپ خود بھی مراقبہ کر کے دے سکتے ہیں۔ دوسرے کو بخاؤ تو اسے زرد پھول کے تصور میں آپ اپنا تصور کرائیں جس سے وہ سوال جواب کرے۔ یہی تصور کر کے بار بار اس کی پیشانی پر دم کروانشا اللہ کامیاب ہوں گے۔



حاضرات

۷۸۶

۶۶	۶۹	۷۲	۵۸
۷۱	۵۹	۶۵	۷۰
۶۰	۷۳	۶۷	۶۴
۶۸	۶۳	۶۱	۷۳

حاضر نشو حاضر نشو حاضر نشو

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش ایک بڑے کانڈر پر لکھیں سیاہ خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا گیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو تعویذ دے کر کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر جما کر رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جن سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ عامل بچے پر دور درو شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اس وقت تک پھونکتا رہے جب تک حاضرات نہ کھل جائے۔

حاضرات

۷۸۶

۱۹۲	۱۸۷	۱۹۵
۱۹۴	۱۹۱	۱۸۹
۱۸۸	۱۹۶	۱۹۰

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک سفید کانڈر پر بنائیں اور سیاہ خانہ میں بچے کی نظر قائم کر کے دیکھنے کو کہیں۔ سیاہ دائرہ میں تھوڑا سا عطر گلاب لگادیں اور آپ (عامل) پر پانچ سو

چوہتر بار یہ اسم **عَوْلَا سَمَانَا سِرِنَه** پڑھ کر پھونکے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر یہ نقش استخارہ میں بھی کار آمد ہے اور کبھی خطای نہیں کرتا۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ مثلث خالی البطن میں اپنا ہاتھ لکھیں۔ نقش سر کے نیچے رکھ کر سوئیں اور یہ اسم **عَوْلَا سَمَانَا**۔ **سِرِنَه** ۵۷۳ بار پڑھ کر سو جائیں انشاء اللہ پہلے ہی دن آپ کے سوال کا سو فیصد درست جواب ملے گا۔ اگر خدا انخواستہ پہلے دن نہ ملے تو تیسرے دن لازمی جواب ملے گا۔ بہترین اور کار آمد و کامیاب استخارہ ہے۔

حاضرات

مندرجہ ذیل حاضرات سرائیکی زبان میں ہے اور زود اثر ہے۔ محل پڑھتے ہی فوراً حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر ۱۳ سال سے زائد نہ ہو اس کے دائیں ناخن پر سیاہی لگائیں اور خشک ہونے پر تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچہ کو سیاہی میں دیکھنے کو کہیں اور عامل بچہ پر یہ عزیمت پڑھ کر پھونکے اول گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اگر حق وغیرہ ساگ لیں عزیمت یہ ہے۔

أَعِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِغُورِ مِيدِي لِي كَهِي فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۝


تھوڑی دیر میں نزول حاضرات ہو گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں کھل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

سب سے پہلے بچہ اپنی کے سر پہ یعنی پیشانی پر یہ آیت لکھ کر چسپاں کرے۔ آیت **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَفْزَحُوا مِنْ أَقْطَارِ**

طریقہ :- ایک اتنا بڑا شیشہ لیں جس میں اپنی شکل نظر آجائے۔ سامنے شیشہ رکھ کر اپنے چہرے کی جانب دیکھ کر آیت کو تین سو بار پڑھیں۔ عمل چڑھتے چاند کریں۔ با وضو پڑھیں۔ اول و آخر ۱۱/۱۱ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر بتی وغیرہ سلگالیں۔ پرہیز جلالی و جمالی کریں۔ کچھ عرصہ عمل پڑھتے پڑھتے آپ شیشہ میں دیکھیں گے کہ آپ کی شکل غائب ہو گئی ہے۔ بس سمجھیں کہ عمل کامیاب ہو گیا۔ اب جب بھی کسی امر کی ضرورت پیش آئے تو شیشہ سامنے رکھ کر عمل کو صرف ۳۳ مرتبہ پڑھیں فی الفور حاضرات کا نزول ہو جائے گا جو بھی دل میں سوچیں گے یا جو پوچھیں گے شیشہ میں صاف نظر آئے گا۔ اگر عامل شیشہ میں لوگوں کو دکھانا چاہے تو عمل کو صرف بائیس مرتبہ لوگوں کی آنکھوں پر دم کر کے دکھائے۔ سب کو شیشہ میں احوال نظر آئے گا۔ یہ حاضرات نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ عامل کو چاہئے کہ عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے عمل کو ہمیشہ ۳۳ مرتبہ روزانہ ورد میں رکھے تاکہ عمل زندگی بھر قابو میں رہے۔ لاکھوں روپے کا عمل ہے اور قابل قدر تحفہ ہے۔

حاضرات



طریقہ :- بچے کے ہاتھ پر یہ نقش بنائیں پھر یہ دعا پڑھیں۔ فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفِّ بَصَرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا ۝ تین بار پڑھیں۔ بخور 'باد تری' 'لوبان' 'ناریل' کا جلا لیں۔ نُرِنِي اِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتِ السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ تین مرتبہ پڑھیں اور بچے کو سیاہ دائرہ میں دیکھنے کو کہیں اور بچے سے پوچھئے کہ تجھے سیاہ دائرہ میں کیا دکھائی دیتا ہے جب وہ کہے کہ ایک شکل دکھائی دیتی ہے تو بچے سے کہلوائے کہ اس سے کہو کہ جھاڑو دے میدان کی صفائی کرے کریاں بچھاؤ بادشاہ جنات کو بلاؤ۔ بچہ سلام عرض کرے اور کہے کہ آپ کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ کچھ دریافت کرنا ہے پھر جو بھی مقصد ہو وہ کہے جو سوال ہو گا اس کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی کام لینا ہو تو کہہ دیں ہمارا فلاں کام کر دیا جائے جب حاضرات ختم کرنا ہو تو ان کو کہیں کہ تشریف لے جائیں آپ کا شکر یہ۔

حاضرات

یا مہکائیلؑ

۷۸۶

یا جبرائیلؑ

۲۲۲	۲۲۵	۲۲۸	۲۲۵
۲۲۷	۲۳۶	۲۴۱	۲۴۶
۲۳۷	۲۵۰	۲۴۳	۲۴۰
۲۴۴	۲۳۹	۲۳۸	۲۴۹

یا عزیزائیلؑ

یا امرئیلؑ

طریقہ :- سب سے پہلے دو اگر بقیوں سلگائیں پھر بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکیں۔ سیاہ خانہ میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کو سیاہ خانہ میں آدمی کی شکل نظر آئے گی۔ اس سے کہے کہ خاکروب کو بلائے اور صفائی کرے، چھڑکاؤ کرے، کریاں بچھائیں، تخت لایا جائے اور شہنشاہ جنات کو حاضر کیا جائے۔ جب بادشاہ حاضر ہو جائے تو بچے سے بادشاہ سلامت کو سلام کہلوایا جائے بعدہ اپنا مدعا بیان کریں جو چاہیں پوچھیں۔ سو فیصد درست تسلی بخش جواب ملے گا بعدہ 'بادشاہ سلامت کو شکر یہ کے ساتھ رخصت کر دیں۔

حاضرات کی جادوئی انگوٹھی

برادہ جست، نیلا تھو تھا، سندرس، گندھک، آملہ، سار، تمام ۶/۶ ماشہ، چھڑا لاکھ چار ماشہ،
بہروزہ خشک ایک تولہ۔

ترکیب تیاری :- پہلے لوہے کے کڑیچھے میں ذرا باریک کر کے بہروزہ ڈالیں
جب بہروزہ پگھل جائے تو پھر باقی دو انہیں باریک کی ہوئی اس میں ڈال کر ملا کر گرم گرم انگوٹھی
کے ٹمبہ والی خالی جگہ میں بھر دیں اور دبا دیں۔ جب بھی حاضرات کرنی ہو تو دس یا بارہ سال
کے بچی اور بچے کو پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف و گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکیں اور
انگوٹھی پر تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کو ایک شکل نظر
آئے گی اس سے کہیں کہ خاکروب کو بلائے صفائی کرے، ماشکی کو بلاؤ، چھڑکاؤ کرے، کرسیاں
بچھاؤ، تخت شامی حاضر کیا جائے، بادشاہ سلامت کو حاضر کیا جائے۔ جب بادشاہ سلامت حاضر ہو
جائے تو بچہ ان کو سلام عرض کرے اور اپنا مدعا بیان کریں جو بھی مشکل امر ہو گا اس کا سو فیصد
درست جواب ملے گا۔

حاضرات

یا اجبرائیلؑ یا معزرائیلؑ

۲۸	۳۱	۳۴	۲۱
۳۳	۲۲	۲۷	۳۲
۲۳	۳۶	۲۹	۲۶
۳۰	۲۵	۲۴	۳۵

یا امراہیلؑ یا رشید آرشیدنیؑ یا معزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش بچے کو کہیں کہ انگوٹھے میں دبا کے رکھے اور آپ
(عادل) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر بلا تہ ادریا رشید آرشیدنی بچے پر پڑھ

پڑھ کر برابر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔ بچے کے دائیں ہاتھ کے ناخن پر کاہل
پہلے لگائیں اور اس پر تھوڑا سا عطر لگائیں تاکہ چمک پیدا ہو پھر بچے کو دیکھنے کو کہیں تھوڑی ہی
دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست
معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا اجبرائیلؑ یا معزرائیلؑ

۳۲۴	۳۲۷	۳۳۰	۳۱۷
۳۲۹	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۸
۳۱۹	۳۳۲	۳۲۵	۳۲۲
۳۲۶	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۱

یا امراہیلؑ یا معزرائیلؑ حاضرات حاضرتھو حاضرتھو حاضرتھو یا معزرائیلؑ

طریقہ :- بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور سیاہ خانہ میں تھوڑا سا عطر لگادیں اور

آپ (عادل) بچے پر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھے اور بچے پر سورۃ اخلاص برابر پڑھ کر
پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔ جب بچے کو سیاہ خانہ میں آدمی کی شکل نظر آئے تو
بچے سے اپنے مسائل کے بارے میں سوالات کریں۔ انشاء اللہ حل طلب مسائل کا جواب سو
فیصد درست ملے گا۔

حاضرات

یا اجبرائیلؑ یا معزرائیلؑ

۵	۱۰	۳	۱۶
۴	۱۵	۶	۹
۱۴	۱	۱۲	۷
۱۱	۸	۱۳	۲

یا معزرائیلؑ

یا امراہیلؑ

طریقہ :- کمرہ صاف ستھرا ہو خوشبو سے معطر ہو اگر بتیاں وغیرہ ساگائیں عامل اور معمول دونوں پاک و صاف ہوں۔ نقش کے سیاہ خانہ میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ عامل پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے پھر چھ یا سٹھ بار اسم **یا اللہ** پڑھ کر بچے پر پھونکے فی الفور حاضرات کا نزول ہو گا جس سے اپنے مشکل امور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو سو فیصد درست ہوں گی۔

حاضرات



طریقہ :- مندرجہ بالا نقش بنائیں اور بچے کے دائیں انگوٹھے میں دبائیں پھر بچہ اپنی کوشش میں دیکھنے کو کہیں اس کو بادل دھوئیں کا نظر آئے گا سر کے اوپر پھر روشنی نظر آئے گی۔ پھر خادم ظاہر ہو گا اس سے جو چاہیں پوچھیں بچے پر عامل یہ دعائیں بار پڑھ کر پھونکے۔
بخور، مصطلی، جاوتری، لوبان کا جلانے۔


دعا یہ ہے۔ طہط الانشان شیشلی مشاق اخلی فی
مشان خفا جاوش ار جلاوش ار جلاوش ار جلاہ رجلا
من عین طیطاھیالطم لطمطم اقسمت علیکم
بالحضور وظہورکم امامی حتی یراکم ناظری
بعینہ ویخاطبکم بلسانہ بحق من لقنی ہذا
علیکم اسرعوالوہا۔ العجل الساعۃ۔

(حاضرات خود)


ایک پیالہ شیشے کا لیں اور اس میں یہ نقش لکھیں پھر اس کو پانی سے بھر دیں پیالے کے چاروں طرف سفید نمک رکھیں اور چار بار یہ دعا پڑھیں۔

بہروش بہروش ہیفا ہیفا ہشت ہشت ہروش
ہروش و من یزرغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب
السعیر الوحا الوحا العجل العجل الساعۃ
الساعۃ۔

پھر پیالہ میں یعنی پانی میں دیکھیں تمام احوال پانی میں نظر آئے گا۔ پیالہ میں لکھنے کا نقش یہ ہے۔ خود دیکھیں۔



آپ ایک آدمی کو کہیں کہ وہ آپ کے چہرے پر یہ آیت لکھے **فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَذَّبِصْرُكَ الْيَوْمَ حديد** بحالت مجبوری خود اپنے ہاتھ سے



کانڈ پر لکھ کر اپنے ماتھے پر چسپاں کر لے اور مندرجہ ذیل نقش کو لکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھے اور سیاہ دائرہ میں خود دیکھے۔ پھر یہ دعا پڑھیں شیشہ یا آئینہ میں دیکھیں تمام احوال معلوم ہو گا دعا یہ ہے۔ بخور کسبرہ (دھنیا) کا جلائیں۔

دعا:- اَيْنَ الَّذِينَ يُحَرِّقُونَ الْاَنْهَارَ وَيَقْطَعُونَ الْفَيَافِيَ
وَالْقَقَارَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِنُورِ وَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيمِ اِنَّهُ
مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَنْ لَا
تَعْلُوْا عَلٰى وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ طَائِعِيْنَ اللّٰهُ رَبَّ
الْعَالَمِيْنَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ اَيْنَ
الْمَلُوْكَ اَيْنَ الْقِيَادِيْنَ اَيْنَ الْاَكْوَانِ اَيْنَ الَّذِينَ اِذَا
نَشَرُوْا اَجْنَبْتُمْ سَدُّوْا الْاَفَاقَ اِنزِلُوْا اِنزِلُوْا اَحْضَرُوْ
اَحْضَرُوْا عَجَلُوْا عَجَلُوْا الْوَحَالَوْحَالَ الْعَجَلِ الْعَجَلِ
السَّاعَةِ السَّاعَةِ اَعْتُوْنِيْ بِخِيُوْلِكُمْ وَرِجَالِكُمْ
صَفَارِكُمْ وَكِبَارِكُمْ دُكُوْرِكُمْ وَاِنَاثِكُمْ اَحْرَارِكُمْ وَ
عَبِيْدِكُمْ اَيْنَ مَنْصَبِ الْاَمِيْرَ اَيْنَ مَرَّةِ الْاَمِيْرَ اَيْنَ
الْاَحْمَرِ الْاَمِيْرَ اَيْنَ بَرْقَانَ الْاَمِيْرَ اَيْنَ شَمْبُوْرَشِ الْاَمِيْرِ
اَيْنَ الْاَبِيْضِ الْاَمِيْرَ اَيْنَ مَيْمُوْنَ الْاَمِيْرَ اَيْنَ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ فِيْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا اِنْ كَانَتْ اِلَّا
صِيْحَتُهُ وَاِحْدَاةٌ اِلَى مُحْضَرُوْنَ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا اِيَّاتِ
بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

شیشے میں تمام حالات معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات

حاضرات کا جنتر

ت	۸	۳	۸	۱
ر	۶	۳	۶	۵
د	ک	۹	۲	۷
لی	۴	۵	۴	۷

آٹھ یا دس سال کی پاک لڑکی کو بٹھائے اور اس جنتر کی جی بنائے اور پاکیزہ روٹی پیٹ کر تلوں کے تیل میں ڈال کر چراغ جلائے تھوڑی سی دیر میں بچی کو چراغ کی لومیں ایک انسانی شکل نظر آئے گی جس سے آپ بچی کے ذریعے ہر مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات کا منتر

اوم نمہ کا مکھیا یے سرب سدھایے امک کرم کر سورہا ایہ منتر یہ بہنک رشی جکتی۔
چندہ۔ کا مکھیا دیوتا۔ پر نو ٹکتی ابکتی کیل کم امک کر من ہے۔ نیلو کہ اوم انگشٹھا بھیام نمہ کا
کھیاے تر جنی بھیام نمہ سورہا سرب سدھ دایے مدھما بھیام دکھٹ مک کرم انام کا بھیام ہم کر کر
کنشٹھا بھیام دوکھٹ سورہا کر تل کر پر شٹھا بھیام استراے پھٹ دم پلو بردیاے کا مکھیاے شر سے
سورہا سرب سدھ دایے نکھایے دکھٹ امک کرم کو چائے ہم کر کر نیترا تریاے دوکھٹ سورہا

استرائے پھٹ۔

طریقہ :- آٹھ یا دس برس کی لڑکی کو چراغ کے آگے بٹھائے چند عدد گلاب کے پھول اور تھوڑی سی مٹھائی رکھے پھر بچی کو چراغ کی لو میں دیکھنے کو کہے اور (آپ) عامل بچی پر مندرجہ بالا منتر پڑھ کر پھو نکلتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچی کو چراغ کی لو میں انسانی شکل نظر آئے گی پھر اس سے اپنے مشکل امور کے بارے میں پوچھتے وہ سچ سچ کہے۔

حاضرات کی جادوئی انگوٹھی

سورج گرہن میں آٹھ دھات سے انگوٹھی بنوائیں (۱) تانبہ ایک ماشہ (۲) پیتل ایک ماشہ (۳) جست ایک ماشہ (۴) سکہ ایک ماشہ (۵) قلعی ایک ماشہ (۶) چاندی تین ماشہ (۷) لوہا ایک ماشہ (۸) سلور ایک ماشہ۔

طریقہ تیاری :- تمام دھاتیں یکجا کر کے کسی سنار سے گلو کر اپنے ناپ کی انگوٹھی بنوائیں۔ یہ انگوٹھی سورج گرہن کے وقت تک بنوائیں ورنہ کار آمد نہ ہوگی۔ اس کے بعد گمینہ والی خالی جگہ میں تھوڑا سا گندہ بہروزہ اور تھوڑی سی چڑا لاکھ پگھلا کر بھردیں۔ بس جادوئی انگوٹھی تیار ہے جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو انگوٹھی پر تھوڑا سا کاجل لگائیں اور معمولی سا عطر لگائیں اور گیارہ مرتبہ درود شریف اور سات بار سورۃ اخلاص پڑھ کر انگوٹھی پر دم کریں اور انگوٹھی میں دیکھیں جو چاہیں پوچھیں تمام احوال انگوٹھی میں نظر آئے گا جو سو فیصد درست ہوگا۔ انگوٹھی میں عامل بچے کو بھی دکھا کر معلومات حاصل کر سکتا ہے یا خود حاضرات کا مشاہدہ کریں جو پوچھیں کے اس کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔

نوٹ :- یہ انگوٹھی صرف سورج گرہن میں ہی تیار ہوتی ہے اس کے بعد اگر بنوائی تو کارگر نہ ہوگی یہ خیال رکھیں۔

حاضرات

یامیکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

ن	حَمَسَق	اَلَم
یَسَیْن	حَم	اَلَمَص
اُمَیْن	ق	کھِیَعَص

یا عزرائیل

یا اسرافیل

طریقہ :- حاضرات کے لئے ضروری ہے کہ عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں۔ لباس خوشبو سے معطر ہو، کمرہ صاف ستھرا اور خوشبو سے منک رہا ہو۔ حاضرات اگر ایک مرتبہ نہ کھلے تو بار بار حاضرات کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاضرات کے وقت یکسوئی نہیں ہوتی اور بچے کا ذہن منتشر ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کچھ بچوں میں قوت ارادی بالکل نہیں ہوتی ان وجوہات سے بھی حاضرات کا نزول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھونکیں اور اڑتالیس مرتبہ حمعسق پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں۔ سیاہ خانہ میں عطر لگائیں تھوڑی ہی دیر میں بچے کو سیاہ خانہ میں روشنی نظر آئے گی پھر بچے کو ایک میدان نظر آئے گا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نظر آئے گا۔ بچے سے کہلوایا جائے کہ خاکروب کو بلاؤ بھارو دے ماشکی کو بلاؤ چھڑکاؤ کرے دریاں بچھاؤ تخت شاہی حاضر کیا جائے پھر بادشاہ کو بلاؤ پھر بچے سے بادشاہ سلامت کو سلام عرض کیا جائے۔ جو چاہے سو پوچھو انشاء اللہ تمام مشکل امور کے سوالات کے جوابات کا تسلی بخش و سو فیصد درست جواب ملے گا۔ بعدہ بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کریں اور سلام عرض کر کے انہیں جانے کی اجازت دیں۔

حاضرات خود

یا جبرائیلؑ

۱۱۸	۱۲۳	۱۱۶
۱۱۷	۱۱۹	۱۲۱
۱۲۲	۱۱۵	۱۲۰

یا اسرافیلؑ بحقی خود طیر حاضرات حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش میں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر گلاب لگائیں اور اب آپ خود آٹھ سو پچیس مرتبہ اسم خود طیر پڑھ کر سیاہ خانہ میں پھونکیں اور سیاہ خانہ میں آپ خود حاضرات کا مشاہدہ فرمائیں جو کچھ بھی دریافت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔ اگر اس حاضرات کو بچے پر بھی کر سکتے ہیں بچے سے جو بات پوچھیں وہ سو فیصد درست بتائے گا۔

حاضرات (خود)

مندرجہ ذیل نقش اتوار کے دن سورج طلوع ہونے کے دس پندرہ منٹ بعد دو عدد لکھیں۔ ایک نقش تو جاری پانی میں ڈال دیں اور دوسرے نقش کو بتی بنا کر اور اس پر ذرا سی پاک و صاف روئی لپیٹ کر رات کو سوتے وقت چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر روشن کریں۔ مگر چراغ اس طرح رکھیں کہ عامل کی نگاہ کے سامنے ہو اور خود اس چراغ پر نگاہ کر کے سورہ جن پڑھنا شروع کرے یہاں تک کہ اسی حالت میں نیند آجائے اسی رات میں کسی جن یا منوکل سے خواب میں ضرور ملاقات ہوگی اور عامل کے سوالوں کا جواب بھی ملے گا۔ اگر پہلے دن ملاقات نہ ہو تو پھر پیر کے دن دو نقش لکھے پیر کے دن صبح آٹھ بجے سے نو بجے تک کا وقت ہے ایک دریا میں یا نہر میں ڈال دے اور دوسرے کی بتی بنا کر حسب ترکیب عمل کرے۔ اگر دوسرے دن بھی ملاقات نہ ہو تو پھر دوسرے اتوار کو طلوع سے دس پندرہ منٹ بعد دو عدد نقش

لکھے اور حسب ترکیب بالا عمل کرے تیسرے دن ضرور ملاقات ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ جب تک نیند نہ آئے سورہ جن پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جس جگہ کوئی دریا یا نہر نہ ہو وہاں عمل نہ کرے۔ اگر حاضرات صرف بچے پر کرنی ہو تو سیاہ خانہ میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے پر ایک بار سورہ جن پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرات کا نقش یہ ہے۔

یا جبرائیلؑ حاضرات کا نقش

۲۱۲۹۲	۲۱۲۹۵	۲۱۲۹۸	۲۱۲۸۵
۲۱۲۹۷	۲۱۲۸۶	۲۱۲۹۱	۲۱۲۹۶
۲۱۲۸۷	۲۱۳۰۰	۲۱۲۹۳	۲۱۲۹۰
۲۱۲۹۴	۲۱۲۸۹	۲۱۲۸۸	۲۱۲۹۹

یا عزرائیلؑ

حاضرات

یا اسرافیلؑ

یا میکائیلؑ

۷۸۶

یا جبرائیلؑ

۴	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۷	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۶	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵

یا اسرافیلؑ بحقی معید حاضرات حاضر شو حاضر شو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش میں جہاں سیاہ نشان لگایا ہے وہاں تھوڑا سا عطر گلاب لگائیں اور بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور ایک سو چوبیس مرتبہ یا معید پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر

حاضرات

یا جبرائیلؑ

یا میکائیلؑ

۱۰۶۶۲	۱۰۶۶۵	۱۰۶۶۸	۱۰۶۵۳
۱۰۶۶۷	۱۰۶۵۵	۱۰۶۶۱	۱۰۶۶۶
۱۰۶۵۶	۱۰۶۷۰	۱۰۶۶۳	۱۰۶۶۰
۱۰۶۶۴	۱۰۶۵۹	۱۰۶۵۷	۱۰۶۶۹

یا اسرافیلؑ حاضرنا حاضرشو حاضرشو حاضرشو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش میں جہاں سیاہ نشان لگا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عامل) بچے پر درود شریف اور سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکتا رہے جب تک حاضرات نہ ہو۔ جب حاضرات کانزول ہو جائے تو بچے سے اپنے تمام مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کریں۔

حاضرات

یا جبرائیلؑ

یا میکائیلؑ

۱۴۶	۱۴۹	۱۵۲	۱۳۹
۱۵۱	۱۴۰	۱۴۵	۱۵۰
۱۴۱	۱۵۴	۱۴۷	۱۴۴
۱۴۸	۱۴۳	۱۴۲	۱۵۳

یا اسرافیلؑ حاضرنا حاضرشو حاضرشو حاضرشو یا عزرائیلؑ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو ایک صاف کانڈ پر لکھیں اور سیاہ خانہ میں عطر لگاب لگائیں اور بچے کو کہیں کہ غور سے سیاہ خانہ میں دیکھے اور آپ (عامل) بچے پر درود شریف

اور سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کانزول نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کانزول ہو گا پھر بچے کے ذریعے تمام تفصیل سے حالات معلوم کریں جو سو فیصد درست ہوں گے۔

حاضرات

۷۱۶

یا کریم	یا رحیم	یا رحمن	یا اللہ
یا قیوم	یا قادر	یا ذاق	یا مالک
یا ذاق	یا ذاق	یا ذاق	یا ذاق
یا ذاق	یا ذاق	یا ذاق	یا ذاق

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کسی صاف ستھرے کانڈ پر بنائیں اور سیاہ خانہ میں عطر لگاب لگائیں اور بچے کو کہیں کہ سیاہ خانہ میں غور سے دیکھتا رہے۔ آپ (عامل) بچے پر درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص اس وقت تک پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کانزول نہ ہو۔ جب حاضرات کھل جائے تو بچے سے اپنے مشکل امور و مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں جو سو فیصد درست ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

حاضرات

۷۱۶

یا میکائیلؑ	یا جبرائیلؑ	ط	حبیب
ط	وحد	وحد	وحد
ط	وحد	وحد	وحد
ط	وحد	وحد	وحد

یا عزرائیلؑ

یا اسرافیلؑ

طریقہ :- سیاہ خانہ میں بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عائلہ) بچے پر عزیت **يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَبِيرِ يَا خَبِيرًا خَيْرِنِي** اس وقت تک بچے پر پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

یا میکائیل^ع

۷۸۶

یا جبرائیل^ع

۳۷۷	۳۸۰	۳۷۰
۳۸۳	۳۷۱	۳۸۱
۳۷۲	۳۸۶	۳۷۵
۳۷۹	۳۷۴	۳۸۵

یا عزرائیل^ع

یا اسرافیل^ع

طریقہ :- سیاہ خانہ میں عطر لگائیں اور بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عائلہ) بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھونکے اور **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** پڑھ کر پھونکتا رہے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

لالہ کا دربار اللہ کی چوکی محمد رسول اللہ کا حکم حاضر کرو حاضرات سب میرے حکم میں لا۔ دہائی پنجتن پاک کی المدد یا غوث الاعظم دیکھو۔

ترکیب زکوٰۃ :- اس عمل کو روزانہ ۷۰ بار اکیس روز تک باہر بیٹھیں۔

انشاء اللہ عمل میں آجائے گا اس کی ابتدا بچے سے کرے جب حاضرات مکمل جائے تو بڑوں پر کریں۔

حاضرات آئینہ

(۱) اللہ علی ذوالفقار دربالا سے بار بار

(۲) لاله الا اللہ محمد رسول اللہ

(۳) الکریم قادر لونا کو کر حاضر

طریقہ :- اس عمل کو اللہ علی ----- قادر تک روزانہ ۲۱۰۰ بار ۲۱ روز تک باہر بیٹھیں۔ یہ عمل چھوٹے بڑے سب پر کر سکتے ہیں۔ اس میں معمول کو سامنے بٹھائے یعنی جو طالب ہو وہ پاک و صاف ہو با وضو عطر وغیرہ لگائے خوشبو جلائے۔ نمبر ایک والا عمل گیارہ بار پڑھ کر معمول پر دم کرے اور پوچھے کہ کچھ نظر آیا اگر کہے کہ میدان یا روشنی نظر آئی تو سمجھ لو کہ حاضرات کا نزول ہو گیا اگر حاضرات نہ کھلے تو کلمہ طیبہ اکیس بار پڑھ کر معمول پر دم کرے اگر پھر بھی حاضرات نہ کھلے تو تیسرے نمبر والا عمل کرے الکریم قادر کے بعد کہے لونا کو حاضر کرو۔ اس طرح گیارہ بار عمل پڑھ کر معمول پر دم کرے انشاء اللہ تین بار کرنے سے عمل چل جائے گا اور حاضرات کا نزول ہو گا۔

حاضرات آئینہ (خود)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
چو حاضر شو یا اللہ یا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو آئینہ کے پیچھے لگائے زعفران و عرق گلاب سے نقش کو لکھے اس کے بعد آئینہ کو معمول کے سامنے رکھے اور مندرجہ ذیل عزیمت اکیس مرتبہ پڑھے انشاء اللہ جلد ہی حاضرات کا نزول ہوگا۔ یہ حاضرات عامل خود بھی کر سکتا ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں پڑھنے کی عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا بَدُوْح اللّٰهِ یَا اللّٰهِ
حاضرات حاضر ہو یا اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه انشاء
اللہ جلد مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔

زکوٰۃ کا طریقہ :- عزیمت جو پڑھنے کی ہے اس کو اکیس روز تک روزانہ ۱۰۰ بار پڑھے عمل قابو میں آجائے گا۔ بسم اللہ الرحیم والا نقش روزانہ ۳۱ عدد اکیس روز تک لکھے اور آخر میں تمام جمع کر کے سمندر یا دریا میں ڈال دے۔


حاضرات




طریقہ :- سیاہ خانہ میں پچھ کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عامل) بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور ستر مرتبہ **یَا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ** پڑھ کر چھوٹے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہوگا جس سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو

پوچھیں گے ان کا جواب درست پائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حاضرات آبی



مندرجہ بالا گول دائرے کے ۲۵ نقش بنائے۔



اور ذیل کے پندرہ نقش بنائے اور مندرجہ ذیل عزیمت پڑھے۔

بطر ذہبج داح بدوچ اجھڑط بادشاہ اجھڑط شہنشاہ
اجھڑط ۝

طریقہ زکوٰۃ :- عزیمت کو پندرہ سو بار ۳۱ یوم تک پڑھے اور نقش بھی روزانہ لکھے

گول دائرے والے نقش ۲۵ عدد لکھنے ہوں گے اور دوسرا نقش بھی پندرہ عدد لکھے۔ عرق گلاب و زعفران سے لکھیں بعدہ نقش دریا میں ڈال دیں۔ عمل دریا کے کنارے کرے اکیس یوم کے بعد عمل قابو آجائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک شیشہ کا گلاس لیں اور اس میں پانی بھریں اور عزیمت کو اکیس بار پڑھیں تمام احوال پانی میں نظر آئے گا۔

حاضرات سفلی

ریس 'سٹہ انعامی بانڈ زود دیگر بین الاقوامی لائٹریاں۔

مندرجہ ذیل حاضرات کسی کرامت سے کم نہیں یہ الہامی حاضرات ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے گویا یہ ایک گوہر نایاب ہے۔ اس حاضرات کی قدر و قیمت تجربہ کرنے پر معلوم ہوگی زیادہ تعریف لکھنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ ریس 'سٹہ انعامی بانڈ کے اعمال حاصل کرنے میں لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں مگر گوہر نایاب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حاضرات اس سلسلہ میں آپ کی دلی مراد پوری کر سکتی ہے جو بھی اس حاضرات کو کرے گا وہ اپنا دامن خوشیوں و موتیوں سے بھرے گا۔ یاد رکھیں سچائی تجربہ کی محتاج ہوتی ہے ایک مرتبہ آزمائیں اور بار بار آزمائیں اور اپنی دلی مراد پائیں۔ جوں جوں آپ حاضرات کرتے جائیں گے اسی طرح آپ اس پر عبور حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ہر چیز محنت و کوشش سے حاصل ہوتی ہے یاد رکھیں حاضرات میں تجربہ و فہم و ادراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاضرات کرنا اور اس کو سمجھنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں اس میں تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔

بخور :- لوبان اور گول کو برابر جلاتے رہیں جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔

طریقہ حاضرات :- سیاہ خانہ میں تھوڑا سا عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عامل) بچے پر "یا قارون یا شیطان نمبر بتا" اس وقت تک پڑھ

پڑھ کر پھونکتے رہیں جب تک حاضرات نہ کھلے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس کے ذریعے آپ سٹہ کا نمبر انعامی بانڈ کے نمبر ریس و بین الاقوامی لائٹریوں کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ نمبر اور اصل نمبر پوچھنا یہ عامل کی صوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حاضرات کا علم کسی کرامت سے کم نہیں۔ اگر حاضرات سے صحیح لطف و فائدہ حاصل کرنا چاہے تو حاضرات ٹھیک دن کے بارہ بجے کرے اور اپنی دلی مراد حاصل کرے۔

مندرجہ ذیل حاضرات کے نقش کو کسی بڑے کاغذ پر بنائیں۔ نقش یہ ہے۔



یا قارون یا شیطان نمبر بتا
حاضرات

طریقہ :- عروج ماہ میں دائرۃ الارواح کی اس شکل کو کاغذ پر تحریر کرے اور اپنے سامنے شرقی دیوار پر اس قدر اونچا کر کے چسپاں کرے کہ جس میں بخوبی دیکھا جاسکے۔ عامل ذیل کی عزیمت کو اٹھائیں دفعہ پڑھ کر دائرۃ الارواح کے چاروں طرف تحریر کردہ حروف "ابجد" کے دائرہ میں سے الف کے دائرہ کو سیاہی سے پر کر دے اور خشک ہونے پر عطر گلاب لگا کر اس

دائرہ میں کچھ دیر تک بغور دیکھتا رہے۔ اگر احضار ارواح روحانیت نہ ہو تو پھر اسی طرح عزیمت کو دوبارہ اٹھائیں دفعہ پڑھ کر حرف (ب) کے دائرہ پر سیاہی لگا کر خشک کرے اور عطر گلاب و حناء سے تر کر کے ملاحظہ کرے۔

اس عمل کو متواتر تمام حروف ابجد پر ترکیب حروف کے لحاظ سے بجالاتا جائے جس حروف کے دائرہ میں اس عمل کی برکت سے ارواح روحانیت کی حاضری عمل میں آجائے اس پر ہی عمل کو ختم کر دے اگر تمام حروف پر اس عمل کے بجالاتے پر بھی احضار ارواح نہ ہو تو پھر عزیمت عمل کو حسب سابق پڑھ کر دائرۃ الارواح کے مرکزی دائرہ پر سیاہی لگائیں اور خشک ہونے پر عطر گلاب سے معطر کر کے دائرہ پر نظر کریں تو لمحہ بھر میں دائرہ کے آئینہ میں ارواح و روحانیت عامل سے نہایت ادب و احترام کیساتھ سلام کر کے اس کا مطلب دریافت کرتی ہیں۔ عامل اپنا جو مقصد ہو بیان کرے اور جو چیز اسے معلوم کرنا ہو پوچھے ارواح روحانیت فوراً ہر حکم بجالاتیں گی۔

عزیمت عمل یہ ہے۔

أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ الْمُبَارَكَةُ
الْمَائِيَّةُ وَالْهُوَانِيَّةُ وَالْتَّرَابِيَّةُ وَالْعَلَوِيَّةُ وَالسَّفَلِيَّةُ
مَنْ يُطْلِعُ مِنْكُمْ بَسْرُقَ السَّمْعِ إِلَى السَّمَاءِ وَ مَنْ
يُؤَافِقُ الْكَوَاكِبِ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ وَالْمُخْتَلَفَةِ وَ
مَنْ يَسِيرُ سِيرَ النُّجُومِ وَ مَنْ سَيَّفِي بِنُورِ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ وَ هُوَ مَخْلُوقٌ تَحْتَ الْأَرْضِ وَ مَنْ يَعْرِفِي
الْهَوَى وَ مَنْ يَأْدِي فِي السَّحَابِ وَ الْبَحَارِ وَ الْفِقَارِ
وَالْبَرَارِي الْمَرَحِ وَالْجِبَالِ وَالْأَعَامِ وَالْمَفَازَاتِ
وَالشَّهْلِ وَالْوَعْرِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُنْقَطَعَةِ وَالطَّرْفِ

الصَّعْبَةِ وَالْمَرَاضِعِ الْمُظْلِمَةِ وَالْمُفْسِيَةِ وَ مَنْ خَلَفَ
اللَّهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَ مَنْ هُوَ سَامِعٌ مُطِيعٌ لَا سَمَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى بَاهِيًا شَرَاهِيًا أَوْ وَنَائِيًا أَجْسَادِيَّتًا أَلْ
شَبْدَائِي أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الْأَرْوَاحُ بِالْحَيِّ
الْقَيُّومِ إِلَّا مَا أُجِبْتُمْ وَ حَضَرْتُمْ إِلَيَّ فَجَلِسِي هَذَا فِي
إِسْرَاعٍ وَقْتٍ وَ ابْلُغِ سَاعَةَ (۲۸ مرتبہ پڑھے)۔

حاضرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ دل کو ترلے گیا گھیرا پڑا نہیں کاشاہ
طور۔ حاضرات کو حاضر کر دے صدقہ محی الدین کا یَا صَمَدُ یَا صَمَدُ
یَا صَمَدُ ○

ترکیب عمل :- ایک صاف آئینہ لے کر بیچ میں کاہل لگائے دائرے کی
صورت میں اور اس پر تھوڑا سا عطر گلاب لگائے تاکہ اس میں چمک پیدا ہو۔ رات کو عشاء کے
بعد آئینہ اپنے سامنے رکھے اور روزانہ اکیس سو بار اکیس روز پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ
مرتبہ درود شریف پڑھیں پر ہیز جلالی و جمالی کریں۔ انشاء اللہ حاضرات چند روز میں کھل جائے
گی۔ مثل نی۔ وی کے سب تماشہ دیکھو۔ عمل اکیس یوم کرنا ہے اکیس دن بعد زکوٰۃ مکمل
ہو جائے گی اور آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ مکمل ہونے کے بعد حضرت محی
الدین رحمۃ اللہ کی نیاز دلوائیں۔ جب کبھی بھی کسی امر کی ضرورت پیش آئے آئینہ سامنے
رکھ کر عمل کو صرف گیارہ بار پڑھیں۔ تھوڑی سی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا
جس سے آپ ہر مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً چوری، گم شدہ شخص کا
حال معلوم کرنا، بیماری یا سحر، امتحان کے نتائج معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ۔

حاضرات

حاضرات حضرت خضر علیہ السلام

طریقہ :- سات رنگ کی شرنبی پر اور چند خوشبو دار پھولوں پر حضرت خضر کی فاتحہ دلائیں پھر ایک لونا پانی کا بھرا ہوا مٹکوا کر اپنے قریب رکھیں اور اس میں چار پانچ تاشے یا شرنبی ڈالیں۔ ایک نابالغ لڑکے / لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر اس کے ناخن پر سیاہ روشنائی سے مندرجہ ذیل اٹھارہ کا آبی نقش لکھیں۔ اس کے بعد اٹھارہ بار مندرجہ ذیل عمل پڑھیں۔ لڑکا / لڑکی نقش پر نگاہ جما کر رکھے۔ جب حضرت خضر کی حاضری ہو جائے تو ان سے احترام و ادب کے ساتھ سوال و جواب کریں۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۹	۲	۷
۴	۶	۸
۵	۱۰	۳

حاضرات میں پڑھنے کا عمل یہ ہے اس کو اٹھارہ مرتبہ پڑھیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَوْ خَضْرَ جَاوُ خَضْرَ گھیر گھار لاؤ خَضْرَ جلد حاضر کن

حاضرات

تانبہ کے ایک چراغ میں چنبیلی کا تیل ڈال کر ذیل کے نقش کو روئی میں لپیٹ کر فیتلہ کو روشن کریں اور کسی نابالغ عمر کے بچے / بچی کو سامنے بٹھا کر روشن فیتلہ کے درمیان غور سے دیکھنے کے لئے کہیں۔ دو چار ساعت میں فیتلہ میں حاضرات آ موجود ہوں گے۔ جن سے آپ

اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

۷۸۶

۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰

حاضرات

اونگہ (چرپٹہ) کی سوکھی ٹکڑی لے کر اس پر روئی لپیٹ کر بتی بنا کر گھی کے چراغ میں جلانے اور نو دس برس کے لڑکے کو نسلادھلا کر پاک و صاف کپڑے پہنا کر چراغ کی لو میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی دیر میں لو میں چھروں کا راجہ مع اپنی فوج کے دکھائی دے گا جو کچھ بات چیت کرے گا وہ بھی بخوبی سنائی دے گی۔ اس وقت جو کچھ معلوم کرنا ہو لڑکے کی معرفت معلوم کریں چھروں کا راجہ اپنے خادموں کے ذریعے آپ کا کام کرا دے گا۔

حاضرات

مندرجہ ذیل نقش پر عطر لگائے پھر سفید چادر بچھا کر چاروں کونوں پر لوہے کی کیلیں گاڑ دے اور لڑکے کو چادر پر بٹھائے لڑکے کو پھول کا ہار پہنائے، عطر لگائے پھر تھوڑے سے چاول اور چند عدد چنبیلی یا موتیا کے پھولوں پر یہ عزیمت پڑھ کر لڑکے پر مارے۔ جب بادشاہ سلامت نظر آئے تو تھوڑی برنی چند عدد گلاب کے پھول مندی نذر کر کے جو پوچھنا ہو سو پوچھیں۔ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔ لڑکا سیاہ خانہ کو برابر دیکھتا رہے جب تک حاضرات نہ کھلے۔ عامل بچے پر برابر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا ہے۔

حاضرات کا نقش یہ ہے۔

ص	ش	ص	ش
ش	ص	ش	ص
ص	ش	ص	ش
ش	ص	ش	ص


حاضرات

ایک پاک و صاف مکان کو معطر کر کے دوران عمل صندل اور کافور کا بخور روشن کریں اور بارہ سال سے کم عمر کے لڑکے / لڑکی کو نسلادھلا کر صاف لباس پہنا کر عطر لگا کر ذیل کے فتیلہ کی تین دفعہ دھونی دو اور کورے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر بتی جلاؤ اور سورۃ اخلاص تلاوت کر کے بچے پر دم کرتے جاؤ اور کہو کہ دیکھے کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں؟ جب چراغ کی لو میں اسے کوئی صورت نظر آئے تو پہلے صفائی والے کو بلائے پھر تخت سلیمانی طلب کرے اور تمام مشکل امور کے بارے میں معلومات کرے۔ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔

فتیلہ یہ ہے۔

۲۰۰۸۰۱۰۱۰۰	ف
------------	---

حاضرات و شگیری



حاضرات و شگیری

طریقہ :- سب سے پہلے اگر بتی سلگائیں اور کسی بالغ لڑکے یا آدمی کو سیاہ دائرے میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ (عالم) مندرجہ ذیل اسم ہیضدا برار اللطیف کو ایک سو ایک بار پڑھ کر معمول پر پھونگے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ پر انزبانڈ کے نمبر اور جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔ دیگر اگر کوئی آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے تو اس حاضرات کے متوکل اس کا مزاج درست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے دل میں چاہیں اس کے دل میں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بھی محبت کا سچا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات میں چھوٹے اور بڑوں کی کوئی قید نہیں یہ حاضرات ہر عمر کے لوگوں پر ہوتی ہے۔ عالم اور معمول دونوں پاک و صاف ہوں۔ قابل قدر حاضرات ہے۔

حاضرات سورۃ عنکبوت

یا میکائیل

۷۸۶

یا جبائیل


۶۸۸۲۳	۶۸۸۲۴	۶۸۸۳۰	۶۸۸۱۶
۶۸۸۲۹	۶۸۸۱۷	۶۸۸۲۳	۶۸۸۲۸
۶۸۸۱۸	۶۸۸۳۲	۶۸۸۲۵	۶۸۸۲۲
۶۸۸۲۶	۶۸۸۲۱	۶۸۸۱۹	۶۸۸۳۱

آلہ سورہ عنکبوت کی حاضرات حاضر شو بحق آئمہ

طریقہ :- یہ حاضرات چھوٹے و بڑے پر ہوتی ہے اس حاضرات میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ بس عالم و معمول دونوں پاک و صاف ہوں اور با وضو ہوں۔ کمرہ پاک و صاف و خوشبو


سے معطر ہو۔ عامل معمول کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہے اور آپ عامل ان الفاظ کو تین مرتبہ کہے
 الم سورة عنكبوت کی حاضرات حاضر ہو بِحَقِّ الْم
 پھر صرف آلم کی تکرار کرتا رہے اور معمول پر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا
 نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں مکمل تسلی بخش معلومات
 حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات نور الہدی



طریقہ :- یہ حاضرات چھوٹوں و بڑوں یعنی سب پر یکساں ہوتی ہے اس میں عمری
 کوئی قید نہیں۔ سیاہ دائرہ میں کسی بڑے آدمی یا بچے کو غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل اس
 اسم کا ورد کر کے معمول پر دم کرے۔ اسم یہ ہے **آلَا لَا لَعَجَه لَعَجَه آلا** تھوڑی
 ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کے سوالوں کے جوابات تسلی بخش
 معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات مقربین



طریقہ :- کسی نابالغ عمر کے بچے اپنی کو سیاہ دائرہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور
 آپ عامل بچے پر یہ اسم **الْيَعْرِوْنَ اللّٰهَ يُبْصِرُوْنَ** تیس یا چالیس مرتبہ پڑھ
 کر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کھل جائے گی جس سے آپ اپنے ہر قسم کے مشکل
 مسائل کے بارے میں مکمل سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات حضرت خضر علیہ السلام

طریقہ :- رات ۸/۹ بجے کے بعد نماز کو کرنا وضو معطر وغیرہ لگا کر دریا یا سمندر
 کے کنارے پر جائیں اور سات سو مرتبہ سورۃ **الصّٰحٰحٰی** پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ
 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاء اللہ سات دن کے اندر اندر حضرت خضر علیہ السلام سے
 بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ (آزمودہ است)

حاضرات

عزیمت حاضرات: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَحِبُّ يَا مَهْلَائِيلُ يَا
هَمَائِيلُ يَا تَفْتَائِيلُ يَا سَائِيلُ أَقْسَمْتُ أَحْضَرُوا
اللَّمْسَخَرَاتِ وَالْحَاضِرَاتِ بِحَقِّ حَدُوشِ يَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْأَرْوَاحِ وَالشَّيَاطِينِ أَحْضَرُوا بِجَانِبِ
الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَحْضَرُوا بِجَانِبِ الْجُنُوبِ
وَالشِّمَالِ أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا يَا مَعْشَرَ الْأَرْوَاحِ حَاضِرِ
شَوْ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَاضِرُشَوْ -

طریقہ :- کسی نابالغ لڑکا یا لڑکی کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگا کر خاموش جگہ میں
جبکہ آسمان صاف ہو بیٹھ کر اول دعائے برہمتی ایک دفعہ پڑھ کر بچے پر اور چاروں طرف دم
کریں پھر اوپر والی عزیمت حاضرات پانچ مرتبہ پڑھ کر بچے کے چہرے اور انگوٹھے پر دم کریں
اور بچے سے کہیں کہ تمہیں کوئی صورت نظر آتی ہے یا نہیں۔ اگر نظر آئے تو کہیں کہ میدان
صاف کر کے دربار لگائیں اور پھر کہیں کہ بادشاہ کو بلائیں بادشاہ فوراً آکر تخت پر بیٹھ جائے گا۔
اول عامل اپنا سلام پیغام دے کر کہے کہ میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں گے۔ جب
بادشاہ کہے کہ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا پھر جو چاہے پوچھو مفصل بتائے گا۔ جب تمام احوال
وغیرہ معلوم ہو جائے تو شکر یہ ادا کر کے رخصت کر دیں۔ اسی طرح یہ حاضرات نقش پر شیشے پر
پانی اور چراغ میں بھی کی جاتی ہے۔ ہر جگہ روحانیت حاضر ہو کر مفصل اور سو فیصد درست
جواب دیتے ہیں۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے اور ایک قابل قدر تحفہ ہے۔

دعائے برہمتی یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ
إِيْتَهَا الْأَرْوَاحِ الرُّوحَانِيَّةِ الْعُلُويَّةِ وَاسْفَلِيَّةِ وَخَدَّامِ

هَذِهِ الْعَهْدِ الْكَبِيرَانَ تَجِيبُوا أَدْعَوَتِي وَتَقْضُوا
حَاجَتِي بِعِزِّهِ بَرَهْتِيَّةِ كَرِيهِ تَتْلِيهِ طُورًا إِنْ مَرَّ جِل
بَزَّحِيلِ تَرْقُبِ بَرَهْتِشِ غَلَمِشِ خُو طِيرِ قَلْنَهُو دِ بَرَشَانِ
كَنْظَهِيرِ نَحْوِ شَلِخِ بَرَهْيُو لَا بِشَكِيلِخِ تَزْمِزِ الْغَلِ لِيْظِ
قَبْرَاتِ غِيَاهَا كَيْدَهُو لَا شَمَخَاهِيرِ شَمَخَاهِيرِ
شَمَهَا هِيرِ بِحَقِّ هَذَا الْعَهْدِ الْمَاحُودِ عَلَيْكُمْ يَا خَدَّامِ
هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْإِلْقِيَادِ فِي مَا أَمْرُكُمْ بِهِ بِعِزَّةِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْمُعْتَزِ فِي عِزِّعِزِهِ وَ أَوْفُو بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ إِلَيَّ قَوْلِهِ كَفِيلًا وَبِحَقِّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا السَّاعَةَ
وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَكُونُوا عَوْنًا لِي عَلَى جَمِيعِ مَا
أَمْرُكُمْ بِهِ حَاضِرَاتِ حَاضِرُشَوْ بِحَقِّ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ
إِحْتَرَقَ مَنْ عَصَى اسْمَاءَ اللَّهِ نِبَارِ الْمَوْقَدَةِ أَقْسَمْتُ
عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِيْتِي عَاهَدْتُمْ بِهَا عِنْدَ بَابِ
الْهَيْكَلِ الْكَبِيرِ وَبِحَقِّ أَهْيَا إِشْرَاهِيَا أَدُونِي
أَصْبَاوْتُ أَلْ شَدَايَ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
هَيَّا الْوَحَا الْوَحَا الْعَجَلِ الْعَجَلِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ
بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ ۝

حاضرات

طریقہ :- کسی نابالغ بچے / بچی کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگا کر اسے کہیں کہ غور
سے دیکھے اور عامل یہ الفاظ ۱۵/۱۰ دفعہ تکرار کرے اور بچے کے منہ پر دم کرنا رہے۔ بچے سے

پوچھے کہ کوئی شخص نظر آتا ہے جب نظر آنے لگے تو اس سے کہو کہ میدان صاف کر کے دربار لگائیں پھر بادشاہ کو طلب کریں۔ اول عامل اپنی طرف سے سلام کہہ کر معلوم کرے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں گے۔ جب وہ کہے کہ ہاں میں بتاؤں گا پس جو بات پوچھیں گے وہ مفصل و درست بتائے گا۔ پھر شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کر دیں۔ بچے پر دم کرنے کی عزیمت یہ ہے ہائو لائے سامتی سرنا الا ہویا کریم یا کریم یا کریم ○

حاضرات ارواح

اگر کسی خاص روح سے بات کرنی ہو یا ملاقات کرنی ہو یا اپنے ماں باپ سے ملنے اور گفتگو کرنے کی خواہش ہو یا کسی ولی، نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو بعد نماز عشاء خلوت میں وضو کر کے اچھے صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور سورۃ الشمس مع بسم اللہ اور سورۃ والیل اور سورۃ اخلاص ہر سورۃ کو سات سات مرتبہ پڑھے پھر یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنِيْ فِيْ مَنْاِمِيْ رُوْحَ فُلَانٍ ○ فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے جس کی روح سے ملاقات چاہتا ہو۔ پھر کہے۔

وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ اَمْرِيْ فَرْجًا وَ مُخْرَجًا وَ اَرْزُقْنِيْ فِيْ مَنْاِمِيْ مَا اسْتَدِلُّ بِهٖ عَلٰى اِجَابَةِ دَعْوَتِيْ ○ پہلی ہی رات میں ورنہ دوسری، تیسری رات میں غرضیکہ ساتویں رات تک ضرور ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، عابد، زاہد، پہلی رات میں ہی زیارت کراتے ہیں۔

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ عَامَاطُهُ مَا لَنَا عَلَيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ
عَاسِفُهُ مَا سَعَهُ اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ خَالِقُ السَّمَاوٰتِ وَ

نزل من القرآن بسم اللہ من ورائهم محیط بل هو
قرآن مجید فی اللوح محفوظ یا رفیق بسم اللہ
حضاراً مجیداً ○

طریقہ :- مندرجہ بالا طلسماتی عمل کو گیارہ بار پڑھ کے ایک صاف آئینہ پر دم کریں اور کسی نابالغ بچے کو آئینہ میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کے منوکل آمو جو وہوں گے جن سے آپ ہر قسم کے سوالات کے تسلی بخش جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات (ذکر)

خدا کی ثناء محمد کا نور
خواجہ کی تسبیح کل عالم حضور
بھجیو منوکل لے آئے حضور
حاضر کرو حاضر کرو حاضر کرو
مرشد کامل دیکھ کر حاضر کرو روشن ضمیر
المدد بحق یا حضرت عمر فاروق ○

طریقہ :- سب سے پہلے اگر بتیاں ساگائیں کہہ صاف ستھرا ہو عامل اور معمول پاک و صاف اور با وضو ہوں۔ کسی نابالغ بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور اس پر تھوڑا سا عطر گلاب لگائیں اور بچے کو اس میں دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور مذکورہ بالا عمل کو اکیس دفعہ پڑھ کر بچے پر اور انگوٹھے پر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جن سے آپ گمشدہ انسان، چوری، تشخیص مرض اور اس کے علاوہ جو بھی سوالات دریافت کرنے ہوں بچے کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ بالکل درست اور مکمل جوابات معلوم ہوں گے۔ اگر اس عمل کا عامل بننا ہو تو جمعرات کے روز سے گیارہ سو مرتبہ روزانہ گیارہ دن تک عمل پڑھیں اول و آخر 11/11 مرتبہ درود شریف

پڑھیں اور آخری روز حضرت عمر فاروقؓ کی نیاز دلائیں۔ پھر جب بھی ماضرات کی ضرورت پیش آئے عمل بالا کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر معروف طریقہ سے ماضرات کریں۔ انشاء اللہ سو فیصد درست جواب ملے گا۔

ماضرات

۷۸۶

۱۱۳۲	۱۱۳۵	۱۱۳۸	۱۱۳۵
۱۱۳۷	۱۱۳۶	۱۱۳۱	۱۱۳۶
۱۱۳۷	۱۱۵۰	۱۱۳۳	۱۱۳۰
۱۱۳۷	۱۱۳۹	۱۱۳۸	۱۱۳۹

طریقہ :- کسی نابالغ بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل بچے پر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ماضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مقاصد کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔

ماضرات

۷۸۶

۱۳۵	۱۳۸	۱۵۲	۱۳۸
۱۵۱	۱۳۹	۱۳۲	۱۳۹
۱۳۰	۱۵۳	۱۳۶	۱۳۳
۱۳۷	۱۳۲	۱۳۱	۱۵۳

طریقہ :- کسی نابالغ لڑکی لڑکا کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھونکتے اور یہ اسم ”یا شیخ عبد القادر جیلانی شینالہ“ تمیں یا چالیس مرتبہ بچے پر دم کرے تھوڑی ہی دیر میں ماضرات کے موکل آ موجود ہوں گے جن سے آپ اپنے مشکل امور کے متعلق سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

ماضرات

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿سورہ مہین﴾

طریقہ :- اس آیت کو روزانہ سات سو سات مرتبہ ایکس روز تک پڑھیں آپ عامل ہو جائیں گے۔ جب کبھی ماضرات کی ضرورت پیش آئے تو کسی نابالغ بچے کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر کابل لگائیں اور اسے دیکھنے کو کہیں عامل بچے پر درود شریف اور مذکورہ بالا آیت ورد کر کے بچے پر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ماضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر یہ عمل ہمزاد کا بھی ہے ایکس یوم کے اندر اندر اشارات شروع ہو جاتے ہیں اور آخری روز آپ کا ہم شکل آپ کا ہمزاد حاضر ہو گا قول و اقرار کرے گا آئندہ بلانے کے لئے پوچھیں۔

ماضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالانيسِ وَتَبَّ دَالٍ
وَ دَالٍ بِحَقِّ جِبْرَائِيلِ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامِ بِحَقِّ يَابُدُّوحِ يَابُدُّوحِ يَابُدُّوحِ حَاضِرًا بِأَبَا
حَاضِرًا بِأَبَا حَاضِرًا بِأَبَا.

طریقہ :- اس عمل کو کسی بڑے طشت میں پانی سامنے رکھ کر ایک سو سات مرتبہ

سترہ دن تک پڑھنا ہے وقت کی پابندی و شرط لازمی ہے۔ سترہ دن کے بعد جب بھی حاضرات کرنے کی ضرورت پیش آئے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور عزیمت کو صرف اکیس مرتبہ پڑھیں تمام احوال پانی میں نظر آئے گا۔

حاضرات شہنشاہ جنات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ جَيْسًا جَيْسًا جَيْسًا خَيْسًا
خَيْسًا خَيْسًا طَوْسًا طَوْسًا طَوْسًا حَاضِرًا
هُوَ حَاضِرًا يَا شَاهَ قَيْقَطُوشَ يَا رَاوُدَ جِنِّي بَابِيكَ
غَابُورِي يَا لُوْنًا بِحَقِّ حَضْرَتِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ حَاضِرًا حَاضِرًا حَاضِرًا

طریقہ عمل :- مندرجہ بالا عزیمت کو اکتالیس مرتبہ روزانہ اکیس یوم تک

باہر بیٹ پڑھیں تو عامل ہو جائے گا۔

پر یوں کی حاضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّ أَوْ أَمَّا هَا
أَمَّا كَحَقْلًا كَحَقْلًا أَرْحَمًا تَرْحَمًا بِحَقِّ أَوْ مَطَّ بَهَعَتِ
سُوَايَا يَا مُوَكَّلَانَ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ حَاضِرًا حَاضِرًا حَاضِرًا

طریقہ عمل :- مندرجہ بالا عمل کو ستر مرتبہ بلند آواز سے رات کو مکان میں

چالیس یوم باہر بیٹ پڑھیں۔ عطر و غیرہ کپڑوں پر لگائیں اور چند پھول گلاب کے اپنے سامنے رکھیں۔ انشاء اللہ پر یوں سے ملاقات ہوگی۔

شاہ جنات سے ملاقات

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ سِوَرِ الْقُرْآنِ تَوْتِيْلًا تَمَكْ (سورہ مزمل

شریف)

طریقہ :- نوچندی جمعہ کی رات سے عمل شروع کریں باہر بیٹ اول تو پہلے ہی جمعہ کو ملاقات ہوگی ورنہ تین جمعہ عمل کریں روزانہ تعداد پانچ ہزار ہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تجربہ شدہ و پائیدار عمل ہے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔

حاضرات

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَرْوَاحِ
بِحَقِّ حَضْرَتِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْضَرُوا
أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا يَا قَوْمِ حاضرات وَجَنَاتِ حاضِرَتُو
بِحَقِّ يَا حَسْبِي يَا قِيَوْمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

طریقہ :- ایک چینی کے پیالے میں سیاہی ڈال کر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں
اس کے بعد ایک سو ایک بار مندرجہ بالا عمل پڑھیں اکیس یوم تک پڑھیں جس دن سیاہی میں
مٹوکل نظر آئیں سمجھو عمل کامیاب ہو گیا۔ پھر سلام کریں اور جو بات پوچھنی ہو دریافت کریں
سو فیصد درست جواب ملے گا۔

حاضرات بڑوں اور چھوٹوں پر یکساں کار آمد

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَبِيضُ
بِحُرْمَتِ يَا جِبْرَائِيلَ بِحَقِّ يَا جَلِيلُ يَا جَبَّارُ أَحْضَرُوا
أَحْضَرُوا أَحْضَرُوا

طریقہ :- جلالی و جمالی پر بیزار ملامت ہے۔ عمل کے لئے ایک مخصوص لباس معطر شدہ
استعمال میں لائیں۔ کھانا اپنے ہی ہاتھ سے پکا کر کھائیں بازار کا کھانا قطعاً منع ہے۔ تنہائی اور
یکسوئی ضروری ہے۔ اگر دوران پڑھائی کوئی شکل نظر آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ
ایک مصنوعی ڈر ہوگا۔ مچھلی، گوشت، انڈہ، کچی پیاز، پودینہ، دھنیا وغیرہ منع ہے۔ تمباکو نوشی
سے بھی پرہیز کریں۔

ایام چلہ کشی - 40 دن روزانہ پڑھنے کی تعداد یا جبار 204 اور یا جلیل کی تعداد
206+73 یا اپنے نام کے جتنے بھی اعداد ہوں جمع کر کے روزانہ اسی تعداد سے پڑھا
کریں۔ کسی بھی نوچندی دن سے عمل شروع کریں۔ چالیس یوم کے بعد بڑوں و چھوٹوں پر

حاضرات کریں صرف عمل کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے
آپ ہر بات کا سوال سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات بڑوں اور چھوٹوں پر یکساں کار آمد

سورۃ الجاثیہ (سپارہ ۲۵) وَيَلُّ لِكُلِّ سَعْدَابٍ عَظِيمٍ تَمَّ رُوزَانِ
ایک ہزار بار اکیس یوم تک پڑھیں جلالی و جمالی کیساتھ پڑھیں۔ جب کبھی حاضرات کی ضرورت
پیش آئے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور مذکورہ بالا عمل کو صرف تین مرتبہ پڑھ کر
معمول پر دم کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام احوال ٹی۔ وی کی طرح نظر آئے گا۔ یہ حاضرات
آئینہ میں بھی کر سکتے ہیں غرض حاضرات ہر جگہ کام دے گی۔

حاضرات

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي وَعَلِيمُكَ
حَسْبِي فَاَنْعِيْمِ رَبِّ رَبِّي وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

طریقہ :- روزانہ ایک ہزار دو بار گیارہ یوم جلالی و جمالی پر بیزار کے ساتھ پڑھیں۔
مٹوکل انسانی شکل میں سامنے حاضر ہو گا قول و قرار کر کے آئندہ آنے کا پوچھیں۔ اس عمل میں
مختلف شکلیں نظر آئیں گی گھبرانے و ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل کی کمزوری ہو تو
چاروں طرف سے اپنا حصار کریں اور چاروں قُل تین تین بار اور آیت الکرسی سات بار پڑھ
کر چاروں طرف دم کریں۔

طلسماتی حاضرات

طعسلحح عسلطح غفلحح

طریقہ :- مندرجہ بالا طلسماتی طلسم کو فتیلہ بنا کر اور اس پر روئی پیٹ کر ایک کورے چراغ میں تار امیرا کا تیل ڈال کر روشن کریں اور کسی نابالغ بچہ / بچی کو چراغ کی لو پر نظر رکھنے کو کہیں کہ چراغ کی لو کو بغور دیکھتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بزرگ نظر آئیں گے۔ عامل بچے پر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکتا رہے۔ جب بزرگ نظر آئیں تو عامل بچے سے سلام کہلوائے اور اپنا مدعا بیان کرے جو بھی مقصد ہو گا۔ مثلاً بیماری، چوری، گمشدہ کا پوچھنا وغیرہ وغیرہ انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔

حاضرات چہل کاف (آزمودہ است)

طریقہ :- ماہ رمضان شریف کے آخری عشرہ ۲۱ سے ۳۰ یا ۳۰ تک اول و آخر ۱۱/۱۱ بار درود شریف پانچ سو بار چہل کاف با وضو پر بیہ جلالی و جمالی کے ساتھ پڑھیں۔ جن حاضر ہو گا زور و خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ انشاء اللہ ہر جائز کام بخوشی سرانجام دے گا چہل کاف یہ ہے۔

كَفَاكَ
رَسَكَ كَمْ يَكْفِيكَ وَ اِكْفَتْهُ كِفَا فَهَا كَكَبِيْنِ كَنَانِ مِنْ كَلْكَا نَكْرُ كَرَا
كَكْرَ الْكِرْفِي كَبِيْدُ نَحِي كِي مَشْكَ كَتَا كَلْكَ لِي كَلْكَا كَفَا كَدُ مَا يِي
كَفَا كَدُ الْكُفَا كُرْبَتَهٗ بَا كُو كَبَّ كُنْتُ نَحِي كِي كُو كَبَّ الْفَلْكَ ۞

حاضرات درود نوری

يَا نُورُ رُصِّلْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْاَنْوَارِ وَ تَسِّرَا لَاسْرَارِ
وَ تَسَيِّدَ الْاَبْرَارِ وَ عَلَيَّ اِيْهِ وَ اَصْحَابِهِ الْمُنَوَّرِيْنَ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ يُوْرِبْهَا سِيْرِي وَ سِيْرِيْتِي وَ بَصِيْرِي وَ بَصِيْرِيْتِي وَ دُنْيَا
وَ اَهْلِيْ وَ عِيَالِيْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۞

طریقہ :- کسی صاف ستھرے بچہ / بچی کو بٹھا کر اس کے دائیں انگوٹھے پر ذرا سا کاجل لگائیں اور اس پر تھوڑا سا عطر لگا لگائیں اور بچے کو اس میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔

عامل بچے پر گیارہ مرتبہ مندرجہ بالا درود نوری پڑھ کر پھونکے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جو بھی سوالات کرنے ہوں ان کے جوابات بچے کے ذریعے سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ تمام سوالوں کے جوابات انشاء اللہ سو فیصد سچے و درست ہوں گے۔

حاضرات پری

۴	۶	۷
۱۷۸۱۴	۱۷۸۱۵	۱۷۸۱۰
۱	۵	۹
۱۷۸۰۹	۱۷۸۱۳	۱۷۸۱۷
۲	۳	۸
۱۷۸۱۶	۱۷۸۱۱	۱۷۸۱۲

طریقہ :- نوچندی جمعرات کو مندرجہ بالا نقش ۷ یا ۳۹ لکھیں وقت ایک مقرر کریں اور اکیلے میں لکھیں بعدہ تمام نقش کی آنے میں گولیاں بنا کر دریا / نہر میں ڈال دیں۔ پہلی دفعہ ۷ یا ۳۹ نقش لکھیں پھر جب ضرورت ہو تو اکیس نقش لکھیں۔ بیس عدد نقش کی آنے میں گولیاں بنا کر دریا یا بستے پانی میں ڈالو اور ایک نقش اپنے پاس رکھو جب کسی کا کام کرنا ہو تو وہ نقش اس آدمی کے سر پر یادائیں ہاتھ میں رکھو پری حاضر ہو کر ہر قسم کے سوال کا جواب سو فیصد درست دے گی اس کے بعد اکیس نقش روز لکھو۔

حاضرات حضرت خضر علیہ السلام

چینی، گھی، چاول تینوں ۵/۵ تولہ، گلاب کے پھول ۵ عدد، بتاشے ۵ عدد، لونگ ۲ عدد، پان لگا ہوا بیج الاچی ایک عدد۔

ترکیب :- تمام چیزیں دائیں ہاتھ میں لے کر کسی دریا، تالاب یا نہر میں ڈالیں

اور کہیں کہ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا حَضْرَتِ خَضِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یہ آپ کا توشہ ہے اسے قبول فرمائیں اور میرا فلاں کام اللہ کے حکم سے آپ کے طفیل میں پورا ہو جائے۔ پھر گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورۃ والضحیٰ گیارہ مرتبہ اور سورۃ کوثر گیارہ مرتبہ وہیں کھڑے ہو کر پڑھ کر واپس آجائیں۔ اس طرح سات یوم کریں۔ انشاء اللہ یا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی ورنہ سو فیصد آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔

نوٹ: آتے جاتے وقت کسی سے کلام نہ کریں اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھیں یہ تمام کام رات نوبت کریں نہایت ہی مجرب عمل ہے۔

عزیمت واسطے حاضر کرنے جنات وجود آسیب زدہ

طریقہ :- عروج ماہ میں نوچندی جمعرات سے شروع کرے اور گیارہ مرتبہ سات روز تک پڑھتا رہے۔ بعدہ شرنی پر فاتحہ خاتم المرسلین بادشاہ جنات علامہ شیران اعظم سلیمان اعظم علامہ فانوس 'علامہ خیبر' علامہ ثمن 'علامہ ظہیری' علامہ بجنودی کی دوائے اور آسیب زدہ کے وجود پر خوشبویات لگا کر یہ عزیمت دم کرے اور فلیتہ روشن کرے جن حاضر ہو گا۔

عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ عَزَمْتُ عَلَیْکُمْ
وَأَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ یَا عَبْدِ الصَّمَدِ یَا
عَبْدَ الْوَاحِدِ بِحَقِّ حَضْرَتِ مِیْرِ مَحٰی الدِّیْنِ اَبُو
مُحَمَّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِلَانِی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اَجِبْ یَا
جِبْرَائِیْلُ اَجِبْ یَا دَرْدَائِیْلُ اَجِبْ یَا اَقْتَمَائِیْلُ اَجِبْ یَا
تَنْکَفِیْلُ بِحَقِّ یَا بُدُوْحِ حَمْنًا حَمْنَا وَاَشْیَا بِحَقِّ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَبِحَقِّ سُلَیْمٰنَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ آسیب زدہ مریض پر دم کرتا رہے اور مندرجہ ذیل فلیتہ روشن کرے۔

نمرود	فرعون	ہامان	شداد
شداد	ہامان	فرعون	نمرود
فرعون	نمرود	شداد	ہامان
ہامان	شداد	نمرود	فرعون

عزیمت حاضر کرنے میں جنات کے

عَزَمْتُ عَلَیْکُمْ بِمَا عَزِیْمَیْ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالانْسِ کَرِکْرِی کَرِکْرًا یُوْلُوْہِمَا سَاکِرُوْنِکَ ذَالِکَ
بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَبِحَقِّ شَاہِ
مَحٰی الدِّیْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِلَانِیِّ اَحْضَرُوْا اَحْضَرُوْ
السَّاعَتَہُ السَّاعَتَہُ الْعَجَلِ الْعَجَلِ حَاضِرُوْ
حَاضِرُوْ۔

عزیمت گلستان

سات دانے کالی مرچ پیرسات دفعہ مندرجہ ذیل عزیمت پڑھ کر دم کر کے آسیب زدہ کو دھونی دے جن فی الفور حاضر ہو گا اور ہم کلام ہو گا۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلٰی الْمَلَکِیْنِ مِنْکُمْ مَنْکَرُوْا نَکِیْرُوْا صَلِّ

عَلَى جِبْرَائِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَائِيلَ وَ صَلَّى عَلَيَّ
مَلِكُ الْمَوْتِ وَ صَلَّى عَلَيَّ كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامِ وَ بِحَقِّ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
حَبِيبِ اللَّهِ وَ بِحَقِّ مِيرَانِ سَيِّدِ مَحْيَى الدِّينِ شَيْخِ
عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي رَحِمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَاضِرِي
حَاضِرِي - بعدہ مندرجہ ذیل فلیتہ کی دھونی دے آئیے فوراً ہم کلام ہو اور حاضر ہو۔

فلیتہ یہ ہے:

۷۸۶

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۲۱	۲۳

يَا مَحْيَى الدِّينِ أَجِبْ يَا جِبْرَائِيلَ بِحَقِّ يَا بَدْوَحِ
الْهَى بِحُرْمَتِ شَيْخِ تَعْلِيمِ دِينِ مَعْرُوفِ كَرخِي كِه
دَرْبَانِ عَلِيِّ مُوسَى رِضَا بُودِ أَنْجِه دَرُوجُودِ فَلَانِ بْنِ
فَلَانِ اسْتِ ظَاهِرِ شُو - آسِيبِ زِدِه كُو پُچُولِ پَر چَالِيسِ مَرْتَبِه يِه عَزِيمَتِ دَمِ كَرَكِه
سُو گُھَايِي چِنَاتِ فُورَا حَاضِرِي هُو۔

عزیمت یہ ہے: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزْمَتِ

عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ فَتَحُون حَبِيبَ عَصِيْبِكُمْ
نَبِيَّكُمْ نَبِيَّكُمْ الْمِيمِ الْمِيمِ صَفْكَاً صَفْكَاً السَّالِّئَا
بِلْسَا بِلْسَا سَرْدَا سَرْدَا لِحِيْلَا لِحِيْلَا مِهْلَا مِهْلَا
سَحْنَا سَحْنَا شَدِيدَا شَدِيدَا نَبِيَّ نَبِيَّآ أَحْضَرُو وَ مِنْ
جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَ مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ
وَ الْيَسِيْرِ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَاضِرِ
شُو حَاضِرِ شُو حَاضِرِ شُو آسِيبِ زِدِه كُو اس فَلِيْتِه كِي دَهُونِي دِي۔

جیوش جیوش مدیوش والوش فرعون ہامان ابلیس ہامان نمرود عاد ثمود
ماہد اداحا الوصا ط الوحملا ابلیس شش ر وھر طھصا

عوضہ ۱۱۱ و ۳ و ۸ ہ ہر ح ح و و و کس ۸۵ ۲۱ ۶۳ ۷
فارس تک کالو شمالو سموکاٹ

بخور آسب

اس فلیتہ کو لکھ کر اسپند اور ہلدی لپیٹ کر نیلے دھاگے سے باندھ کر آسب زدہ کی ناک
میں دھونی دے۔

فرعون ملے ابلیس لعین حلے
نمرود عاد لعین
ہامان قارون لعین
شداد ثمود لعین

ملیت کلینت ملیت انت معلم ہانی قلوب ہم ملیت
مندرجہ ذیل فلیتہ کی دھونی آسب زدہ کی ناک میں دے آسب بھاگ جائے۔

۷۰۳۱۳ ۷۰۳۱۳

آسیب جنات نکالنے، جلانے اور تابع کرنے کا نایاب عمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ح ۱۱۰ ۱۱ ۱۱۱

ب	د	و	ح
ح	و	د	ب
د	ب	ح	و
و	ح	ب	د

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ اَصْحَابِهِ اٰمِیْن

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کو مریض کے یا مریضہ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ۱۰/۱۵ منٹ تک رکھیں۔ نقش رکھتے ہی مندرجہ ذیل علامتیں ظاہر ہوں گی مثلاً سر بھاری ہونا، چکر آنا، کندھے اور جسم بھاری ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو مریض پر آسیب / جنات کا اثر ہے اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو تو سمجھیں مریض کو مرض جسمانی نہیں۔ نقش دس پندرہ منٹ ہتھیلی پر رکھنے کے بعد علامات ظاہر ہوں تو مریض کو لٹا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلیا زور سے پکڑ کر سورہ حسین پڑھنا شروع کریں جن فوراً حاضر ہو گا اور آپ سے ہم کلام ہو گا یا درکھیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ جب جن کی گردن پکڑ کر کلام پڑھتے ہیں تو جن کو شدید زبردست تکلیف ہوتی ہے۔

نوٹ :- یاد رکھیں جن کی جان مریض کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہوتی ہے یعنی وہاں پر جن کی گردن ہوتی ہے جب وہاں سے ہتھیلیا کو پکڑ کر دبایا جاتا ہے تو جن رونا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں مر گیا ہائے جل گیا میری گردن چھوڑ دو میں آئندہ نہیں آؤں گا تو پھر اس سے بات کریں کہ مریض کے ساتھ کب سے ہو جاؤ گے یا پھر گردن پکڑو پھر سورہ حسین پڑھنا شروع کرنا ہوں جن کے گا کہ اب میری توبہ مجھے چھوڑ دو۔ آئندہ کبھی نہیں آؤں گا بس آپ جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین مرتبہ قسم لے لیں اور تین مرتبہ حضرت شیخ

عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم لیں کہ اب تو کبھی نہیں آئے گا پھر اسے آزاد کر دیں۔ اگر جن کو تابع کرنا ہو تو اس کو کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا یا جلا دوں گا یا اس شرط پر آپکو زندہ چھوڑ دوں گا تم میرے غلام بن جاؤ اور جب میں بلاؤں تو فوراً حاضر ہونا پڑے گا اور ہر کام خوش اسلوبی سے کرنا پڑے گا۔ بس جن آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتا دے گا اور آپ کا تابع ہو جائے گا اور زندگی بھر ہر کام کرتا رہے گا۔

برائے حفاظت جنات

نقش مربع دفع آسیب و جمع حاجات دعائے سیفی

۷۸۶

۱۲۸۶۰۶	۱۲۸۶۰۹	۱۲۸۶۱۲	۱۲۸۵۹۸
۱۲۸۶۱۱	۱۲۸۵۹۹	۱۲۸۶۰۵	۱۲۸۶۱۰
۱۲۸۶۰۰	۱۲۸۶۱۳	۱۲۸۶۰۷	۱۲۸۶۰۳
۱۲۸۶۰۸	۱۲۸۶۰۳	۱۲۸۶۰۱	۱۲۸۶۱۳

وفق ۵۱۲۳۲۵

حاضرات



طریقہ :- سب سے پہلے دو اگر بتی سلگائیں پھر سیاہ دائرہ میں بچے کو غور سے دیکھنے

کو کہیں اور آپ بچے پر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ کر اور اسم اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بیانوے مرتبہ پڑھ کر بچے کے سر پر پھونکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سیاہ خانہ میں حاضرات کا نزول ہو گا جن سے آپ اپنے جملہ مسائل کے بارے میں سو فیصد مکمل و درست حالات معلوم کر سکتے ہیں جو یقیناً سو فیصد سچے ہوں گے۔

تسخیر ہنومان

رام پھمن اور بیتامائی تینوں کی دیتا ہوں دہائی، میری بار کیوں دیر لگائی۔ بھگت ملی ہنومان ہاتھ میں لڈو مکھ میں پان۔ درشن دیو آن۔ تعداد ۳۰۸ مرتبہ ۳۱ یوم (پرہیز جلالی و جمالی لازمی) لباس سرخ لنگوٹ۔

توشہ :- ۳ عدد لڈو موتی چور، ایک پان ۳ لونگ ۳ آک (مدار) کے پھول، کوری سکوری میں سامنے رکھ کر اس پتھر یا اینٹ پر رکھو جو سمندر یا دریا سے لیا گیا ہو۔ پتھر ۲/۳ چنگلی سیندور کی روزانہ ڈالو۔ عمدہ پیمان سوچ سمجھ کر کریں۔ ہر کام حسب فضاء کرے گا۔

تسخیر یونا

آنے کھانے ٹھیکری سرہانے۔ نوے وچ لت یا بدوح یا سدوح یا توتوں یا تڑک = تعداد ۸۰۸ مرتبہ ۳۱ یوم (پرہیز جلالی و جمالی)۔

تسخیر بھیروں

کالا بھیروں بگا بھیروں بھیروں لت پت کر دے جھٹ پٹ و کھاوے اپنا ہتھ کالا بھیروں بگا بھیروں بھیروں ٹھائیں ٹھائیں چھپڑیاں داپانی پینداں تیرے علم دی پئی دہائی۔ (پرہیز جلالی و جمالی)

طریقہ :- ویران مسجد میں پڑھیں تعداد ۵۰۰ بار ۳۱ یوم۔ توشہ - حلوہ پکا کر رکھیں۔

تسخیر کالا دیو

جل باندھوں۔ جل مل باندھوں۔ جل کی باندھوں کائی۔ میں بھون دھربنی کروں عمل کالا دیو کی دہائی۔ (پرہیز جلالی و جمالی)

طریقہ :- اکیس دن کا عمل ہے۔ غسل کر کے ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ عمل ہر چیز کو فوری طور پر حاضر کرنے کا ہے اس عمل سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں اس عمل کے تین چلے کرنے ہیں۔

اگر پہلے چلے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر پڑھائی بند کر دیں چونکہ اس عمل میں کالا دیو کی حاضری ہے جب وہ حاضر ہو جائے تو قول و قرار لے کر رخصت کر دیں اس کے بعد چند بار عمل پڑھیں کالا دیو حاضر ہو کر جس چیز کا کہیں گے فوراً پورا کرے گا۔

تسخیر ملکہ کنڈیاس (آیت الکرسی)

طریقہ :- سب سے پہلے کسی شہرینی پر نیاز حضرت غوث الاعظم دہلی کی دلائیں اور دعا مانگیں کہ اے غوث پاک میرا یہ عمل آپ کے طفیل میں پورا ہو۔ اس شہرینی کو صبح بچوں میں تقسیم کر دیں۔

سب سے پہلے اللہ لا الہ سے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھیں ۳۱۳ بار یا ۷۰ بار پڑھیں۔ اس کے بعد اے باریہ دعا پڑھیں۔

أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكُنْدِيَّاسُ وَبِحَقِّ هَذِهِ
الْأَيَّةِ الشَّرِيفَةِ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ○

ترکیب :- جلالی و جمالی پرہیز کریں۔ بخور :- صندل سرخ و گوگل کا جلائیں۔ نو چندی ہفتہ سے شروع کریں۔ پڑھائی ۳۱۳ بار اور دعا ۷۰ بار اس کے مطابق نو دن کا عمل ہے۔

اگر پڑھائی آیت الکرسی ۷۰ بار دعا ۷ بار سے پڑھنا ہو تو پھر اکیس یوم کا عمل ہے۔ اس عمل میں حسین و جمیل عورت کی شکل میں پری حاضر ہوگی جسکے سر پر تاج ہو گا عمد و بیان سوچ سمجھ کر کریں۔

تسخیر زعفران پری

يَا اَرْدَيُوشِ يَا اَرْدَيُوشِ يَا اَرْدَيُوشِ يَا مِهْرَايشِ يَا مِهْرَايشِ
يَا تَلَطَيْشِ يَا تَلَطَيْشِ

ترکیب :- تعداد پڑھائی روزانہ ایک ہزار بار اور ہر سینکڑے پر یہ پڑھیں
تَوَكَّلُوْا يَا خُدَّامَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ بِحَضُوْر الْجَارِيَةِ
اَحْضَرُوْا اَحْضَرُوْا زَعْفَرَانِ پَرِي بِحَقِّ يَابُدُوْحٍ يَابُدُوْحٍ
يَابُدُوْحٍ بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ۝
بخور :- لوبان اور خشک دھنیا کا جلائیں۔ نوچندی ہفتہ سے شروع کریں سات دن کا عمل ہے۔ اگر سات دن میں حاضر نہ ہو تو پورے تین ہفتے کریں یعنی ۲۱ دن تک اگر ساتویں دن حاضر ہو جائے یا تیسرے روز حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو چھوڑ دیں اور معاہدہ کر کے دوبارہ آنے کی ترکیب پوچھ لیں (پرہیز جلالی و جمالی)

تسخیر کالا کلو

عمل کرنے سے قبل تین دن سمندر یا دریا پر رات گیارہ بجے ۵ عدد بتاشے، ۵ عدد پھول چنبیلی یا گلاب، دو عدد لونگ، دوپان کے بیڑے، عطر کا پھویا مجموعہ، اور ہانڈی میں گھی کا چراغ جلا کر چھوڑ دیں اور تین مرتبہ پڑھیں "خواجه خضر برائے کرم کرو میرا کام مجھے مشکل تمہیں

آسان"۔

منتر

کالا کلو کالی رات۔ بھیروں پلے آدمی رات۔ جہاں یاد کریں وہیں حاضر کھڑا۔ کالا کتا ساتھ۔ جہاں بھیجو وہیں جانا۔ پھر منتر پھر دو باچا میرے کرو کا شہد سا نچا۔ تعداد ۰۸۰ بار رات بارہ بجے پڑھیں۔

طریقہ :- دیوالی کی رات۔ ہولی کی رات۔ دسرہ کی رات۔

تسخیر کرنا ہو تو اکیس یوم پڑھیں۔ پرہیز جلالی و جمالی کریں۔

توشہ :- ۵ عدد بتاشے، ۵ عدد پھول چنبیلی یا گلاب، دو عدد لونگ، دوپان کے بیڑے، دو عدد چھوٹی الائچی، عطر کا پھویا مجموعہ، ایک بوتل شراب، گھی کا چراغ جلائیں، توشہ روزانہ نیا رکھنا ہو گا۔ صرف بوتل شراب وہی رہے گی۔

بخور :- اولیہ کی دھونی خوشبو صندل کا برادہ جلائیں۔ اگر تھوڑی سی شراب آگ پر ڈالیں تو عمل میں تیزی آجائے۔

قول :- حاضر ہونے پر تین مرتبہ قول لیں۔ جب میں بلاؤں فوراً آؤ، جہاں بھیجوں فوراً جانا، جو کام کموں فوراً کرنا۔ جو کچھ منگواؤں فوراً لا کر دو، جو بات معلوم کروں سچ سچ بتاؤ۔ تین مرتبہ قسم لے لو۔ آگ کے سامنے چراغ جلے گا اور حاضری کا سامان بھی آگ کے قریب رکھنا پڑے گا۔

نوٹ :- اگر کلو اچھ اور مانگے تو ہمنگلیا میں سے ذرا سا خون نکال کر پھینکیں اور کہیں کہ یہ کالی مائی کی بھیٹ ہے۔ عمل کو منگل یا نوچندی سنچر کو کریں۔ یاد رکھیں تسخیر کے تمام اعمال رات ۱۲ بجے کئے جاتے ہیں۔

حاضرات آبی کا ایک روزہ عمل

کسی بھی چاند کی چودہ تاریخ کو کسی چلتی نہریا دریا کے کنارے ان کلمات کو سات سو چھیالیس مرتبہ با وضو پڑھے۔ عامل کے لئے ضروری ہے کہ اس دن روزہ رکھے۔ سحری و افطاری دودھ کی کھیر سے کرے۔ روزہ افطار کرنے سے لے کر عمل کرنے تک کسی سے بات نہ کرے۔ دوران عمل دونوں پاؤں پانی میں ڈبو رکھے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہو تو کسی پاک چیز پر پاک سیاہی سے چھوٹا سا دائرہ بنا لیں اور اس میں لفظ "نیم" تحریر کریں اور کسی دس بارہ سال کے بچے کو با وضو قبلہ رخ بٹھا کر اس دائرے میں دیکھنے کا حکم کریں اور خود عمل کی عبارت پڑھنا شروع کر دیں۔ بچے کو اس میں روشنی نظر آئے گی جو آہستہ آہستہ بڑھتی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ صحیح اور سچی خبریں ملیں گی اور حالات کا علم ہو گا۔ عمل یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ اَنْ تَنْزِلَ بِحَقِّ حَمْعِ سَق

☆

خواب میں روحانی مخلوق سے ملاقات

ان کلمات مبارکہ کو پانچ سو پانچ بار 28 روز تک پڑھیں۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں۔ روزانہ پڑھائی کے بعد بات کئے بغیر سو جائیں۔ جب بھی کسی چیز کے متعلق ضرورت محسوس ہو تو اس عمل کو سونے سے پہلے صرف پانچ بار پڑھیں۔ خواب میں روحانی مخلوق سے ملاقات ہوگی جو آپ کو سیر کرایا کرے گی اور مخفی باتوں سے مطلع کرے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یاخذ ام حروف الباء حاضر شو بحق با

☆

جام جمشید یعنی آئینہ سکندری تیار کرنے کا طریقہ

بادام بے جھلکا باز (پرنده) کے پر اور سونا مکھی۔ تینوں چیزوں کو ہموزن لے کر جلا لیں پھر اس میں تھوڑا سا تلوں کا تیل ملا لیں۔ اس روحانی سیاہی سے آئینہ کے درمیان ایک دائرہ بنا لیں۔ خشک

ہونے پر اس پر نگاہ رکھ کر عمل کریں۔

عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بعد از تہجد اس آئینہ کو سامنے رکھ کر کلمات عمل کو 369 بار پڑھیں۔ دوران عمل کانور، لوہان اور صندل کا بنور جلائیں۔ عمل کے حجرہ میں گھی کا چراغ جلائیں اور آئینہ کے دائرہ پر نگاہ رکھ کر عمل پڑھیں۔ تا حصول مقصد عمل جاری رکھیں۔ جس دن دائرہ حرکت کرنے لگ جائے تو سمجھیں کہ عمل مکمل ہو گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِهيا
اشرا هيا الوحا العجل الساعة

☆

حاضرات آبی

نو چندی جمعرات کو دریا یا سمندر کے کنارے بیٹھ کر گھی سے تیار کردہ پرائیڈ پر خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ارواح کو فاتحہ دے کر پانی میں پھینک دیں۔ اس کے بعد یہ آیت۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ

786 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ آئے تو پانی پر داہنی ہتھیلی زور سے ماریں۔ چند یوم بعد آپ کی ہتھیلی کو چوٹ محسوس نہ ہوگی۔ بس سمجھ لیں کہ عمل چل گیا۔ اسی طرح 17 دن پڑھیں ہر طاق دن پرائیڈ ساتھ لے جائیں اور بعد عمل روزانہ فاتحہ انجیلا بالا کی ارواح کو دے کر پرائیڈ پانی میں ڈال دیا کریں۔ عمل کل 33 دن کا ہے۔

آخری چار دن آپ کا ہاتھ کسی سخت جسم سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوگا۔ ہتھیلی کی چوٹ ہاتھی جیسے جسم پر پڑے گی۔ آخری دن یا دوران عمل ہاتھی کی سونڈھ پانی سے نکلے گی۔ آپ پرائیڈ اس کے منہ میں ڈال دیں۔ عمل جاری رکھیں۔ بعد اس کے ایک مخلوق نورانی شکل انسان ظاہر ہوگی اور دعوت کا مقصد پوچھے گی۔ اس سے وعدہ حاضری لیں اور مقصد بیان فرمادیں۔

دوران عمل حصار بدنی ضرور کریں۔ آبی حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے۔ اس عمل کی

خوبیاں احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ باقی اثرات و خوبیاں عمل کرنے پر ظاہر ہوں گی۔
تجربہ شرط ہے۔

حاضرات

اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کو کوئی ایسا مرض ہو کہ اس کا پتہ نہ چلے یا کوئی گم ہو گیا ہو۔ تو یہ حاضرات کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔
ترکیب یہ ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو غسل کرا کر اور پاک و صاف کپڑے پہنا کر پاک جگہ پر بیٹھا دیں اور کڑوے تیل کے چراغ میں آخر میں لکھے ہوئے نقش کے تین فلچے روشن کریں اور لڑکے کو کہیں کہ وہ درمیانی بتی کی لوکی طرف بغور دیکھتا رہے اور کلام ہذا کو بار بار پڑھ کر لڑکے کو دم سمجھتے جائیں کلام یہ ہے۔

یاد بادشام خداوند بادشاہ نے یاد کیا کل بلد حاضر النور یا باسط الظاہر عالم الغیب پیدا ناپیدا یا خیر۔

اول آیت الکرسی ایک بار اور اول آخر درود شریف پڑھ کر لڑکے کو دم کرے اور لڑکے سے دریافت کرے کہ بتی میں کس آدمی کی شکل نظر آئی ہے۔ جس وقت لڑکا یہ کہے ہاں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے کہے کہ اس شخص کو کہ صفائی کرنے والے کو لائے جب صفائی کرنے والا آجائے تو اس سے کہے کہ صفائی کرے جب وہ صفائی کر چکے تو لڑکے سے دریافت کرے کہ صفائی ہو چکی ہے۔ تو کہو کہ بہشتی آکر چھڑکاؤ کرے۔ جب چھڑکاؤ ہو چکے تو کہے کہ تخت سلیمان لاؤ۔ جب تخت آجائے تو کہے کہ چور کو یا جس شخص نے مریض کو سحر کیا ہے یا جو کہیں چلا گیا ہو اس کو حاضر کرو۔ اس سے اس کا نام جگہ کا نام اور مکان وغیرہ کا نام یا جو دریافت کرے مکمل جواب ملے گا۔ لڑکا ہو چاہے لڑکی مگر آٹھ سال سے کم ہو۔ مندرجہ ذیل کی تین بتی تیار کرے۔

۱۹۹ ۲۱۲ ۱۸۹

حاضرات

ہر قسم کی باتیں معلوم کرنے کے لئے ترکیب یہ ہے کہ پانی کے کنارے بیٹھ کر باوضو سترہ روز بلا تادم ایک سو سات (107) بار پڑھے

عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالانْسِ (تب ی نال و نال) بار) بِحَقِّ جِبْرَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ مِيكَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ إِسْرَافِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ عِزْرَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ يَابَدِ وَح حَاضِرِ بَابَا حَاضِرِ بَابَا حَاضِرِ بَابَا۔

سترہ روز کے بعد جس کام کے معلوم کرنے کے لئے پڑھا جائے گا معلوم ہو جائے گا۔

برائے حاضرات

لڑکا یا لڑکی جو حسین و خوبصورت ہو جس کی عمر 10 سال سے زائد نہ ہو۔ اس کے دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے ناخن پر سیاہی لگائیں۔ جب سیاہی خشک ہو جائے تو اس پر تیل لگادیں اور یہ تعویذ لکھ کر انگلیوں اور انگلیت میان کے درمیان پکڑا دے اور لڑکے کو کہے کہ وہ ناخن کو بغور دیکھتا رہے۔ جب اسے کچھ نظر آئے تو اس سے جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ نقش یہ ہے

۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

حاضرات

اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کسی عمل کا حال معلوم کرنا ہو تو اس نقش کو لکھ کر منی کے چراغ میں جو بالکل نیا ہو تیل سرسوں ڈال کر اور اس تعویذ کو روٹی میں پیٹ کر بتی بنا کر جلانے اور 10 سالہ لڑکا یا لڑکی جو کہ حسین ہو اس کو سامنے بٹھائے اور اسے کہہ دے کہ وہ چراغ کی بتی کو بغور دیکھتا رہے

اگر اسے کچھ نظر آئے تو اس سے جو کچھ دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔

یکتانوس فاضلشاہ محمدشاہ میمون زنگی بکتانوس فاضلشاہ
محمدشاہ میمون زنگی العجل العجل العجل الساعته الوحا الوحا بحق
سُلیمان بن داود علیہ السلام فلاں بن یافلاں بنت فلاں۔ ہر کس کہ نزد
باشد فلاں چیز برہ است بریں فتیلہ حاضر شود۔

۸	۱۹	۱۱	۲۲	۱۴	۲۵	۱	۱۲
۱۳	۲۴	۲	۱۳	۶	۱۸	۱۲	۲۳
۳	۱۲	۱۶	۲۴	۹	۲۰	۶	۱۷
۱۷	۲۱	۵	۱۶	۷	۱۵	۱۵	۲۶

اس حاضرات کا عامل بننے کے لئے محرم کی پہلی تاریخ سے محرم کی گیارہ تاریخ تک 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر لیں۔ گیارہ روز بعد عامل بن جائیں گے جب بھی ضرورت پڑے ایک شیشے کا گلاس یا پیالہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں یا معمول کو بٹھا کر دکھائیں تو جو بھی مقصد ہو گا۔ پانی میں نظر آئے گا۔ جیسا کہ عموماً حاضرات کی سیاہی میں نظر آتا ہے۔ عمل پڑھنے سے پہلے معمول کو عمل کا موکل نظر آئے گا اس کے ذریعے سلطان الارواح سے ملیں اور معلومات حاصل کریں۔ عزیمت یہ ہے۔

يَخْفِيهِ لُطْفِ اللَّهِ بِلَطِيفِ سَيِّدِنَا اللَّهُ بِحَبْلِ سِتْرِ اللَّهِ رَخَلَتْ فِي كَنْفِ اللَّهِ
وَتَشَفَعَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَاوُدَ أَوْ مِرْكَاتِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ
اللَّهِ بِأَحْوَالِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ
أَحْيَا شُحْبَتِ نَفْسِي بِحَبَابِ اللَّهِ مَنْ أَعْطَاهَا يَا يَا اللَّهُ يَا يَا بَيْنَتْ بِحَقِّ
مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ حَارٌّ مِيمٌ جَبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِي وَأِسْرَافِيلُ عَنْ يَسَارِي
وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامِي وَعَصَا مُوسَى
بِيَدِي فَمَنْ رَأَى هَابِنِي وَخَاتَمَ سُلَيْمَانَ عَلَى لِسَانِي فَمَنْ تَكَلَّمَ إِلَيْهِ
قَضَا حَاجَتِي وَنُورَ يُوسُفَ عَلَى وَجْهِهِ فَمَنْ رَأَى يُجْنِي وَاللَّهُ يُحِيطُ بِحَوْلِ
الْمُسْتَعَانَ عَلَى أَعْرَانِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرِ الْمُتَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى رَسُولِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَةِ وَكَاشِفِ النِّعْمَةِ
وَشَفِيْعِ الْأُمَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

☆

برائے گمشدہ

جو شخص کہیں چلا جائے یا کہیں گم ہو جائے اور باوجود بسا تلاش کے اس کا پتہ نہ ملے تو یہ الفاظ
کسی کانڈ پر لکھ کر کسی پتھر کے نیچے رکھے انشاء اللہ یا تو گمشدہ واپس آجائے گا۔ جس وقت پتہ مل
جائے یا آجائے تو اس پتھر کے برابر شکر یا مٹھائی وزن کر کے اس پر خواجہ شیخ فرید "شکر گنج" کا ختم
پڑھا کر غریب کو تقسیم کر دے یا شربت بنا کر پلاوے الٹی جتنی شیخ فرید "شکر گنج" فلاں بن فلاں را حاضر کن
نوٹ:۔ جس جس جگہ فلاں بن فلاں لکھا گیا ہے یا فلاں بنت فلاں درج ہے تو اس سے مطلب
یہ ہے کہ مریض یا جس شخص کے لئے تعویذ لکھا جائے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا
جائے۔ یہ بات یاد رکھیں۔


حاضرات

اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی یا کسی امر کا حال معلوم کرنا ہو تو ذیل کا نقش ایک بڑے کانڈ
پر لکھیں۔ سولہویں خانے میں جہاں ہم نے سیاہی کا داغ لگا دیا ہے سیاہی بھر کر تھوڑا سا عطر
لگائیں اور ایک نابالغ کو تعویذ سے کر اس سے کہو کہ وہ سولہویں خانے پر نظر رکھے اور جس شخص
کی شکل اس میں نظر آئے گی وہی چور ہو گا۔ بچے کو وہ شکل نظر آجائے گی۔ اس سے دریافت کر
لیں یہ شخص کون ہے۔ نقش یہ ہے۔

۲۳۴	۲۳۵	۲۳۸	۲۳۵
۲۳۷	۲۳۶	۲۴۱	۲۴۲
۲۳۷	۲۵۰	۲۴۳	۲۴۰
۲۴۴	۲۳۹	۲۳۸	۲۴۹

برائے گریختہ

یہ تعویذ بارہا کا آزمودہ اور مجرب ہے خواہ کتنے ہی برس کسی آدمی کو گم ہوئے گزر گئے ہوں۔ وہ واپس آجائے گا یا پتہ مل جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ گم شدہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ تو بھی اس کی موت کی اطلاع آجائے گی۔ اس تعویذ کو چرخہ سے باندھ دیا جائے اور اس کے ساتھ پھیرانی طرف روزانہ دیا کریں انشاء اللہ ایک ہفتہ کے اندر اندر پتہ مل جائیگا نقش مبارک یہ ہے۔



حاضرات

اس عمل پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ یہ عمل گویا ہتھیلی پر خزانہ ہے اور سات اقلیم کے جنات کے بادشاہوں پر حکمران ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اتوار کے دن تھوڑی سی جوار لے کر زرد چوب سے زرد کریں اور سورج مکھی کے پودے کے نیچے رکھ دے اور کہے کہ آج میں تجھے دعوت دیتا ہوں کل لے جاؤں گا۔ پس اگلے دن قبل از طلوع آفتاب اس سورج مکھی کے پتے توڑ لائے لیکن جاتے وقت آتے وقت اور پتے توڑتے وقت کوئی نوکے نہیں اور نہ ہی بولے اپنی جگہ پر واپس آکر ان پتوں کا عرق نکالے اور اس عرق میں روٹی بھگو کر اور خشک کرے سیاہ تل کا روغن کسی نئے چراغ میں ڈال کر اس روٹی کی بتی بنا کر روشن کرے اور ایک نئے پیالہ کو اوپر رکھ

کر اس کا کابل نکالے اور احتیاط سے بند کر دے پھر کوئی خوشبودار تیل لے کر اس پر ایک سو اکیس (121) بار یہ عزیمت پڑھ کر دم کرے اور تیل کو محفوظ رکھے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ اجْبِبْ يَا جِبْرَائِيلُ يَا رَفْتَمَائِيلُ سَامِعًا مَطِيعًا بِحَقِّ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ۔

جب حاضرات کی ضرورت ہو اس سیاہی کو طفل نابالغ کی ہتھیلی میں رات کے وقت ملے اور اس پر عطریا تیل کو بھی لگائے تاکہ چمک پیدا ہو۔ اب عزیمت پڑھے حاضری ہتھیلی پر ہوگی جو چاہے دریافت کرے۔ صحیح خبریں ملیں گی۔ اور حالات کا علم ہوگا۔

حاضرات کی روحانی سیاہی!

اس سیاہی کے روحانی اثر سے کوسوں دور کی خبر ایک سیکنڈ میں دریافت کر سکتے ہیں۔ مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہر مرض کی تشخیص اور اس کا علاج گم شدہ اشیاء اور چور کی تلاش اسی ایک سیاہی کے ذریعہ ہو سکے گی۔ ہر مذہب و ملت کا آدمی اسی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سیاہی تیار کر کے فروخت بھی کی جاسکتی ہے۔ خریدار بھی عامل کی طرح کام لے سکتا ہے۔
ہینگ بقدر دان مکئی، گوگل بقدر دان مکئی، سیندور ایک رتی، مٹی کا تیل ایک بوند، کابل تیل سرسوں حسب ضرورت۔ تمام اشیاء کو خوب کھل کر کے شیشی میں رکھیں۔ وضو کر کے پاک جگہ پر اول درود شریف گیارہ بار پڑھ کر دم کریں۔ بعد آیت کریمہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

ایک ناگ پر کھڑا ہو کر سات بار دم کرے پڑھتے وقت منہ مغرب کی جانب ہو۔ جب بھی ضرورت درپیش ہو تو شیشی کھولتے وقت آیت کریمہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔
یہ حاضرات 8 سے 14 سال تک کی عمر کے لڑکے اور 14 سے 20 سال تک لڑکیاں بخوبی دیکھ سکتی ہیں۔

معمول کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر لگا کر اسے غور سے دیکھنے کی تاکید کریں۔ کچھ عرصہ کے

بعد ایک دروازہ نظر آئے گا۔ جب معمول کے کہ دروازہ نظر آیا ہے یا اس سے پوچھ لیں کہ دروازہ نظر آیا ہے یا نہیں۔ جب دروازہ نظر آجائے تو معمول سے کہیں کہ وہ دروازہ کھولنے کے لئے حکم دے چنانچہ معمول کے کہ دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھل جائے تو معمول سے کہلوائیں کہ خاکروب کو حکم دے کہ وہ حاضر ہو اور جھاڑو دے جگہ صاف کرے معمول کے کہتے ہی خاکروب حاضر ہو گا۔ اور جھاڑو سے صفائی کر کے چلا جائے گا۔ جب وہ چلا جائے۔ اسی طرح ہشتی کو بلائیں اور پانی چھڑکنے کے لئے حکم دیں۔ اس کے بعد اسی طرح دریاں پچھوائیں اور اس پر تخت شاہی اور کرسیاں قرینے سے رکھوانے کے لئے کہیں۔ جب تمام انتظامات ہو جائیں تو شاہ جنات بعد امراء و وزراء بلوا کر بعد سلام بجالانے کے بادشاہ کو تخت پر بیٹھنے اور امراء کو کرسیوں پر بیٹھنے کو کہیں۔ اب اس دربار شاہی کے ذریعے ہر سوال کا جواب مل سکے گا۔ اگر معمول ان پڑھ ہے تو جواب اشارہ سے حاصل کریں۔ اور اگر معمول پڑھا ہوا ہے تو اس کے ذریعے بادشاہ سے کہیں کہ ہمیں چند سوالات کا جواب حاصل کرنا ہے برائے مہربانی لکھنے کے لئے بلیک بورڈ مہیا کر لیجئے۔ فوراً خادم بورڈ مہیا کر دیں گے۔

آپ اس سیاہی کے ذریعے ہر مرض کی تشخیص اور اس کا علاج معلوم کر سکتے ہیں۔

بادشاہ سے سوال کریں اور جواب بورڈ پر لکھوائیں۔ معمول پڑھ کر بتا دے گا۔ ہر روح کو بلا کر بھی جواب لیا جاسکتا ہے۔ جب سب کام ہو چکیں تو بادشاہ کو رخصت کر دیں اور عمل ختم کر دیں۔

نوٹ:- آسمان پر ابر کی صورت میں نیز زوال کے وقت عمل نہ کریں کچھ نظر نہ آئے گا۔



حاضرات آبی کانیاہ عمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ یَا وَاحِدُ یَا فَرْدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا
اَسْئَلُکَ الْعِظَامَ وَاَنْبِیَّائِکَ الْکَرَامَ اَنْ تَسْخِرَ لِیَ الرُّوحَانِیُّوْنَ عَبْدُکَ
عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَبْدُکَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَّعَبْدُکَ عَبْدُ الْوَاحِدِ یَکُوْنُوْنَ لِمَاعُوْنَا
عَلٰی قَضَائِ حَوَائِجِ الْعَجَلِ الْوَحَا السَّاعَةِ اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمَانَ وَاِنَّهٗ یَسْمِی اللّٰهَ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَا تَعَالَوْ عَلٰی وَاَتُوْنِیْ مُسْلِمْیْنَ۔

طریقہ زکوٰۃ

سب سے پہلے اس عبارت مبارکہ کو اچھی طرح حفظ کر لیں پھر اس کے بعد پہلی تاریخ ماہ رمضان میں گیارہ دن تک روزانہ آتالیس مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔

کسی بھی شیشے کے برتن یا گلاس میں پانی ڈال کر پانی میں دیکھ کر عمل پڑھیں اس کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ جب بھی کسی مسئلہ کے بارے میں معلوم کرنا ہو۔ مثلاً چوری، گمشدہ شخص کا معلوم کرنا ہو، بیماری یا سحر، کسی کا حال پوچھنا، ریس و سٹ کا نمبر معلوم کرنا، انعامی بانڈز، امتحان کے نتائج معلوم کرنا۔

مختصر یہ کہ تمام حالات کا علم عامل کو پانی میں نظر آئے گا۔

جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے عامل ایک گلاس پانی لے اور عمل کو صرف تین بار پڑھے تمام احوال پانی میں نظر آئے گا۔ نہ بچے کی محتاجی نہ کسی بچی کی۔ میری نظر میں حاضرات آبی کا اس سے بہتر اور نایاب عمل آج تک کہیں نہیں ملا۔ عمل کیا ہے ایک فیہی خزانہ ہے جو بھی اس عمل کو کریگا دامن موتیوں سے بھر لے گا۔

ضروری نوٹ

دوران عمل پر ہیز جلائی و جمالی لازمی ہے ورنہ حاضرات نہ کھلے گی۔ اس کے علاوہ عامل بننے کے بعد روزانہ طاق عدد میں عمل پڑھنا لازمی ہے تاکہ عمل قابو میں رہے ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ عمل احقر کا خود کار آزمودہ ہے۔



عمل حاضرات یک روزہ

ذیلی عمل میں صرف ایک دن شب جمعرات یا شب جمعہ کو سات عدد سیاہ کنکریاں جو سڑک بنانے والی جگہ پر عموماً مل جاتی ہیں۔ بعد نماز عشاء ہر کنکری پر سات مرتبہ درج ذیل منتر پڑھیں اور پھر

عمل کو تلاوت کر کے بچے پر پھونکیں تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کے سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے۔

عزمت علیکم یا معشر الروحانیہ ان تنزل بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بحق سلیمان بن داود علیہ السلام وبحق کھیعص وبحق جمعسق وبحق یسین وبحق فسیکفیکہم اللہ وہو السميع العليم وبحق یا حی یا قیوم رحمتک یا رحم الراحمین ○

☆ حاضرات آیت الکرسی

مندرجہ ذیل عمل قضاء حاجت کے لئے ہے اور اس میں حاضرات بھی ہوتی ہے۔ کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ نوچندی جمعرات کو روزہ رکھ کر صرف دودھ چاول سے افطار کریں اور کچھ نہ کھائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی ان الفاظ کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں۔ یعنی جب ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ چکیں۔ تب ان الفاظ کو ایک مرتبہ دہرائیں۔ الفاظ یہ ہیں۔

بسریاخ کشمیہلخ شلخمتہ طلخ احضرو بارک اللہ فیکم وعلیکم

وافعلوا کنا وکنا

(کذا وکذا کی جگہ اپنے مقصد کا نام لیجئے) مگر مقصد عربی زبان میں ادا کیا جائے۔ کسی عربی دان عالم سے اس کی عربی بنوائی جائے۔ اس عمل کے خاتمہ پر موکل سبز پندوں کی شکل میں حاضر ہوں گے جن کے بازو ایک دوسرے سے پیوستہ ہوں گے۔ جس وقت وہ حاضر ہو جائیں تو یہ الفاظ کہے جائیں۔

انصر فواللی ما امرتکم بہ انصر فواما حورین بارک اللہ فیکم وجزاکم

○ عناخیرا

یہ الفاظ کہنے سے چاروں موکل واپس ہو جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ ان موکلان کا حاضر ہو جانا ہی آپ کی کامیابی کی دلیل ہے ناجائز کوئی کام نہ کیجئے ورنہ نقصان پہنچے گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں تیسرے پارے کی تیسری آیت سے شروع ہو کر العظیم پر ختم ہوتی ہے۔

☆

چور کا نام 'سٹہ' لائری 'انعامی بانڈ'

مندرجہ ذیل معلوم کرنے کا حیرت انگیز عمل جس کی دنیا بھر میں دھوم ہے۔

ایک کوئڈا یا طاس لائے اور کورے چراغ میں اس نقش کو لکھیں اور فقیلہ بنا کر جلانے کو رومی روٹی اور کوندی میں پانی بھر کر رو برو رکھیں اور کسی نابالغ لڑکی کو سرخ کپڑے پہنا کر بٹھائے اور پھول گلاب پر اس عزیمت کو سات مرتبہ پڑھ کر لڑکی کو دے دے اور کہے کہ پھول سو گتھ۔ جب سو گتھ چکے تو لڑکی سے کہو کہ یہ چراغ جل رہا ہے اسے اچھی طرح دیکھو اور رو برو مریض کو بٹھائے اگر آسپ دور کرنا ہو ورنہ نہیں) اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو اس سے کہو کہ جھاڑو دے کر جاؤ اور سٹہ کو بھیجو تاکہ چھڑکاؤ کرے اور فراش کو کہے کہ فرش بچھائے اور کرسیاں رکھے۔ بعد میں کہے کہ شہنشاہ جنات سے کہو کہ آپ کرسی پر تشریف رکھیں اور نوکروں کو حکم دیں کہ کھانا لائیں وہ کھانا لاکر شہنشاہ جنات کے سامنے رکھ دیں گے۔ جب کھانا کھا چکیں تو بادشاہ سے کہیں کہ حضور ہم سٹہ کا نمبر لائری کا ٹکٹ یا انعامی بانڈ نمبر دریافت کرنا چاہتے ہیں یا فلاں مریض بیمار کیوں ہے اسے کیا بیماری ہے اسے کونسا علاج کرنا چاہیے۔

اسی طرح چوری کرنے کی نسبت لڑکی سے کہے کہ چور جس نے چیز چرائی ہے معہ اس چیز کے حاضر ہو یا اس کو پکڑائے یا شناخت کرائے اور اس نقش کو لڑکی کے ہاتھ پر لکھ دے اور راستہ 'طریقہ یا جو سوال حل مشکلات کے لئے کرنا ہو بادشاہ سے کرے سب امر طے ہو جائیں گے۔

نیاز پوری دی جائے جو کہ درج ذیل بادام، مصری، حلوا، روٹیاں، بکرے کی کھجی، بھنی ہوئی، کورا کپڑا جس پر لڑکی بیٹھے گی۔ عطر لونگ الائچی سپاری لڈو، پھول لوبان مشک وغیرہ تمام اشیا (توشہ) وغیرہ دے کر عمل کرے۔

اگر توشہ نہ دے گا تو حاضرات نہیں کھلے گی لہذا عمل شروع کرنے سے پہلے توشہ ضرور دیں۔

چراغ میں جلانے کا نقش اگلے صفحہ پر ہے۔ اور ہتھیلی کا نقش بھی اگلے صفحہ پر ہے۔

عزیمت حاضرات

عزمت علیکم فتح فتح جھنگ جھنگ السمیم السیماء صغیرک صغیرا

انسابلیا بلیا طلبا طلبا سوزد سوزد وکیلا وکیلا بہلا بہلا نیلا نیلا

خاتم سلیمان بن داود علیہ السلام حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔

(304 بار پڑھیں)

یا میکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

۵۵۰۴	۵۵۰۷	۵۵۱۱	۵۴۹۷
۵۵۱۰	۵۴۹۸	۵۵۰۳	۵۵۰۶
۵۴۹۹	۵۵۱۳	۵۵۰۵	۵۵۰۲
۵۵۰۶	۵۵۰۱	۵۵۰۰	۵۵۱۲

یا عزرائیل

یا اسرافیل

یا جبرائیل

یا عزرائیل	یا جبرائیل	یا اسرافیل
تیل لگا کر دیکھیں	●	پھول دوسرے ہاتھ میں
یا میکائیل		

عمل حاضرات

دس بارہ سال کے لڑکے یا لڑکی کو مندرجہ ذیل نقش داہنے ہاتھ میں تھمائیں۔ خوشبو یا اگر بتی سلاگائیں۔ ایک گلاب کے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پہنائیں۔ پھر سات مرتبہ درود پاک اور سات مرتبہ یا تکفیل یا اسرافیل پڑھ کر نقش بچے کو دے کر کہیں کہ سیاہی والی جگہ کو بغور دیکھیں اور عامل خود یہ عزیمت علی ولی اللہ برابر پڑھتا رہے۔ پانچ منٹ بعد حاضرات کھل جائے گی۔ جس سے آپ ہر قسم کے جائز سوال کے جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ ناجائز کام کی اجازت نہیں ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نقش یہ ہے۔

۵۵	۵۸	۶۱	۴۸
۶۰	۴۹	۵۴	۵۹
۵۰	۶۳	۵۶	۵۳
۵۷	۵۲	۵۱	۶۲

حاضرات ناد علی

طریقہ

ناد علی کو نوچندی جمعرات سے پڑھنا شروع کریں۔ ایک سو ایک مرتبہ اکیس دن تک پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب آپ ناد علی کے عامل ہو جائیں گے۔ جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے عامل اگر بتی ساگائے اور دس یا بارہ سال کے بچے کے دائیں انگوٹھے پر سیاہی سے یا علی مدد لکھیں اور بچے کو ناخن میں دیکھنے کا کہے اور خود عامل بچے کی چھنگلی پکڑ کر ناد علی برابر پڑھتا رہے اور بچے پر گیارہ مرتبہ ناد علی پڑھ کر پھوٹے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ ہر مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں مثلاً چوری، گمشدہ شخص کا معلوم کرنا، بیماری یا سحر، امتحان کے نتائج معلوم کرنا، غرض ہر وہ کام جو نیکی پر مشتمل ہو۔ ناجائز سے نقصان اٹھائے گا۔ حاضرات کی ابتدا پہلے بچے سے کریں اس کے بعد آپ بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ عامل بننے کے بعد روزانہ ناد علی طاق اندام میں برابر پڑھتے رہیں تاکہ عمل قابو میں رہے ورنہ ضائع ہو جائیگا۔ عمل احقر کا آزمودہ ہے۔

یارحیم جمالہ یا احمدیاد وکیل

طریقہ

مندرجہ بالا عزیمت کو نوچندی جمعرات سے شروع کریں اور 1250 مرتبہ اکیس دن تک پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جب کبھی ضرورت پڑے تو بچے کے انگوٹھے پر سیاہی لگا کر بچے کو اس پر دیکھنے کا حکم دیں اور مندرجہ بالا عزیمت عامل برابر پڑھتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عامل خود اپنے ہاتھ پر یا مرغی کے انڈے پر بھی کر سکتا ہے سب حالات قلم کی طرح نظر آئیں گے۔

حاضرات درود تاج

نوچندی جمعرات سے درود تاج کو 170 مرتبہ گیارہ دن تک پڑھیں یہ عمل صحن میں پڑھیں۔ اس کے بعد تین دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اور فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں۔

اس کے بعد تین مرتبہ درود تاج کا ورد کریں۔ عمل کے دوران حضور اور چاروں خلفاء کا دیدار ہو جاتا ہے اس عمل کو ہتھیلی پر سیاہی لگا کر اس کی طرف دیکھ کر کریں۔ جب حاضرات کھل جائے تو عامل موکل سے کہے کہ کسی ولی اللہ کی قبر یا مزار پر لے جائے اور آپ صاحب قبر سے اپنی مشکلات کا حل پوچھیں۔

عمل حاضرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزمت علیکم یا شاہ بکتانوش یا معشر الجن فتحناک فتحناک السا
السابلسا بلسا تلسا تلسا کھلا کھلا سخیا سخیا نبیا شریا شریا بحق

○ سلیمان بن داود علیہ السلام

یہ عمل بعد از نماز عشاء 3 دن متواتر روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سات یوم 100 مرتبہ پڑھیں یہ عمل حاضرات دوران سفر مجھے ایک ترک باشندہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ یہ ایک سینے کا راز ہے۔ جسے میں تمہیں بخش رہا ہوں۔ عمل کرنے پر اس کی قدر خوبیاں معلوم ہوں گی۔ عمل کیا تجربہ کی کسوٹی پر پورا اترتا۔ میری طرف سے عام اجازت ہے۔

عمل حاضرات

یہ عمل بعد از نماز عشاء کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ بہ نیت حاضرات 21 دن پڑھیں اور ساتھ ہی ستر مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ 21 دن میں چلہ پورا ہو گا۔ عمل پورا ہونے کے بعد صرف 12 مرتبہ بسم اللہ اور 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر حاضرات کریں۔ حاضرات اندہ اور ناخن پر بھی کر سکتے ہیں انشاء اللہ ہر جائز مقصد پورا ہو گا۔

عمل حاضرات

یہ عمل ایک زبردست عامل و کامل کا عطیہ ہے ہر قسم کے مشکل سے مشکل سوالات کے جوابات با آسانی بذریعہ حاضرات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ امتحانات کے پرچے، انعامی بونڈز، ریس، سٹو، غرض ہر وہ مشکل کام جو انسان کے بس سے باہر ہے وہ با آسانی بذریعہ حاضرات معلوم کیا جاسکتا

ہے۔

آیت کریمہ

یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین ○

11 مرتبہ 21 دن پڑھیں، حاضرات پہلے 10/12 سال کے بچے پر کر کے دیکھیں بعد میں بڑے پر بھی کی جاسکتی ہے۔ حاضرات آئینہ اور چراغ کی لو پر بھی کر سکتے ہیں۔
نوٹ:- اس عمل میں 21 دن پر ہمیز جلائی و جمالی شرط ہے۔

عمل حاضرات

تین روزے رکھے مع ریاضت کے پھر یہ اسماء آیت 21 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اس عمل کا خادم نیند یا بیداری میں ظاہر ہو گا۔ اور وہ معاہدہ کر کے حلال کے بارے میں کام کرے گا۔ جب بھی حاضرات کرنے کا ارادہ ہو تو یہ خاتم آئینہ کے پیچھے لکھے اور بخوردے کر پھر آئینہ میں دیکھے اور پڑھتا جائے عزیمت 3 بار پڑھے۔

بخوردے جاوتری عود کا دے۔ عزیمت یہ ہے، شلش۔ شلش۔ شلوش۔ شلوش۔ شلوش۔ شاموس۔ شاموس۔ شاہوش۔ شاہوش۔ شالوش۔ شالوش۔ ہلوش۔ ہلوش۔ سبجان من ہو قادر علی کل شئ اجب یا فقطش با حکیم الجن توکل بخدمتی سریعا بحق من شق۔ سمعک و بصرک و خلقک من نار السموم الوحال العجل الساعته۔



عمل حاضرات برائے گرفتاری سارق

نابالغ لڑکے یا لڑکی کی دونوں ہتھیلیوں پر تیل میں سیاہی ملا کر مل دیں پھر یہ عزیمت جو یا ماش کے 9 دانوں پر علیحدہ علیحدہ پڑھ کر ایک ایک دانہ اس بچے کو مارے اور بچے سے کہے کہ وہ ہتھیلی پر سیاہی میں نظر جما کر دیکھتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہتھیلی میں چور کی صورت صاف دکھائی دے گی۔ عزیمت یہ ہے۔

عزمت علیکم فتحون فتحون فتحون۔ حبیبک۔ حبیبک۔ حبیبک۔
شفیعا۔ شفیعاً۔ شفیعاً۔ عطیشا۔ عطیشا۔ عطیشا۔ سرورا۔ سرورا۔
سروراً۔ قد ورا۔ قد ورا۔ قد ورا۔ سهلا۔ سهلا۔ سهلا۔ نهلا۔ نهلا۔
احضرو من جانب المشارق والمغرب بحق سلمان ابن داود علیہ
السلام۔

عمل حاضرات

آدھا پاؤ روغن چنبیلی لیں اس میں ایک تولہ کافور ڈال کر چراغ جلائیں اور سامنے بیٹھ کر جب
چراغ جلتا رہے یہ اسم بلا تعد او پڑھتے رہیں۔

هو الا ساتھ سرنا هو یا کریم ○

اس تیل سے پھلا (کاجل) حاصل کر کے کسی شیشی میں ڈال دیں۔ اور عطر گلاب اس کاجل میں
اتنا ڈالیں کہ سیاہی بن جائے 10-12 سال کے بچے کو نہلا دھلا کر اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے
پر ذرا سی سیاہی لگا دیں۔ اور بچے کو کہیں کہ اس پر ٹکنکی لگا کر دیکھتا رہے احتیاطاً 5/7 بار ورد
مذکور کریں۔ فوراً ہی حاضرات شروع ہو جائے گی۔ ایک روح اس کو نظر آئے گی۔ ہر قسم کے
سوالات کے جواب دریافت کریں۔ حتیٰ کہ اس حاضرات سے امتحانوں کے پرچے بھی آسانی سے
دیکھے جاسکتے ہیں۔ ماضی حال اور مستقبل کا ہر منظر اس بچے کے سامنے آتا ہے۔ آپ جو بات
دریافت کرتے جائیں گے۔ پوری وضاحت سے ٹیلی ویژن چلتا رہے گا۔ مگر آدھ گھنٹے سے زیادہ
اس قسم کی حاضرات نہ کریں کیونکہ اس بچے کے ذہن پر اثرات وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس لئے کسی ایک ہی لڑکے کو اپنا مستقل معمول نہ بنائیں تاکہ اس بچے کو کوئی عارضہ روحانی نہ
ہو جائے۔

عمل حاضرات

حاضرات کے لئے عموماً یہ نقش مثلاً زیادہ کام دیتا ہے کسی قسم کی بھی حاضرات ہوگی کام دے

گی۔

اس نقش سے صرف جمعرات کے دن یا رات کو کام لے سکتے ہیں حاضرات بچے کو معمول بنا کر
کریں کہ وہ اس میں دیکھے۔

یا اسرافیل	۷۸۶	یا جبرائیل
۲۷	۲۰	۲۵
۲۲	۲۴	۲۶
۲۳	۲۸	۲۱
یا اسمائیل	بحق یا باسط	یا ہمو اکین

عمل حاضرات

یا جبرائیل۔ یا میکائیل یا اسرافیل یا تنکافیل از رو شکر و کل موجودات۔
حاضر شو حاضر شو بحق یا بدوح۔ یا بدوح یا بدوح

طریق سرورویہ۔ درمیان مغرب و مشاء ایک سو اکیس بار پڑھے ایک ہفتہ دوسرے ہفتہ میں 21
بار پڑھے تیسرے ہفتہ میں 11 بار پڑھے چوتھے ہفتہ ایک بار۔ اس طرح جب چار ہفتہ پورے ہو
جائیں تو فاتحہ اللہ پاک کو پیش کرے۔ جب حاضرات کی ضرورت ہو تو مندرجہ ذیل نقش لکھ کر
اس کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ بناوے اس نقطہ پر تھوڑا سا تیل لگا کر نابالغ بچے کے ہاتھ میں دے کر
عزیمت صدر پڑھ کر سر پر پھونکے اور دریافت کرے کہ کیا نظر آتا ہے اسی طرح عزیمت پڑھتا
جائے۔ اور دریافت کرتا جائے ہر لفظ کے ساتھ اس طرح پر اسماء پڑھنے چاہئیں۔ یا جبرائیل
اللہ۔ یا میکائیل قیوم یا اسرافیل جی یا تنکافیل قیوم از دو شکر و بحق خواجہ بزرگ کل موجودات حاضر
شو۔ بحق یا بدوح۔ بحق یا بدوح۔ ہر حالت کے لئے پڑھنا منظور ہو تو کوئی اوقات پنجگانہ سے ایک ہفتہ
21 بار پڑھے۔ اور حاضر شو پڑھتے وقت اپنے مقصود کا تصور رکھے۔

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

عمل حاضرات

اگر کوئی شخص چاہے کہ حاضرات کرے تو اس کو چاہیے کہ ارادہ سے قبل تین دن روزہ رکھے اور ترک حیوانات کرے۔ اور چوتھے دن پاکیزہ مکان میں بیٹھے اور سفید لباس زیب تن کرے اور اس مقام و مکان کو معطر کرے اور ناپاک غیر ظاہر اس مجلس میں داخل نہ ہو اور بچہ نہ کریا مونث کو پاک لباس پہنائے اور کرسی پر بٹھادے اور دھونی دے اور مندرجہ اسم کے عدد حاصل کرے اور ان اعداد سے مربع پر کرے۔ طریقہ معینہ سے اور اس مربع کے خطوط اور اعداد سونے کے پانی سے لکھے اور وہ بچہ اس مربع میں دیکھتا رہے تو جو شخص حاضرات کر رہا ہے وہ اس کو پڑھتا رہے اور کچھ بچے کو اس میں نظر آئے اس سے پوچھتا رہے اور جو مطلب بھی رکھتا ہو وہ اس بچے سے کہے اور وہ ان سے عرض کرے جو نظر آ رہے ہوں اور ان سے جواب حاصل کرے جب مطلب تمام ہو جائے تو ان کو تکلیف نہ دے بلکہ پڑھنا بند کر دے وہ چلے جائیں گے اور اگر کوئی شدید مصیبت میں مبتلا ہو جس کا تدارک نہ ہوتا ہو تو وہ بھی اسی عبارت کو لکھے کہ بر طرف ہو جائے۔ فلاں مصیبت فلاں ابن فلاں سے وہ اسم یہ ہے (حیثیفورث) روز یکشنبہ یا چہار شنبہ ان حروف کے مجموعہ کے اعداد لے کر مربع تیار کرے اور اس مربع کو مریض اپنے گلے میں ڈال لے انشاء اللہ اس مربع کی برکت سے شفاء پائے گا۔

(اسم مربع حاضرات اسم مبارک حیثیفورث)

۱۵۵	۱۵۶	۱۶۲	۱۶۳
۱۶۱	۱۶۹	۱۵۴	۱۵۹
۱۵۰	۱۶۴	۱۵۶	۱۵۳
۱۵۷	۱۵۲	۱۵۱	۱۶۳

عمل حاضرات

عزمت علیکم یا محشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام احضرو احضرو احضرو یا قوم حاضرات حاضر شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سب سے پہلے درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور مندرجہ بالا عزیمت 3 بار پڑھ کر عامل خود سلام کرے۔ حاضرات معمول پر ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر شروع ہو جاتی ہے حاضرات انگوٹھے آئینہ اور پیالہ میں بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ حاضرات ہر قسم کے مشکل سے مشکل سوالات کے جوابات حاصل کرنے میں اپنی مثال آپ ہے لیکن ایک بات واضح کر دوں معمول اس بچے سے جس پر حاضرات کی جائے اس بچے سے کسی جاوہر یا جن کے بارے میں ہرگز ہرگز نہ پوچھا جائے۔ ورنہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کفن باندھنا پڑے گا۔

عمل حاضرات

اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ عمل کیا تجربہ کی کسوٹی پر اعتقاد سے بھی زیادہ بڑھ کر نکلا۔

مندرجہ ذیل نقش آتش چال سے پر کر کے بچے کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پکڑا دیں۔

جبرائیل ۷۸۶

۴۰۳	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۰
۴۱۵	۴۰۹	۴۰۴	۴۱۶
۴۰۲	۴۱۲	۴۱۹	۴۰۵
۴۱۸	۴۰۶	۴۰۷	۴۱۳

ایک پاؤ یا تو حایاؤ خالص تلی کا تیل لے کر چراغ بنائیں اور اس تیل کا پھلا (کابل) حاصل کر کے کسی ڈبیہ میں ڈال دیں۔ اور عطر گلاب یا نس اس کابل میں اتا ڈالیں کہ سیاہی بن جائے۔ 10-12 سال کے بچے کو نہلا دھلا کر اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا سی سیاہی لگا دیں اور بچے کو کہیں کہ اس پر نمک لگا کر دیکھتا رہے اور آپ احتیاطاً 5/7 بار یہ اسم ورد کریں۔ ہر بار ام اللہ ظاہر ہے ایک یا ڈیڑھ منٹ بعد فوراً حاضرات شروع ہو جائے گی اس حاضرات سے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دریافت کریں۔ روزانہ سٹ کا نمبر ریس کے متعلق تمام حالات معلوم کریں۔ بیماری غائب اور تمام مشکل سوالات کے جوابات با آسانی معلوم کریں۔

تسخیر ہنومان

وضاحت عمل :- دیوالی یا دسہ کی راتیں بیریا مسان یا ہنومان وغیرہ کو جگانے اور ان کو قبضہ میں لانے کے لئے موثر ہوتی ہیں۔ جادوگران کی دعوت کرتے اور بلاتے ہیں پھر سال بھران سے کام لیتے ہیں۔ بحالت مجبوری اس کے علاوہ بھی اور دوسرے ایام میں عمل کر سکتے ہیں۔

شگرف پسی ہوئی سے پاک زمین پر چوکادیں۔ یعنی اپنے چاروں طرف لکیر لگائیں اس چوکے میں بیٹھ کر خوشبو سگائیں اور پیشانی پر ایک نیکہ لگالیں۔ چند چھوٹی الائچیاں اور لونگ اپنے پاس رکھیں۔ اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں پھر اس منتر کو ایک بیٹھک میں پانچ ہزار مرتبہ پڑھیں۔ جو یہ ہے۔

”واسے ہنومان کی صورت حاضر شو بحق رام چند راجی مہاراج“

اسے رات کے بارہ بجے کے بعد پڑھیں۔ جس مکان میں پڑھیں۔ وہ ہر چیز سے خالی ہو۔ پاک و صاف ہو وہاں کوئی دوسرا شخص نہ آئے۔ خیالات میں یکسوئی رکھیں۔ عمل چالیس دن کا ہے۔ اکیس دن کے بعد بہت سی اشکال ظاہر ہو کر سامنے آجاتی ہیں۔ لیکن یہ سب عارضی ہوتی ہیں۔ عامل کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بلکہ دلیرانہ طور پر اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات عامل خوف کھا کر دیوانہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ 21 دن بعد کبھی کوئی سرکٹا ہوا زمین پر آ پڑتا ہے۔ کبھی کوئی خوفناک صورت آجاتی ہے لیکن خوف نہ کھائیں۔ حصار کے اندر کوئی بھی چیز نہ آئے گی۔ کوئی چیز بھی عامل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب چلہ پورا ہو جاتا ہے تو ایک تخت اترتا ہوا نظر آتا ہے جس پر ہنومان بیٹھے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تخت زمین پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ تو ہنومان جی سوال کرتے ہیں۔

”اے عامل ہمیں کس لئے بلایا ہے“ جس بات کا حکم کرنا ہے کریں۔ اب عامل کو چاہیے۔ کہ وہ مقصد دل بتادے مثلاً روزینہ مقرر کرانا۔ دور دراز کی اشیاء طلب کرنا۔ ریس و سٹہ معلوم کرنا بتا دے جب اقرار ہو چکے تو کسی شخص سے ذکر نہ کرے۔ غرض جو مقصد ہو بتا دینے سے حرج واقع ہو گا۔ روزینہ بھی بند ہو گا۔ اور عجیب قسم کی مشکلات گھیر لیں گی۔

☆

تسخیر جمیلہ پری

وضاحت عمل :- نوچندی جمعرات کے دن روزہ رکھ کر شام کے وقت کھیر کھائے اور پھر رات کے وقت یعنی بارہ بجے بعد مقام تھائی میں خوشبویات سگائے۔ شگرف پسی کر سرخ گول دائرہ کھینچے۔ اس میں چار الائچی خورد۔ آٹھ لونگ آٹھ سپاری۔ اور کورا چراغ کھی کا جلا کر خوشبویات اور مٹھائی اس گول لکیر یعنی حلقہ میں رکھ دے۔ پڑھتے وقت لال کپڑے پہنے۔ باطنمارت رہے پڑھنے سے پہلے حصار کھینچ لے۔ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ سات دن تک ذیل کے منتر کو پڑھے۔ سات دن میں تسخیر ہوگی۔

منتر :- ”حب کا تارا اتوار سے سواہا۔“

☆

تسخیر بیر شہزادہ

وضاحت عمل :- شہزادہ تینوں نام کی اجاں۔ کاہنوں دھیانی من کی چل۔ دیدوں و سیانی نسوں من کی چل۔ و سیاں دھیانی نوں من کی چل۔ بالے بالو کو من کی چل۔ شور کھڑے کو من کے چل۔ پیر دھڑیاں والے کو من کے چل۔ چلے منتر باچھا دیکھاں بیر شہزادے تیرے عمل کا تماشا۔

ترکیب

اول روز تیل کا حلوا ایک سیرکا کر بچوں کو تقسیم کرے۔ پھول اور لونگ بتاشے چراغ کھی سب چیزوں کو رو برو رکھ کر سیندور کا نیکہ لگا کر علیحدہ مکان میں بیٹھے اور گیارہ سو مرتبہ روزانہ گیارہ دن تک بلا ناغہ پڑھے سات روز کے اندر بیر شہزادہ حاضر ہو گا۔ مگر گیارہ روز عمل پورا کرے اور عمدہ بیان لے کر کام کرے کام دیتا رہے گا۔ اگر وہ سات روز میں حاضر ہو جائے تو ایک بکرایا مرغی اسکو نذر دیا جائے گا۔ اور آخری روز اڑھائی سیر تیل کا حلوا دیا جائے گا۔

☆

تسخیر بھوت

وضاحت عمل :- کسی بھی ہفتہ کوئی ہندو عورت مرے تو اس کے نسلانے کی ٹھیلیا یا گھڑیا مانگا

توڑا جائے اس میں اتنا گیہوں ڈالیں جس سے چار عدد روٹی پک جائیں پھر اس میں شراب ملا کر رکھ چھوڑیں۔ اگر وہ اتنا بزانہ ہو۔ تو کسی اور ٹھیکرے میں دونوں چیزیں ڈال کر رکھیں۔ دونوں کو پیس لیں۔ اور اس ٹھیکرے کو ساتھ لیں جو نسلانے کے برتن کا حاصل کیا تھا۔ جنگل میں جائیں۔ سرکنڈے کی آگ روشن کر کے اس ٹھیکرے پر چار روٹیاں پکائیں۔ پھر گھرا کر کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دبا دیں۔ رات کو وہی مری ہوئی عورت آکر عاجزی کرے گی۔ بڑی منت سماجت کر کے روٹی مانگے گی۔ اب ادھی روٹی توڑ کر اسے دے دیں۔ پھر باقی روٹی زمین میں دفن کر دیں ورنہ وہ ہاتھ سے چھین کر لے جائے گی۔ اگر وہ عورت ڈرائے تو ڈرے نہیں ذرا بھی خوف نہ کھائیں بلکہ اسے نال دیں وہ مجبور ہو کر چلی جائے گی دوسری رات آکر پھر روٹی مانگے گی۔ پھر جب اس سے کام لینا ہو۔ قول و قرار اور قسم اور پختہ وعدہ کام کرنے کالے لیں۔ تو پھر وہ روٹی بھی دے دیں۔ اس وقت وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ اور جو اس سے پوچھو گے کان میں کہہ دیا کرے گی۔



تسخیر حبشی بچہ (جنات) مؤکل یک روزہ

وضاحت ہبل :- کتان کا کپڑا لیں ورنہ چار سوٹی کپڑا لیں۔ مینڈک کو ذبح کر کے اس کپڑے کو خون میں تر کر لیں ایک مینڈک ہو یا زیادہ سے زیادہ اس کو سکھالیں۔ اور فقیلہ بنالیں۔ اب تانے یا بست کا ایک چراغ تیار کروائیں۔ اور اس چراغ کے پیندے میں پوری سورۃ کوثر کندہ کرائیں جیسا کہ مندرجہ ذیل نقش میں دی گئی ہے۔

۷۸۶

۶۸۸	۶۹۱	۶۹۲	۶۸۱
۶۹۳	۶۸۲	۶۸۷	۶۹۲
۶۸۳	۶۹۶	۶۸۹	۶۸۶
۶۹۰	۶۸۵	۶۸۷	۶۹۵

اور بوقت ضرورت روغن تل چراغ میں ڈال کر فقیلہ رکھ کر جلا میں اور پاس بیٹھ کر 2754 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں چراغ کو سامنے رکھ کر سورۃ

کوثر پڑھنا ہے عمل کے ختم ہونے پر بچوں کو شربنی بانٹ دیں۔ اس کے علاوہ عمل کے اختتام پر ایک حبشی لڑکا حاضر ہو گا۔ جو خدمت اس وقت کہی جائے گی وہ بجالائے گا۔ جو مانگیں گے۔ وہ لا کر دے گا۔ حصول مطلب کے بعد چراغ سرد کر کے محفوظ رکھ لیں۔ جب دوسری دفعہ ضرورت پڑے وہ کام دے گا۔ مگر فقیلہ نیا تیار کرنا ہو گا۔ عمل کرتے وقت فقیلہ پر نگاہ رکھے یہ عمل عروج ماہ میں رات کے وقت کسی سعد ساعت میں کرنا چاہیے کمرہ تنہا ہو۔ اگر ایک دفعہ فقیلہ تیار کیا اور وہ ختم نہ ہوا تھا کہ حاضری ہو گئی۔ تو باقی ماندہ فقیلہ سے دوسری بار بھی کام لے سکتے ہیں اس کو بھی سنبھال کر رکھیں بشرطیکہ سورۃ کوثر کی پڑھائی سے قبل نہ ختم ہو جائے والا ہو یعنی بہت تھوڑا نہ رہ گیا ہو۔

سزا کا عمل

دوپہر کے وقت با وضو قبلہ رو ہو کے بیٹھے اور اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر زکوٰۃ دے۔

”البغض یا بدمیع العذاب بالتراک“

اس کے بعد لکڑی کی بہت عمدہ گانٹھ لے کر اس پر نام مطلوب الگ الگ حروف کر کے لکھے۔ عمل کرتے وقت 100 دفعہ پڑھیں اور ایک جو تا اس گانٹھ پر ماریں۔ جس قدر پڑھتے جائیں گے اسی قدر جو تے مطلوب کے لگیں گے۔

حاضرات

نابالغ بچے کے ناخن پر کالی سیاہی سے ”یابدون“ لکھیں پھر اس پر مزید سیاہی لگا کر پورا ناخن کالا کر دیں اور تھوڑا سا عطر لگا دیں پھر ذیل کی عبارت پڑھیں اور بچے کی آنکھوں اور ناخن پر دم کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کو سبز میدان میں آدمی نظر آئے گا۔ اسے بچہ کے جھاڑو کش کو بلائے پھر بادشاہ سلامت کو حاضر کرنے کو کہے جب بادشاہ سلامت آجائے تو اسے سلام کریں اور اپنا مدعا بیان کریں تمام سوالات کا جواب تسلی بخش ملے گا۔ حاضرات کی عبارت یہ ہے۔

احضر احضر یا صاحب الجن والانس بحق حضرت سلیمان بن داود علیہ

السلام حاضر شو حاضر شو حاضر شو العجل العجل العجل الساعة

الساعة الوحا الوحا الوحا۔

حاضرات

اول روزانہ تین دن تک بعد نماز عشاء چھ ہزار مرتبہ یہ آیت شریف کسی پاک جگہ پر پڑھ لیں
اول و آخر ۱۱/۱۱ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔

یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض

فانفذوا لتنفون الا بسطان (سورہ رحمن) بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اس

کے بعد دو پیالے مٹی کے لیں اور کچھ عطر اور کچھ کافور لیں اب اول ہر دو پیالوں پر اس آیت

مذکورہ کو ساٹھ ساٹھ مرتبہ دم کر کے اور پھر ساٹھ مرتبہ کافور پر دم کر کے ایک سکورے میں کافور

رکھ کر دیا سلانی سے اس کو جلا دیں اور دوسرا پیالہ اس کے اوپر ذرا اونچا رکھ دیں تاکہ اوپر والے

پیالہ میں کاجل تیار ہو جائے۔ اب اس کاجل میں عطر ملا کر کسی ڈبیہ میں محفوظ رکھیں اور جب

کبھی ضرورت کسی امر کے دریافت کرنے کی ہو تو کسی نابالغ لڑکے لڑکی کے انگوٹھے پر اس سیاہی

کو ذرا سا لگا دیں اب عامل لڑکے یا لڑکی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ اس

آیت کو پڑھ کر دم کرے۔ اب لڑکا لڑکی کے کہ دو شخص ہمارے سامنے فوراً حاضر ہوں۔ جس

وقت دو شخص سامنے نظر آئیں ان کو حکم دے کہ میدان کو صاف کئے پانی وغیرہ چھڑک کر فرش

جلد بچھاؤ۔ جب فرش بچھ جائے تو بادشاہ سلامت کو طلب کرے۔ جب بادشاہ حاضر ہو ان کو پہلے

سلام کرے اور ان سے دریافت کرے کہ آپ کو اس وقت کوئی کام تو نہیں ہے۔ جب وہ جواب

دیں کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تو آپ ان سے جو حالات ہوں دریافت کریں۔

(۱) مثلاً فلاں شخص بیمار ہے کب تک اچھا ہونے کی امید ہے کیا علاج ہے کس دوا سے فائدہ ہو

گا؟

(۲) فلاں شخص آسب زدہ ہے آپ اس کو جلا دیجئے یا گرفتار کر لیجئے یا اس سے نجات دلا دیجئے

اور آئندہ کے واسطے وعدہ لے لیجئے کہ اب نہ آئے گا۔

(۳) دینیہ اس مقام پر کسی جگہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہٹا دیجئے۔

(۴) فلاں شخص ہم کو پریشان کرتا ہے۔ اس کی کیا تدبیر کی جائے؟ الغرض ہر مقصد کے بارے میں

معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد مطلب کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی اب آپ

تشریف لے جائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

حاضرات

مندرجہ ذیل نقش کانڈ پر لکھ کر مٹی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں۔ نقش کو

روٹی میں پیٹ کر بتی بنا کر روشن کریں۔ اب کسی نو دس سال کے لڑکے لڑکی کو چراغ کے سامنے

بٹھائیں اور بچے کو کہیں کہ چراغ کی بتی کی لو کو دیکھتا رہے۔ اسے تھوڑی ہی دیر بعد کوئی غیر

معمولی چیز نظر آئے گی۔ آپ اس سے ہر قسم کے سوالات و حالات درست معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات کے ہر نقش میں عامل کو چاہیے کہ بچے پر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کر پھونکتا

رہے جب تک کہ حاضرات نہ کھلے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۹	۲۲	۲۵	۱۲
۲۳	۱۳	۱۸	۲۳
۱۴	۲۷	۲۰	۱۷
۲۱	۱۶	۱۵	۲۶

حاضرات گمشدہ اشیاء و چوری وغیرہ کا معلوم کرنا

جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چوری وغیرہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو اس وقت یہ

حاضرات کرامات کا کام دیتی ہے۔ اس حاضرات سے آپ مشکل سے مشکل مسائل کے بارے

میں سو فیصد درست جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔ حاضرات کیا ہے ایک فیہی خزانہ ہے مندرجہ ذیل

طلسم کو کانڈ پر لکھ کر مٹی کے نئے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں اور طلسم کو روٹی میں

پیٹ کر اس کی بتی روشن کریں اور کسی بچہ یا بچی کو چراغ کے سامنے بٹھائیں اور ہدایت کریں کہ

چراغ کی بتی کی لو کو غور سے دیکھتا رہے پس تھوڑی دیر بعد اسے غیر معمولی چیز نظر آئے گی۔ آپ

اس سے گمشدہ اشیاء و چوری کے بارے میں اور دیگر مشکل مسائل کے بارے میں بھی پوچھ سکتے

ہیں تمام سوالات کے جوابات تسلی بخش و سو فیصد درست ملیں گے۔ انشاء اللہ

طلسم یہ ہے۔

۷۸۶

۱۹ ق	۲۲۲	۲۲۵	۱۲ ل
۲۳ ی	۲۱۳	۱۸ ل	۲۳ ج
۱۴ د	۲۴ ص	۲۰ ل	۱۴ د
۲۶ ر	۱۶ ل	۱۵ د	۲۶ ر

حاضرات

آسان اور سہل حاضرات جو کہ تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اول عزیمت کو

"اجب یا ہیائیل بحق یا حی حاضر شو حاضر شو حاضر شو"

اکتالیس روز تک ایک سو اکیس مرتبہ بعد نماز عشاء تنہائی میں پڑھے۔ بعد اکتالیس روز نقش مذکور کو لکھے اور درمیان کے خانہ میں سیاہی بھرے۔ اس حاضرات کو بارہ سال سے لے کر ساٹھ برس کے مرد و عورت پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایک کوری (نئی) مٹی کی چھوٹی ہنڈیا الٹی رکھ کر اس کی پشت پر چراغ نور رکھیں اور روئی کی جتی بنا کر ڈالیں اور سرسوں کا تیل ڈال کر چراغ جلائیں۔ بچے یا بڑے کو سامنے بٹھائیں اور نقش اس کے ہاتھوں میں پکڑائیں اور گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر چراغ کی لو پر دم کریں اور گیارہ مرتبہ معمول پر پڑھ کر دم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں نقش میں یعنی چراغ کی لو میں ایک معمر بزرگ نظر آئے گا۔ عامل بذریعہ مریض سلام کروائے بعدہ مریض کے بارے میں معلومات کرے یا جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو معلوم کرے۔ انشاء اللہ جیسے عامل چاہے گا ویسا ہی ہو گا نقش حاضرات کا بلانے کا یہ ہے یہ نقش حاضرات میں بھی کام کرتا ہے اور چراغ میں جلانے کا بھی۔ یعنی دونوں طریقے سے حاضرات کر سکتے ہیں۔ نقش میں لکھنے سے بھی حاضرات ہوتی ہے اور دوسرے نقش کو چراغ میں فقیلہ بنا کر بھی حاضرات کر سکتے ہیں۔ حاضرات کا نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۱	۸
<	۵	۳
۲	۹	۴

حاضر شو۔ حاضر شو۔ حاضر شو

حاضرات

ذیل کا نقش ایک بڑے کانڈ پر لکھیں۔ مولویوں خانہ میں جہاں سیاہی کا داغ لگایا گیا ہے وہاں تھوڑا سا عطر لگادیں اور بچے کو تعویذ دے کر کہیں کہ سیاہی والے خانہ پر نظر جما کر رکھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جن سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرات کا نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۲۲	۲۲۵	۲۲۸	۲۲۵
۲۲۷	۲۳۶	۲۲۱	۲۲۶
۲۳۷	۲۵۰	۲۲۳	۲۲۰
۲۲۷	۲۲۹	۲۳۸	۲۲۹

عمل حاضرات جگ جگادیوی

بالکل سیاہ گدھے کا سم یعنی ناخن حاصل کریں۔ نوچندے سنچر کی صبح اس ناخن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ (مدار) کی روئی میں لپیٹ کر موٹی جتی بنا لیں اوپر سے زرد رنگ کا دھاگہ لپیٹ دیں، کورے چراغ میں چینی کا تیل ڈال کر یہ جتی جلائیں۔ اوپر ایک بڑا کورا صاف کونڈا رکھیں تاکہ کابل تمام کا تمام کونڈے میں جمع ہو جائے۔ اس کابل کو کسی کھلے منہ کی شیشی میں (یا کسی ڈبیہ میں) رکھیں اور اس میں تھوڑا سا روغن چینی ملا دیں، کابل تیار ہو گیا۔ کابل الگ کو ٹھنڈی میں بیٹھ کر بنائیں، کوئی نہ دیکھے۔ آپ سامنے بیٹھے رہیں۔ جتی کو سرکاتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک جتی پوری ختم نہ ہو جائے۔

(دیکھیں۔ لشکر شاہ ولی۔ بھینسا سوری مد اہیر جگ جگادیوی حاضر شو)

یاد رہے نوچندہ سنچر آنے سے 2/3 روز پہلے ہر قسم کا گوشت، مچھلی، انڈہ، ایک وغیرہ بند کر دیں۔ کابل تیار کرنے کے فوراً بعد کسی بھی سیاہی سے وہیں کو ٹھنڈی میں مندرجہ ذیل نقش سفید کانڈ پر لکھیں۔

۹۰۷	۹۱۰	۹۱۳	۸۹۹
۹۱۲	۹۰۰	۹۰۶	۹۱۱
۹۰۱	۹۱۵	۹۰۸	۹۰۵
۹۰۹	۹۰۴	۹۰۲	۹۱۴

تعویذ کو تہ کر کے کابل کے ساتھ رکھ دیں اور باہر آ جائیں۔



توشہ جگ جگادیوی

بکرے کی سالم کلبی جس میں پھپھڑا اور دل بھی ہو اور اتنی بڑی کوڑی ہنڈیا جس میں یہ کلبی آ جائے اور مٹی کا کورا پیالہ جس میں 2.3 چھٹانک شراب آجائے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے دریا یا بڑی نہر تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ۔ چادر باندھ کر سب کپڑے اتار دو۔ ہنڈیا میں کلبی ڈالو، پیالہ کا ڈھکنار کھو، پیالہ میں کم از کم دس تولے شراب کوئی سی بھی ہو ڈالو۔ کابل کا ڈھکنار کھولو، تعویذ کھول کر شیشی کے نیچے دبا دو۔ ہنڈیا اور 101 دانوں کی تسبیح لے کر دریا میں ناف تک پانی میں اتر جاؤ۔ جس طرف دریا بہتا ہو اس طرف منہ کر کے اور یہ کہہ کر ہنڈیا بھا دو، جگ جگادیوی تیری بھیٹ ہے اور فوراً غوطہ لگاؤ، نکلو پھر غوطہ لگاؤ اور کھڑے ہو کر تسبیح پر 101 بار یہ پڑھو۔ دھنگیر لشکر شاہ ولی بھینسا سوری۔ ممدابیر۔ جگ جگادیوی حاضر شو۔ تعداد ختم ہوتے ہی باہر نکل آؤ۔ پہلے کابل اور تعویذ پر بیٹھ کر دم کرو، پھر کپڑے بدلو۔ تعویذ اور کابل جیب میں ڈالو اور گھر آ جاؤ۔

نوٹ:- یہ کاروائی دریا یا نہر کے کنارے لوگوں کی نظروں سے بچ کر کرو اور سورج غروب ہونے سے 2.3 منٹ پہلے تک ختم کرو۔

گھر سے دریا پر جاؤ تو کسی سے بات نہ کرو اور واپسی میں بھی کسی سے بات نہ کرو۔ یہ حاضرات عمر بھر کام دے گی۔ اب آپ اس حاضرات کے زندگی بھر کے عامل بن گئے ہیں یہ حاضرات زندگی بھر کام دے گی۔ یہ حاضرات فقیر کی آزمودہ ہے۔

نوچندی سپنر زنجانی جنسری میں دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔



حاضرات جگ جگادیوی کا طریقہ اور اس کے کمالات

10-12 سال کے بچے کو نسا دھلا کر اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا سی کابل کی سیاہی لگا کر اور بچے کے ہاتھ میں یہ نقش دے دیں اور بچے کو کہیں کہ اس پر تمگنی لگا کر دیکھتا رہے اور آپ احتیاطاً اکیس بار یہ اسم ورد کر کے بچے پر پھونکیں۔

(دھنگیر۔ لشکر شاہ ولی بھینسا سوری۔ ممدابیر۔ جگ جگادیوی حاضر شو۔)

2.3 منٹ بعد فوراً حاضرات شروع ہو جائے گی۔ اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات دریافت کریں۔ حتیٰ کہ اس حاضرات سے امتحانوں کے پرے بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کا ہر منظر اس بچے کے سامنے آجاتا ہے۔ آپ جو بات دریافت کرتے جائیں، پوری وضاحت سے ٹیلی ویژن چلتا رہے گا بیماری، غائب اشیاء کی چوری، روزانہ سزا کا نمبر، ریس کے متعلق اور انعامی بانڈز کے متعلق معرکہ کے متعلق اور تمام مشکل سوالات کے جوابات باسانی و فیصد درست معلوم کریں۔ حاضرات کیا ہے ایک فی خزانہ ہے۔



حاضرات آیت کریمہ

عروج ماہ قمری میں اس عمل کی زکوٰۃ ایک ہفتہ میں عمل کی جاتی ہے۔ اور ترک جلالی بھی کیا جاتا ہے۔ بعد نماز عشاء 313 بار مندرجہ ذیل عزیمت کو پڑھیے۔ پڑھتے وقت چند اگر بتیاں سلگائیں اور عمل کے لئے جامہ سفید پہنیں۔ عمل کے کمرے میں کوئی دوسرا شخص یا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمل کے متعلق کسی سے کوئی ذکر نہ کرے۔ منہ بطرف قبلہ ہونا چاہیے۔ جب پہلے دن عمل سے فارغ ہوں تو آیت کریمہ کا ثواب اصحاب بدر کو پہنچائیں۔ آخری دن یعنی ساتویں روز بھی ایسا کرے اور کسی سفید شرنی پر نیاز دیں اور شرنی خود بھی کھائیں اور معصوم بچوں کو بھی تقسیم کریں۔ اب آپ اس حاضرات کے عامل ہیں۔ زکوٰۃ قائم رہنے کے لئے چند بار اس عمل کا روزانہ ورد کر لیا کریں۔

جو اصحاب اس عمل کو کرنا چاہیں تو وہ اس عمل کی اجازت مجھ سے یا پھر شاہ زنجانی سے لے لیں۔

اب جب بھی حاضرات لگانا ہو تو کسی شریف النفس نابالغ بچے یا بچی کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائیں۔ پھر نیاز کسی شریفی پر دیں اور اس کا ثواب آیت کریمہ کے موکلات اور اصحاب بدر کو پہنچائیں۔ اب توے کی سیاہی بچے یا بچی کے انگوٹھے پر عطر لگا کر ملیں تاکہ خوب چمک پیدا ہو۔ پھر عزیمت پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ چند لمحے بعد ناخن کی سیاہی میں ایک باریش بزرگ اور ان کے ساتھ ان کے خادم نظر آئیں گے۔

چنانچہ جو بات بھی معلوم کرنا ہو پوچھ سکتے ہیں اور جو بات معلوم کرنی ہو اس کی کل کیفیات ناخن پر موکلات دکھاتے ہیں اور بچے یا بچی کو آواز نہیں آتی۔ بلکہ عبارت میں لکھا ہوا جواب آتا ہے لیکن جب موکلات عامل سے مانوس ہو جاتے ہیں تو آواز بھی آنے لگتی ہے۔ آپ ہر جائز سوال کا جواب ان موکلات سے لے سکتے ہیں لیکن حاضرات نماز کے اوقات میں یا نصف ایل یا نصف التمار کو نہیں کرنا چاہیے۔

حاضرات کے لئے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک لڑکا یا لڑکی پر ہمیشہ حاضرات کی جائے اور اگر پہلے دن حاضرات نہ کھلے تو دوسرے اور تیسرے دن بھی کرے۔ انشاء اللہ تین دن میں ضرور کھل جائے گی۔

پہلے دن عزیمت کم از کم 313 بار پڑھے اور دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا کرے لیکن اگر تین دن سے قبل حاضرات کھل جائے تو جب بھی آپ حاضرات کریں گے۔ چند بار پڑھنے سے موکلات ناخن میں نظر آنے لگیں گے جب موکلات سے معلومات حاصل کر چکیں تو ان کو شکر یہ کے ساتھ رخصت کریں پھر ناخن سے کاجل صاف کر دیں۔

عزمت علیکم واقسمت علیکم اجب یا طاطانیل سامعاً مطیعاً بحق لا
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ

عمل حاضرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ الستمع نفر من الجن فقالوا نا
سمعنا قرانا عجبا یهدی الی الرشدا فما نباہ احضرو یا خدام ہذا
السورۃ بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

بندہ عمل حاضرات کا ایک جمالی عمل پیش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی خاص پرہیز نہیں سوائے اس کے کہ چلہ میں کسی بھی دن نانہ نہ ہو۔ اور طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جمالی طریقہ لہا ہے۔ مگر پر امن اور بے ضرر ہے۔ جمالی طریقہ یہ ہے۔ کہ

چاند رات کو اس عمل کو شروع کریں جس جگہ عمل کریں وہ صاف ستھری ہو بالکل وہاں شور و غل نہ ہو۔ اور اسی جگہ کوئی دوسرا نہ ہو اور اجزای لباس ہو۔ دوران عمل چھری یا چاقو کھلا ہوا مصلے پر رکھیں۔ جو چارو باندھے ہوں یا اوڑھے ہوں۔ خوب عطر لگایا کریں۔ جس سے تمام جگہ معطر ہو جائے اور اگر خوشبودار پھول پاس ہوں تو بہت اچھا ہے۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے چار سو پانچ مرتبہ مندرجہ بالا عمل کو پڑھیں۔ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ عمل ساٹھ دن کا ہے۔

عمل کو اس طریقے سے کیجئے کہ تیس دن یہ عمل پڑھ کر ایک دن چھوڑ دیں۔ پھر شروع کریں۔ پھر تیس دن پڑھ کر ایک دن چھوڑ دیں۔

چالیس دن جب پورے ہو جائیں۔ اکتالیسواں دن شروع ہو اپنا مطلب ایک کانڈ پر لکھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیں۔ عمل ختم کر کے سوال والا کانڈ وہیں چھوڑ دیں۔ پھر دوسرے دن دیکھیں کہ کانڈ پر جواب لکھا ہے یا نہیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ 20 دنوں میں جواب لکھا جائے گا۔ جواب نہ ملنے کے باوجود اپنے 20 دن پورے کریں جب ساٹھ دن پورے ہو جائیں۔ تو پھر جب کبھی جواب لینا ہو تو چار سو پانچ مرتبہ پڑھ کر سوال لکھ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں۔ صبح کو جواب مل جائے گا۔



حاضرات بذریعہ ہمزاو

ایک پاکیزہ صاف ستھرے شیشہ میں جس روح سے ملاقات کرنا ہو اسے دل میں لائے۔ آئینہ میں اپنا تصویر باندھ کر آنکھوں میں اس کی جگہ نگاہ جمادے اور آئینہ میں نظر آتے ہوئے تصویر سے کہا جائے کہ فوراً اس سوال کا جواب دیا جائے۔

عامل عمل کرتے وقت باوضو اور صاف ستھرا ہو، کمرہ پاکیزہ ہو اور معطر ہو، کمرہ میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہ ہو دیگر عامل کتوت ارادی و یکسوئی ہونا لازمی ہے۔ عامل عمل کرتے وقت منہ

قطب کی طرف کرے، جب تک عمل میں کامیاب نہ ہو جائے اس وقت تک عمل روزانہ برابر کرتا رہے۔ مایوس نہ ہوں۔ عمل یہ ہے۔

تیرتی تیرتا

5 سو مرتبہ پڑھنا ہے۔

☆

حاضرات کی جادوئی انگوٹھی

چاندی، سونا، تانبہ، پیتل ان چاروں دھاتوں کو ملا کر ایک انگوٹھی بنوائیں۔ گھینے والی جگہ ذرا کشادہ ہو۔ اب سنگ مقناطیس ایک ماشہ لے کر باریک پیس لیں۔ 6 رتی سرمہ خالص اور 6 رتی چھڑا لاکھ اس میں ملا دے جب تمام اشیاء یک جان ہو جائیں تو گھینے کی جگہ اس مصالحہ کو بھر دو اور اس کی سطح کو خوب چکنا کر دو۔ مصالحہ بھرنے اور چکنا کرنے کے بعد آگ پر سینک سکتے ہیں۔ بس حاضرات کی جادوئی انگوٹھی تیار ہے۔

یوقت ضرورت کوئی خوشبودار تیل یا عمدہ عطر اس کی سطح پر مل کر پچھ یا بچی کو دکھائیں اس تمام عمل میں یہ خیال رہے کہ انگوٹھی پر لوہا نہ لگے۔ اگر لوہا لگ جائے گا تو انگوٹھی کام نہ دے گی۔ لہذا انگوٹھی بنوانے کے بعد اسے لوہے سے دور رکھیں۔

اس جادوئی انگوٹھی سے آپ ہر قسم کے سوال کے جواب سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ انگوٹھی چھوٹوں بڑوں پر کام دے گی۔

☆

جام جمشید یعنی آئینہ سکندری

بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمتم علیکم یا صاحب العرس والطوس
مرسل الرحمة ومعطی المناہج عزمتم علیکم یا صاحب البحر والقوس
سائر الکرامتہ ومحیط المعارج بحق علینولحویت سلجوعیش
ہجلیش طرطر فباش اجب دعوتی یا قداس قدوس رب الملئکة والروح
عزمتم علیکم یا صاحب العصر والصوب ناصر المیزان والعتین یاها

بیش یازمانوش بحق شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملئکة واولو العلم
قانمام بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بر حمتک یا رحم الرحمین۔

طریقہ

عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء آئینہ کو سامنے رکھ کر کلمات عمل کو 369 بار پڑھیں۔ دوران عمل کافور، لوبان اور صندل کا بخور جلائیں اور آئینہ پر نگاہ رکھیں تا حصول مقصد عمل بلا تاخیر جاری رکھیں۔ جس دن آئینہ میں کچھ نظر آنے لگے تو سمجھیں کہ عمل مکمل ہو گیا۔ جب بھی کسی مسئلہ کے بارے میں معلوم کرنا ہو۔ مثلاً چوری، گمشدہ شخص کا معلوم کرنا ہو، بیماری یا سحر کسی کا حال پوچھنا، ریس سٹ کا نمبر معلوم کرنا، انعامی بانڈز امتحان کے نتائج معلوم کرنا۔ مختصر یہ کہ تمام حالات کا علم عامل کو شیشہ میں نظر آئے گا۔

عمل کو صرف تین بار پڑھیں مثل نبی۔ وی کے سب تماشہ دیکھیں۔ عامل سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ نہ بچے کی محتاجی نہ کسی بچی کی احقر کی نظر میں آئینہ سکندری کے سینکڑوں اعمال نظر سے گزرے لیکن اس سے بہتر سچا و نایاب عمل آج تک نہیں ملا۔

عمل کیا ہے ایک نبی۔ وی سٹیشن ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ اپنا دامن خوشیوں سے بھرے گا۔

عمل کو یکسوئی سے پڑھا جائے اور عامل کی قوت ارادی مستحکم ہو تو حاضرات کا نزول تیسرے ہی دن شروع ہو جاتا ہے اور اگر قوت ارادی مضبوط نہ ہو اور روحانی قوت بھی کمزور ہو تو نزول ہفتہ عشرہ میں ظاہر ہوتا ہے۔

☆

حاضرات سے تشخیص

اگر بیمار کے متعلق یا دیگر حال دریافت کرنا ہو تو حسب ذیل طلسم تحریر کرو۔

ایک بالکل نئے مٹی کے دے میں سرسوں کا تیل ڈالو اور طلسم کو روٹی میں پیٹ کر بتی بنانے کے بعد جلاؤ۔ پھر ایک آٹھ یا دس برس کا لڑکا یا لڑکی کو سامنے بٹھا کر کہو کہ وہ نہایت غور سے بتی کی طرف دیکھتا رہے۔ اگر اسے کچھ دکھائی دے تو اس سے بیمار کی بیماری کی تشخیص پوچھ لے۔ اگر کوئی دیگر بات دریافت کرنا ہو تو کر لو۔

طلسم درج ذیل ہے۔
بکتانوش فاضل شاہ محمد شاہ میمون زنگی۔

۱۹	۲۲	۲۵	۱۲
۲۴	۱۳	۱۸	۲۳
۱۴	۲۷	۲۰	۱۷
۲۱	۱۶	۱۵	۲۶

بکتانوش فاضل شاہ محمد میمون زنگی الجبل الجبل العجل الساعۃ الساعۃ الوحالوحا بحق سلیمان بن داؤد
فلاں بن فلاں ہر کس کہ درد باشد۔

☆

حاضرات 6 خران

مندرجہ ذیل نقش 10-12 سال کے بچے کو ہاتھ میں دے کر کہیں کہ سیاہی والی جگہ کو بغور دیکھے۔
اور آپ (عائل) سورۃ اخلاص برابر پڑھتا رہے۔ اور ہر سات بار کے بعد معمول کی پیشانی پر دم
کرتا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر سوال کے جواب
تسلی بخش معلوم کر سکتے ہیں۔

یا عذر رائیل

یا جبرائیل

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا میکائیل

حاضرات

یا اسرافیل

مندرجہ ذیل نقش سفید کانڈ پر 9 کے ہندسہ سے 24 تک بھرے پھر اوپر عطر لگا کر رکھے۔ پھر سفید
چادر بچھا کر چاروں کونوں پر لوہے کے کیل گاڑ دے۔ اس پر 10-12 سال کے بچے کو بٹھائے
پھولوں کا ہار پہنائے۔ عطر لگائے اور بچے کو کہے کہ سیاہ خانے کو دیکھتا رہے۔
جب بادشاہ نظر آئے تب میوہ مٹھائی نذر کر کے جو پوچھنا ہو سو پوچھے۔ ہر سوال کا جواب ملے گا۔

یا جبرائیل

۷۸۶

یا میکائیل

عمل یہ ہے

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳

یا عذر رائیل

یا اسرافیل

نوٹ:- ہر عمل کی اجازت لینا ضروری ہے

☆

حاضرات ہمزاد

اس نقش کو اتنے بڑے کانڈ پر لکھا جائے کہ کانڈ چار پائی کے پائے سے باہر نہ جائے۔ عمل ہمزاد
اور یہ طلسم پائے کے تلے رہے۔ بعد نماز صبح یا بعد نماز عصر اس نقش کی چار نقلیں تیار کریں جس
دن عمل کرنا ہو دودھ چاول کھیر سے روزہ رکھیں اور اسی چیز سے شام کو روزہ افطار کریں اس کے
علاوہ کوئی اور چیز کھانے کی اجازت نہیں بعد نماز عشاء سوتے وقت تمنائی میں یہ عمل کریں۔

کمرہ صاف ستھرا ہو چار پائی صاف ستھری پاک و صاف بستہ اور لباس پاک و صاف ہو اگر بتیاں
جلالیں کمرے میں کسی دوسرے شخص کا گذر نہ ہو۔ منہ شمال مغرب کی طرف کر کے درج ذیل

عبارت ایک سو ایک (101) مرتبہ پڑھیں۔

۷۸۶

۱۸۶۰	۱۸۶۳	۱۸۶۷	۱۸۶۳
۱۸۶۶	۱۸۶۳	۱۸۶۹	۱۸۶۳
۱۸۶۵	۱۸۶۹	۱۸۶۱	۱۸۶۸
۱۸۶۲	۱۸۶۷	۱۸۶۶	۱۸۶۸

اے میرے ہمزاد اے میرے ساتھی اے

میرے مہربان میری مشکل میں حاضر ہو اور

میرا کام کر اگر تونہ کرے گا تو قیامت

کے دن تیرا دامن گیر رہوں گا

اپنی چار پائی پر گل سرخ تازے چار پانچ جو مل سکیں رکھ لیں مٹی کے تیل کا لیپ یا چرائیخ ہرگز نہ
جلائیں بجلی یا سرسوں کا تیل جلائیں یا اندھیرا ہو۔ اکثر تسبیح پوری نہیں ہوتی کہ ہمزاد حاضر ہو جاتا
ہے مگر آپ تسبیح کو پورا کریں۔ اگر تسبیح کے پورا ہونے سے پہلے حاضر ہو گیا ہے تو اس کو اشارے
سے بٹھائے۔ مگر بات نہ کرو اگر بولنا پڑ جائے تو تسبیح کا دانہ پکڑے رہو اور بات کا جواب دو تم اپنی
طرف سے کوئی سوال نہ کرو۔ جب تک تسبیح پوری نہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرو۔ اور

تسبیح کے پورا ہونے پر اس سے بات کرو اگر وہ ٹھیک طور پر جواب دے تو بہتر ورنہ اسے کہہ دو کہ صبح جو اب دو ورنہ روز قیامت دامن گیر ہوں گا وہ سر سے پاؤں تک لرز جائے گا۔ اور فوراً جواب دے گا۔ اگر تسبیح پوری کر لی ہے اور ہمزاد حاضر نہ ہو تو اسی چارپائی پر سو جاؤ۔ وہ آکر آپ کو بیدار کرے گا پھر بیٹھ کر معلوم کرو جو چاہو سو اس سے پوچھ سکتے ہیں۔

احتیاط

اگر وہ آپ کی ہم شکل آئے تو ٹھیک ہے بات کریں جو اب حاصل کریں۔ اگر وہ آپ کی ہم شکل میں نہ ہو فوراً کہہ دیں کہ انسان بنو ورنہ قیامت کے روز دامن گیر ہوں گا۔ وہ انسانی شکل ہو جائے گا۔ بعض وقت بھوت۔ جن۔ ڈائن یا سانپ کی شکل میں حاضر ہو جاتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ انسان بن کر آؤ ورنہ قیامت کے روز دامن گیر ہوں گا۔ صبح اٹھ کر بعد فراغت نماز چارپائی کے پایوں سے چاروں نقش نکال لیں جب بھی بلانا ہو پھر اسی طرح بلا لیں۔ عمل پڑھنے سے پہلے کسی شہرینی پر نیاز معرفت غوث پاک دلا دیں اور دعا مانگیں کہ یہ میرا عمل آپ کے طفیل پورا ہو اس شہرینی کو صبح بچوں میں تقسیم کر دیں۔ چاند دیکھنے پر چاند کی 13 تاریخ تک کسی رات عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بار کر کے پھر خواہ چاند کی 14 ہو یا 29 ہو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔



حاضرات سفلی

کانڈ کے چار پرزوں پر یہ عبارت لکھا کرو۔ فرعون۔ قارون۔ ہامان۔ ابرہم شیطان۔ نمرود۔ شداد۔ ابلیس۔ ابو جہل لکھ کر سوتے وقت ایک ایک پرزہ اپنی چارپائی کے پائے تلے رکھ لیا کرو اور صبح ان پرچوں کو جلا دیا کرو۔ پرزے لکھتے اور جلاتے وقت کسی سے بات نہ کیا کرو۔ چند روز میں سوتے میں ہمزاد سے باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہمزاد ہر قسم کی خبریں دے گا۔ جب کسی بات کی خبر لینی ہو تو ان ناموں کے ساتھ اپنا مطلب بھی لکھو چارپائی کے تلے رکھ دو رات کو جواب سو (100) فیصد صحیح اور مکمل ملے گا۔

حاضرات


حاضرات

عمل خاص در خواب۔ مندرجہ ذیل نقش 4 عدد لکھ کر ایک ایک اپنی چارپائی کے پائے تلے رکھ کر اور 14 بار یہ افسون پڑھو۔

کالی چڑی بس بھری انت فی امری

پھر کواے ہمزاد اگر خواب میں سٹہ کے بارے میں آگاہ نہ کیا تو قیامت میں میں تیرا دامن گیر ہوں گارات کو صبح اور مکمل تسلی بخش جواب ملے گا۔ نقش معظم یہ ہے۔

یہاں اپنا نام اور والدہ کا نام لکھیں



عمل برائے سٹہ

یا ابلیس یا شیطان تجھے اپنی ماں کی قسم فلاں بن فلاں کی گھڑیا کی ڈیل دے اگر نہ دے تو تجھے تیری ماں کا دودھ حرام۔ تیری ماں کا دودھ حرام۔ تیری ماں کا دودھ حرام۔ تریذوح تریذوح قتل اعوذ برب الناس پوری سورۃ ایک مرتبہ پڑھ کر ایک سوئی لیوں کے اندر داخل کر سات عدد سوئیاں اسی طرح مندرجہ بالا عبارت پڑھ کر ایک عدد سوئی لیوں کے اندر داخل کر دیں اسی طرح روزانہ سات دن عمل کرنا ہے۔ یعنی سات دن میں کل انچاس 49 سوئیاں سات 7 عدد لیوں میں داخل کرنی ہیں۔ اب آپ کا عمل پورا ہوا اب آپ اس ہانڈی کو سنبھال کر رکھیں۔ جب کبھی سٹہ کا نمبر یا ڈیل معلوم کرنی ہو تو اس ہانڈی کو سرہانے رکھ کر سات مرتبہ اوپر والا عمل دہرائیں سٹہ کا نمبر اور ڈیل بالکل صحیح ملے گی۔

حاضرات

اس عمل میں عامل کے لئے لال چادر، لال بستری، لال کپڑے ہونا لازمی ہے۔ اگر عمل زمین پر بیٹھ کر

کرنا ہو تو لال چادر اگر بستر پر بیٹھ کر کرنا ہے تو پھر لال بستر لازمی ہے۔ یہ عمل زیر آسمان بڑی رات بندوؤں میں مثلاً ہولی۔ دیوالی۔ دوسرہ۔ مسلمانوں میں شب برات۔ عید میلاد النبیؐ۔ شب معراج۔ لیلۃ القدر وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی راتوں میں کیا جاتا ہے کوئی بھی بڑی رات ہو یہ شرط لازمی ہے۔ اس کے علاوہ عمل اور دوسرے دنوں میں کام نہیں کرتا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جگہ زیر آسمان میں خوشبو وغیرہ خوب جلائیں مندرجہ ذیل سامان پہلے سے تیار رکھیں۔ ایک عدد پان۔ کتھہ۔ چونہ۔ چھالیہ۔ لونگ۔ چھوٹی الائچی۔ ایک عدد پھولوں کا ہار۔ دو عدد لڈو۔

عمل

ساتوں تارے ساتوں بھائی
ساتوں کی پھری دو بھائی
بانا کڑا جھاڑو آئی
شری ہنومان جی کی دو بھائی

تعداد اسے 1003 ایک ہزار تین مرتبہ پڑھنا ہے تعداد پوری ہوتے ہی ہنومان جی فوراً حاضر ہوتے ہیں اب آپ ان کو پہلے ایک عدد لڈو کھلائیں پھر پھولوں کا ہار پہنائیں اور پان کھلائیں پھر ان سے سٹہ کی تین دن کی ڈبلیں مانگیں وہ آپ کو تین دن کی ڈبلیں دیں گے پھر ان کو ایک اور لڈو کھاؤ۔ اور ان کو اجازت دو۔ تین دن کی ڈبل کمانے پر آپ کوئی کاروبار یا مکان وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ عقلمند کو اشارہ کافی ہے بار بار لالچ مت کریں۔ ورنہ نقصان وہ ثابت ہو سکتا ہے۔

حاضرات

یہ آخری عمل جو کہ خاص طور پر صرف ریس کے لئے وقف ہے میں اپنے سینے کا راز دے رہا ہوں کوئی بھی عامل آپ کو یہ عمل ہزاروں روپے میں بھی نہ دے گا۔ مگر میں صرف پرستار اور عاشقان آئینہ قسمت کے لئے بطور عطیہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔



عمل برائے ریس


گوری گوری میں کبوں گوری تیرا نام
اندر کے اکھاڑے میں دکھاؤ اپنا کام

تعداد ایک ہزار ایک سو ساٹھ 1160 مرتبہ پڑھیں۔

عمل شروع کرنے سے پہلے آپ منگل یا ہفتہ کے دن شام کو مغرب کے بعد ایک عدد پھولوں کا ہار لیں اس میں تین عدد گیندے کے پھول یا ایک عدد گیندے کا پھول لازمی ہو باقی ہار میں گلاب کے پھول ہوں۔ ایک عدد کیل دیوار میں ٹھونک کر ہار کو لٹکا دیں سامنے پانچ رنگ کی مختلف قسم کی مٹھائی رکھ لو عمل ختم کرنے کے بعد صبح مٹھائی بچوں میں تقسیم کر دو۔ عمل پڑھنے کے دوران دیوار میں آپ کو "جیک پاٹ" لکھا ہوا طے گار لیں جیتنے پر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو گا فقرا اور غربا کو حسب توفیق پیسے تقسیم کرنا لازمی ہے ورنہ آئینہ کے لئے عمل باطل ہونے کا خدشہ ہے۔ نوٹ:- تمام عملیات رات کے بارہ بجے کے بعد کئے جائیں گے ورنہ بے اثر ہوں گے۔ تمام عملیات صاحب مضمون کے آزمودہ ہیں۔

حاضرات شاہ جنات

ایک گتہ یا سفید کانغہ پر مندرجہ ذیل نقش بنائیں نقش میں جہاں کالا رنگ لکھا ہے اس حصہ میں کالا رنگ بھر دیں جہاں سرخ لکھا ہے وہاں سرخ رنگ بھر دیں۔



حاضرات کرنے سے پہلے توشہ ایک پاؤ برفی، چند تازہ پھول گلاب، چنبیلی یا موتیا، اور مہندی پانی

میں گھول کر رکھ لیں۔ بغیر توشہ کے حاضرات نہ کھلے گی۔ لہذا توشہ لازمی رکھیں پھر حاضرات شروع کریں اور اگر بتی وغیرہ بھی سلگالیں۔

عمل کرتے وقت تعویذ بچے کو پکڑائیں اور کہیں کہ رنگ والی جگہ کو بغور دیکھتا رہے اور آپ عامل بچے پر درود شریف (آیت الکرسی) پڑھ کر پھونکیں۔ اور حرف مستقبل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر بچے پر پھونکیں۔ فی الفور حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ یہ حاضرات بہت ہی طاقتور ہے۔ اس حاضرات سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں مثلاً سٹوڈنٹس، ریس، انعامی بانڈز کے نمبر معلوم کر سکتے ہیں گمشدہ کا حال، بیماری سحر وغیرہ غرض اپنے تمام مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں تجربہ شدہ ہے۔

حاضرات کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد بچے پر گیارہ بار درود ابراہیمی اور تین بار آیت الکرسی پڑھ کر ضرور دم کریں۔

2- یہ حاضرات میرے معمولات میں سے ہے۔ نہایت ہی طاقتور ہے عامل کی قوت ارادی مضبوط ہو اور یکسوئی سے حاضرات کی جائے تو ایک منٹ میں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے قابل قدر تحفہ ہے۔

ایک چینی کی پلیٹ لے کر درمیان میں دائرہ لگائیں اور تھوڑا سا عطر لگائیں۔ بعد اس عزیمت کو کالی سیاہی سے لکھیں۔ عزیمت یہ ہے

عولا۔ سمانا۔ سرنہ

اب پندرہ سال کے بچے اپنی کے سر پر یا کمر پر گیارہ مرتبہ عزیمت کو پڑھ کر پھونکیں۔ تھوڑی سی دیر بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔



حاضرات مسمریزم

حاضرات مسمریزم یا قوت نظری کے ذریعہ چور معلوم کرنا۔

ایک سو اگڑ کا سفید ٹٹے کا رومال لے کر اس کے درمیان مندرجہ ذیل نقش لکھیں اور کسی نابالغ

لڑکے لڑکی کو اس کے پاس بٹھادیں۔ اور کہیں کہ وہ اس نقش کو بغور دیکھتا رہے۔ کچھ وقفہ کے بعد بچے کو اس رومال میں کچھ نظر آنے لگے گا۔

۲۳	۱۸	۲۵
۲۳	۲۲	۲۰
۱۹	۲۶	۲۱


یا اسرائیل
یا عزرائیل

عامل بچے پر درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس وقت تک پھونکتا رہے جب تک حاضرات نہ کھل جائے۔ جب حاضرات کھل جائے اور بچے کو نظر آنے لگے تو اسے کہو کہ وہ کہے کہ بتنگی آئے اور جھاڑو دے سٹہ کو بلوا کر چھڑکاؤ کراؤ۔ تخت بچھو او اور بادشاہ سلامت کو حاضر کرو۔ بادشاہ سلامت کو سلام عرض کر کے اپنے مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور شکر یہ ادا کر کے انہیں اجازت دیں۔

عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔



حاضرات پرائز بانڈز
ریس وسٹہ اور دیگر
بین الاقوامی لائبریاں



یہ حاضرات کسی کرامت سے کم نہیں کیونکہ ریس وسٹہ پرائز بانڈز اور لائبریاں کے اعمال حاصل کرنے اور اس کی جستجو میں لوگوں کی عمریں بیت گئیں مگر گو ہر مراد حاصل نہ کر سکے یہ حاضرات اگر سچ پوچھا جائے تو الہامی حاضرات ہے اس حاضرات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور عاشقان ریس وسٹہ کے لئے یہ ایک گہرا نایاب ہے جس کی مثل ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ غریب حضرات جو اپنی جوان لڑکیوں کی شادی کرنے کے قابل نہیں ہیں یا وہ لوگ جو کاروبار

نہیں کر سکتے وہ اس حاضرات سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ انشاء اللہ اپنی مراد پانیں کے فیض پانے پر تھوڑا سا حصہ صدقہ و خیرات ضرور کر دیں۔

طریقہ و لوازمات

ایک سفید گتہ پر مندرجہ بالا نقش بنائیں کالے دائرہ میں عطر لگائیں اور بچے کو کالے دائرے میں دیکھنے کو کہیں۔

حاضرات کرنے سے پہلے ایک پاؤ برفی، چند عدد گلاب یا چنبیلی کے پھول یا موتیے کے اور تھوڑی سی مندی گھول کر رکھیں۔ بخور لوبان اور گوگل کا جلائیں آپ (عامل) بچے کو نقش کے اندر سیاہ نشان کو بغور دیکھنے کو کہیں جب سیاہ دائرے میں کچھ نظر آئے تو اپنا مدعا بیان کریں اور بچے پر برابر یہ الفاظ 703 مرتبہ پڑھ کر برابر پھونکتے رہیں۔

"یا شیطان نمبر دکھا"

تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کھل جائے گی۔ جن سے آپ اپنا مطلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عامل کی قوت ارادی و مقناطیسی پاور کم ہو تو حاضرات آدھے گھنٹے میں کھلتی ہے اگر پھر بھی حاضرات نہ کھلے تو عامل کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کا جو تاپا چپل لے کر غصہ میں نقش پر خوب ماریں اور کہیں کہ نمبر دکھاؤ۔ جب تک نمبر نہ دکھاؤ گے اسی طرح جوتے مارتا رہوں گا اور پھر دوبارہ حاضرات کریں۔

اس طریقے سے اس حاضرات کے مؤکل آنا فانا دوڑتے ہوئے حاضر ہو کر سو فیصد شرطیہ نمبر بتائیں گے۔ اس حاضرات سے آپ ریس و سٹہ کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے کام لے سکتے ہیں مثلاً دشمن کو جوتے مارنا، دشمن کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ دشمن کو جوتے مارنے ہوں تو یہ الفاظ دہرائیں "یا شیطان فلاں بن فلاں کو جوتے لگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ جب کے مقاصد میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جوں جوں آپ حاضرات کرتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ پر اس حاضرات کے اسرار و رموز منکشف ہوتے رہیں گے۔ محنت و تجربہ شرط لازمی ہے۔

☆

جادوئی انگوٹھی

سنگ مقناطیس ایک ماشہ، ہینگ 6 رتی چڑا لاکھ ایک ماشہ، کالج سفید ایک ماشہ، کافور ایک ماشہ، سرمہ خالص 6 رتی، سندور 6 رتی سیاہ سانپ کی کینچلی ایک ماشہ۔

ان تمام اشیاء کو پیس کر گھیند کی جگہ بھر دیں بس حاضرات کی جادوئی انگوٹھی تیار ہے۔ بوقت ضرورت کوئی خوشبودار تیل یا عطر اس انگوٹھی پر مل دیں اور بچے یا بچی پر سورۃ اخلاص تین بار پڑھ کر پھونکیں اور بچے کو انگوٹھی میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ تمام مشکل امور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاء اللہ سو فیصد درست جوابات ملیں گے۔

☆

جادوئی چراغ

مندرجہ ذیل عمل مجھے شہنشاہ جنات بکتانوش نے عطا کیا ہے اس عمل پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے کیونکہ یہ عمل حاضرات میں بھی کام کرتا ہے اور دوسرے تشخیص الامراض کے علاوہ مریض پر سحر آسیب و جنات کتنا بھی سخت ہو اور برسوں سے مریض پر مسلط ہو نقش چلتے ہی لمحوں میں بھاگ جاتا ہے۔

اگر صرف کانڈ پر حاضری کرنی ہو دس بارہ سال کے بچے یا بچی کو خانہ نمبر 16 نشان لگایا ہے بچے کو دیکھنے کو کہیں خود بچے پر درود شریف و سورۃ اخلاص پڑھ کر برابر پھونکتا رہے۔ جب تک حاضرات نہ کھلے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ جس سے آپ ہر قسم کی معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا شاریتہ۔ یا شاریتہ۔ یا شاریتہ

۴۶۸	۴۶۱	۴۶۴	۴۶۱
۴۶۳	۴۶۲	۴۶۴	۴۶۲
۴۶۳	۴۶۴	۴۶۹	۴۶۶
۴۶۰	۴۶۵	۴۶۴	۴۶۵

اس تعویذ کو لکھ کر آسیب زدہ کو دیں اور کہیں کہ اس کو خوب غور سے دیکھے۔ آسیب حاضر ہو گا۔

اس وقت اس تعویذ کا فتیلہ بنائیں اور جلا کر اس کا دھواں آسب زدہ کی ناک میں دیں آسب چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔

اگر پھر بھی آسب دفع نہ تو مندرجہ ذیل نقش کا فتیلہ بنا کر روئی میں بقی بنا کر تلوں یا سرسوں کے تیل کے چراغ جلائیں اور دھواں آسب زدہ کی ناک میں دیں۔ آسب بھاگ جائے گا۔

اگر پھر بھی آسب دفع نہ ہو تو آسب زدہ کے بال پکڑ کے 6 مرتبہ سورۃ اذاجاء نصر اللہ آخر تک پڑھیں۔ اور آسب زدہ پر دم کریں۔ اور یہی سورۃ پڑھ کر فوراً بالوں میں گرہ لگا دیں زبردست آسب جن بھوت اللہ کے حکم سے بھاگ جائے گا۔ یہ عمل سینکڑوں مرتبہ کا آزمودہ ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔

ان دونوں نقش کے فتیلوں کو جلا کر ان کی راکھ زمین میں دفن کر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا شاربیتہ - یا شاربیتہ - یا شاربیتہ

۷۸۶

۴۷۹	۴۷۲	۴۷۶	۴۷۲
۴۷۵	۴۷۳	۴۷۳	۴۷۴
۴۷۴	۴۷۳	۴۷۱	۴۷۴
۴۷۲	۴۷۶	۴۷۵	۴۷۴

۴۷۳	۴۷۱	۴۷۳	۴۷۱
۴۷۳	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۳
۴۷۳	۴۷۶	۴۷۹	۴۷۶
۴۷۳	۴۷۵	۴۷۳	۴۷۵

☆

تسخیر و رجینا پری

مندرجہ ذیل عمل "تسخیر و رجینا پری" کا ہے اور علم حقیقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عمل اساتذہ کی برسوں خدمت کر کے حاصل کیا ہے اساتذہ کا آزمودہ عمل ہے لہذا عامل حضرات سے گزارش ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اجازت لے لیں۔ تاکہ عمل میں کامیابی ہو اور کسی قسم کی رجعت کا خوف نہ رہے۔

یہ عمل سو فیصد سچا ہے بس یقین کامل اور یکسوئی کا ہونا شرط ہے۔ یاد رکھیں قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔

لیجئے عمل حاضر خدمت ہے جس کا جی چاہے آزمائے اور زندگی بھر عیش کرے۔

عمل یہ ہے۔

"طارا طوری سواہا"

طریقہ

نو چندی جمعرات کا روزہ رکھیں 'شیر برنج کھائیں' سرخ لباس پہنیں 'کپڑوں کو عطر سے معطر کر لیں' سرخ مصلہ بچھائیں۔ سیندور کا مندلہ (دائرہ) کے اندر چار چھوٹی الائچی آٹھ عدد لونگ 'بست سارے چینی کے پھول اور دو عدد چینی کے ہار' آٹھ عدد سپاری 'پانچ قسم کی مٹھائی' سات عدد عطر کا کچھو گائے کے تھی والا مٹی کا چراغ یا چینی کے تیل کا چراغ جلائیں۔ اور عمل بالا کو پانچ ہزار بار رات کے بارہ بجے پڑھیں۔

تین یوم میں حاضر ہوگی۔ اگر اس کو مکمل قابو میں کرنا ہو تو مندرجہ ذیل عمل کو کریں۔ یہ سات یوم کا ہے۔

اتوار کی صبح ایک دستہ سرخ کاندھ کالے آئیں اور اس کے 21 پرزے بنائیں اور ہر ایک پر زیادہ "تمتت" زعفران سے لکھیں۔ ایک پرزہ اسی وقت جلائیں۔ ایک کاندھ لے کر دوپہر کو اس طلسم کو 6 ہزار بار پڑھ کر جلائیں۔

آئندہ صبح دوپہر شام تینوں وقت طلسم مذکورہ کو صرف ایک مرتبہ لکھ کر اور 6 ہزار مرتبہ پڑھ کر جلائیں۔

انشاء اللہ سات یوم میں تابع ہوگی۔ واضح ہو کہ اگر یہ طلسم پڑھتے پڑھتے پہلے ہی دن حاضر ہو تو اسے کوئی بھی کام مت کہیں اور نہ ہی تیسرے روز حاضر ہونے پر کوئی کام کہیں۔ صرف ساتویں دن حاضر ہونے پر اپنے کام کا کہیں۔

عمل کرنے کا کمرہ بالکل الگ ہونا چاہیے اور کمرے میں بست سارے چینی کے پھول ہوں اور کمرہ خوشبو سے معطر ہو۔

بخور 'لوبان' 'گوگل' 'خشک' و 'حنیا' کا زیادہ سے زیادہ جلائیں۔

حاضرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کو ترلے گیا گھیرا پڑا بیسین کا شاہ طور حاضرات کو حاضر کر دے۔
صدقہ محی الدین کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔

ترکیب عمل

ایک صاف آئینہ لے کر بیچ میں کاہل لگائیں دائرے کی صورت میں اس پر تھوڑا سا خوشبودار عطر لگائیں تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے۔ رات کو عشاء کے بعد آئینہ اپنے سامنے رکھ کر روزانہ سات سو سات بار یا گیارہ سو بار پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پرہیز جلالی و جمالی کریں۔ حاضرات انشاء اللہ تعالیٰ تین دن میں کھل جائے گی۔ مثل نبی۔ وی کے سب تماشہ دیکھو گے۔ عمل اکیس دن کرنا ہے۔ اکیس دن بعد زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی اور آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے۔

جب کبھی بھی ضروریات پیش آئے آئینہ سامنے رکھ کر عمل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں تو تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ جس سے آپ ہر مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً چوری گمشدہ شخص کا معلوم کرنا، بیماری یا سحر، امتحان کے نتائج معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ۔

حاضرات

عزمت علیکم ایاکنوفات فی کنف اللہ وحاضرون بدوام ملک اللہ ایاموا
حیاش احیاش بقضاء حاجتی واللہ محیط علیکم بحول المستعان یا
ارواح الجن والشیاطین ایامایحضرون علی المدبرات الامور بانن اللہ
العلی العظیم ان اعیونی لمارت وی آیات اللہ فی ملکوت السموت
والارض بحق تلوتہ علیکم من تلک الاسماء الشریفۃ

طریقہ

عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نوچندی جمعرات سے پڑھنا شروع کریں۔ بعد نماز عشاء روزانہ تین سو بار ۱۷ دن متواتر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ جب بھی کسی مسئلہ کے

بارے میں معلوم کرنا ہو کسی بچے کے انگوٹھے پر سیاہی لگائیں اور عمل کو پانچ سات بار پڑھ کر دم کریں تمام احوال معلوم ہو گا۔

حاضرات

خضر حاضر حضور خضر ظاہر ظہور خضر آؤ خضر جاؤ خضر گھیر گھار کے لاؤ خضر ڈالیا بھر پھول خضر کر وہ
معمور۔

طریقہ

نوچندی جمعرات سے بعد نماز عشاء عمل پڑھنا شروع کریں۔ اگر بتی سلگائیں اور باوضو ہو کر پڑھیں۔ سو الاکھ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں خواہ کتنے ہی دن میں کریں ایام کی کوئی قید نہیں۔ اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ یہ ایک نایاب عمل ہے اور میرا خود کا آزمودہ ہے۔

اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ عامل عمل گھر بیٹھ کر کرتا ہے اور سیرور یا وسند رکی کرتا ہے۔ یعنی گھر بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حاضرات آبی میں سر تاج اور چوٹی کا عمل ہے۔

جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو باوضو ہو کر اگر بتی سلگائیں اور ایک سفید مرغ حضرت خضر کے نام کا سامنے رکھیں۔ ایک پانی سے بھرا تھال یا کونڈا سامنے رکھ کر عمل مذکورہ کو پڑھنا شروع کریں۔ اور پانی میں نظر جمائے رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہو جاتی ہے اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ جن سے آپ ہر قسم کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

اجازت دینے کے بعد سفید مرغ کسی کو بھی صدقہ کے طور پر دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ حضرت خضر کے نام کا ہے۔

اس حاضرات کو آئینہ بچے کی ہتھیلی اور پانی پر کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات آپ کو ہر جگہ کام آئے گی۔

دیگر یہ عمل تسخیر خلافت کے لئے بھی کارگر ہے۔ تجارتی کاروبار کرنے والوں کے لئے سونے پر ساگہ کا کام کرتا ہے۔ دن میں صرف اکیس مرتبہ عمل کو پڑھیں اور کاروبار میں دن بدن ترقی دیکھ

کر حیران رہ جائیں۔

☆

چور کا نام نکالنا

یا جلیل یا جبار یا مالک یا قہار شمس قمر الیلانہ ہارا ملک مالک دورا
شما شما شمار ابستانید کہ پابند شما ہم ایمان آور بانید حاضر باشد
نام این نزد پینا کنید کہ من جشن آواز شما می کنیم استجیبوا دعوت یا
سامع بحق تمخیشا تمخیشا ملشملینا بحق اہیا شراہیا بطاطونی
شرکاهی ان لاتعلو علی مسلمین یا رب العلمین ○

طریقہ

پہلے اس عمل کو عمل میں لانے کے لئے روزانہ 123 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں اس کے بعد جب
بھی کبھی ضرورت پیش آئے تو کٹو کی لکڑی کو ٹکڑے بنائیں اور اس پر قدرے لوبان اور گول کی
دھونی دیں اور ایک سفید ساہ کاغذ کو اس دھونی پر رکھیں اور مندرجہ بالا عزیمت پڑھتے جائیں
اور کاغذ پر دم کرتے جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاء اللہ نامعلوم چوروں کا نام شکل و پتہ خود
بخور کاغذ پر لکھے جائیں گے۔

حاضرات

یا حی یا قیوم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین و بحق کہیعص حمعسق
و بحق سلیمان بن داود علیہ السلام الفاستفتح استفتح فہوش فہوش
قرشت قرشت بر ما بر ما بر ما احضرو من جانب المشارق والمغرب و
من جانب الایمن والایسر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

طریقہ

نوچند ہی بدھ کی رات سے روزانہ ایک سو ایک مرتبہ 21 یوم تک پڑھیں۔ پہلے دس یا بارہ سال
کے بچے پر حاضری کریں اس کے بعد بڑے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عامل کے لئے ایک خاص تحفہ

ہے۔ صرف گیارہ مرتبہ عمل پڑھیں فوراً ہی حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے۔
اگر اسی عمل کو حاضری ہمزاد کے لئے روزانہ ایک ہزار 2 مرتبہ 21 یوم تک پڑھیں آپ کا ہمزاد
حاضر ہو گا جس سے آپ ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں۔

☆

حاضرات سامری جاوگر

عمل

ایلیا بن بکبا اباموسی صدیقہ

طریقہ

ماہ عروج میں نوچندے منگل یا ہفتہ کی رات 12 بجے کے بعد شمال مغرب کی طرف منہ کر کے پیلے
رنگ کے کپڑے پر بیٹھ کر عمل مذکورہ کو 2075 مرتبہ پڑھیں۔ اپنے سامنے قالین کا ایک چھوٹا سا
نکڑا، پیتل یا منی کا چھوٹا سا ٹھنڈا، ایک کنڈل میں شراب اور پانچ رنگ کی کھوے دار مٹھائی مثلاً
پیرا، گلاب جامن، برنی، فلاقند اور عطر حنا رکھیں اور اکیس یوم یہ عمل پڑھیں گے۔ سامنا جوں
کاتوں رہے گا اکیس یوم تک تل یا چنبیلی کے تیل کا چراغ مسلسل جلتا رہے (دن رات) چراغ
بجھانا نہیں ہے اور اکیس یوم کے بعد سامری جاوگر حاضر ہو گا۔ اس کا لباس لکھنوی طرز کا ہو گا
اور دور ہی سے ہاتھ ہلا ہلا کر آداب آداب کہتا ہوا حاضر ہو گا عمد و بیان ہونے کے بعد ہر قسم کے
کام لیں عقلمند کو صرف اشارہ ہی کافی ہے۔

حاضرات

جب حاضرات کی ضرورت ہو تو بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں۔ ذرا سا عطر یا تیل بھی
لگائیں تاکہ چمک پیدا ہو۔ مندرجہ ذیل عزیمت گیارہ بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور اول و آخر
تین تین بار درود شریف پڑھیں۔ اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جواب معلوم
کر سکتے ہیں۔

عزیمت

عنایت الجس میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ حضور سے پورا ہو یا بدیع یا ذوالجلال میں تزک حاضر کر دے۔



موکلات کی حاضری کا عمل

دنیا میں عملیات کا سر تاج عمل ہے اور مجرب و آزمودہ ہے۔

طریقہ

اول اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پورے دشمن یا جس سے کام لینا ہو اس سے موکلات کے ذریعے با آسانی کام لیا جاسکتا ہے۔ یہ عمل بغیر زکوٰۃ کے بھی کام کرتا ہے اجازتی عمل ہے۔ لہذا تمام قارئین آئینہ قسمت کو اجازت ہے۔ اگر روحانیت کامل ہے تو پھر بلا زکوٰۃ صاف اور کھلی حاضری ہوتی ہے۔ مہینہ کی پہلی بدھ فجر کی نماز کے بعد سورۃ حشر ایک بار پھر لایستوی اصحاب النار سے تا آخر سورۃ ایک بار پھر سورۃ حشر کی آخری آیت تین بار یعنی اول سالم سورۃ ایک بار پڑھ کر تلاوت کر لیں پھر آخری رکوع لایستوی سے آخر تک ایک بار پڑھ لیں پھر تین بار ہو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ اکبر تک پڑھ لیں اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں پورے چالیس دن مکمل کر لیں۔ اکتالیسویں دن مساکین کو کچھ حسب توفیق کھانا کھلا دیں۔ اب زکوٰۃ مکمل ہو گئی اس کے تین موکل آپ کے خادم و تابع رہیں گے اور وہی سارا کام کریں گے۔ یہ موکلوں کے بادشاہ ہیں آپ ہر کام کرا سکتے ہیں۔

اس عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے صبح کی نماز کے بعد تین بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کر آیات تین بار پڑھیں اور اسی طرح نماز مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں۔ پھر جب حاضرات کرنی ہو تو کسی 12 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کو جو صاف ستھرے ہوں اپنے سامنے بٹھا کر ایک کانڈ پر گول سیاہ دائرہ بنا کر گول شیشہ پر لگا کر پچھلے کے ہاتھ میں دیں (شکل مضمون کے شروع پر درج ہے) اور درج ذیل عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ دائرہ روپیہ کے برابر گول ہو۔

لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة ۛ هو الرحمن الرحیم تک پڑھ کر

هو الاسامة سرنا هو یا کریم (الفظ یا کریم) کو چھ بار پڑھے۔

یہ آیت پڑھ کر پچھلے کے سر پر دم کریں، حاضری ہو جائے گی پہلے اس گول دائرہ میں جھاڑو والا آئے گا اس سے جھاڑو لگانے کے لئے کہیں وہ جھاڑو دے گا پھر اس سے کہو کہ پانی چھڑک دے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرے گا۔ پھر اس کو میز کر سی لانے کو کہیں پھر کھلا میدان بن جائے گا پھر موکلات آئیں گے۔ ادھر عامل اور والد الاوظیفہ صرف هو الاسامة سرنا هو یا کریم پڑھ کر دم کرتا رہے پھر جو کچھ پوچھنا ہو پوچھتے جائیں بچے کو تاکید کریں کہ وہ آنکھوں سے اسی دائرہ میں ٹھکنی باندھ کر دیکھتا رہے۔

اگر مریض کو دیکھنا ہے کہ کیا مرض ہے یا جادو یا آسیب ہے وہ چیز صاف سامنے آجائے گی۔ اگر چوری کا معلوم کرنا ہو تو چور بعد چوری شدہ سامان لے کر حاضر ہو گا۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہو تو وہ مسخر ہو گا۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے۔



جادوئی چراغ

اس عمل پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے کیونکہ یہ عمل حاضرات میں بھی کام کرتا ہے اور دوسرے تشخیص الامراض کے علاوہ مریض پر سحر آسیب و جنات بھی ہو تو اس کو بھی دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ عمل کیا ہے ایک جادوئی چراغ ہے۔ یہ حاضرات ہر کام کے لئے بے نظیر ہے۔ ہر مقصد میں کام و ساتھ دیتی ہے۔ جو بھی اس حاضرات کو کرے گا وہ بغیر تعریف کے نہ رہے گا۔

اگر صرف کانڈ پر حاضری کرنی ہو تو دس بارہ سال کے بچے کو خانہ نمبر 11 میں جہاں ہم نے سیاہ نشان لگایا ہے بچے کو دیکھنے کے لئے کہیں اگر لڑکی ہو تو 12 سے 16 سال تک کی حاضرات میں دیکھ سکتی ہے۔ عامل بچے پر مندرجہ ذیل عزیمت دو تین بار دم کر کے پھونکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔ عزیمت یہ ہے۔

عزمت علیکم یا معشر الجن والانس ان تنقذو من اقطار السموات
والارض فانفقوا تنقذون الا بسطن ربط ربط محلا محلا نشر انشزا
محترام محتراب حق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له

كفو الاحدانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الاتعالو على

واتونی مسلمین ○

یا جبرائیل ۷۸۶ یا میکائیل ۷۸۶

۷۶۳	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷
۷۷۵	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷
۷۶۹	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷
۷۷۸	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷

یا اسرافیل ۷۷۷ یا عزرائیل ۷۷۷

اگر سحر جادو جنات وغیرہ کو بلانا اور دور کرنا ہو یا مریض کی بیماری و تشخیص وغیرہ کا معلوم کرنا ہو تو اسی نقش کو سفید کاغذ پر لکھ کر نقش کو جتنی بنا کر سرسوں کا چراغ روشن کریں اور مریض کو چراغ کی لومیں دیکھنے کو کہیں تھوڑی ہی دیر میں مریض کو سب کچھ نظر آجائے گا۔
چراغ روشن کرتے وقت عامل (آپ) اوپر والی عزیمت گیارہ بار پڑھ کر مریض کے کان میں اور سر پر دم کریں انشاء اللہ تھوڑی ہی دیر میں مریض پہلے جیسا صحت مند ہو جائے گا۔ حاضرات میں سرتاج اور چوٹی کا عمل ہے امید ہے کہ قارئین کو پسند آئے گا۔

حاضرات

چھت والے پکھے کے اندر جو کپسٹر ہوتا ہے وہ کسی پرانے پکھے کالے لیں۔ اس کو توڑیں تو اس سے تیل نکلنے لگے گا۔ اس تیل کو کسی شیشی میں ڈال لیں۔ اب ایک لڑکا یا لڑکی جس کی عمر دس بارہ سال ہو اس کو بٹھا کر تیل اس کے انگوٹھے پر مل دیں اور گیارہ دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر بچے کے دائیں کان میں پھونک دیں اور بچے کو ناخن میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔




حاضرات شاہ جنات

ایک گتہ پر مندرجہ ذیل نقش بنائیں اور بچے یا بچی کو کالے دائرہ میں دیکھنے کو کہیں۔ اس سے پہلے توشہ برنی ایک پاؤ، تازہ پھول گلاب اور مندی گھول کر رکھیں اور کالے دائرہ پر عطر لگائیں۔

بچے پر تین مرتبہ درود ابراہیمی اور تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ بعدہ نقش پر دس مرتبہ حرف "مشکل" پڑھ کر دم کریں۔ تھوڑی دیر میں باہوش سلامت کی حاضری ہو جائے گی۔ بچے کے ذریعے باہوش کو سلام عرض کریں۔ پھر اپنے کام کا پوچھیں۔

اس حاضرات سے آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات مثلاً ریس، سٹ، انعامی بانڈز کے نمبر معلوم کر سکتے ہیں۔ گمشدہ کا حال بیماری، سحر، غرض ہر قسم کے سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں اور یہ عمل تجربہ شدہ ہے۔



حاضرات مملکہ

ایک سفید گتہ پر مندرجہ ذیل حاضرات کا نقش بنائیں۔ نقش میں جہاں نیلا رنگ لکھا ہے اس حصہ میں نیلا رنگ بھر دیں۔ جہاں کالا لکھا ہے وہاں کالا، جہاں سرخ لکھا ہے وہاں سرخ اور جہاں ہر رنگ لکھا ہے وہاں ہر رنگ بھر دیں۔



حاضرات کرنے سے پہلے توشہ ایک پاؤ برنی، چند تازہ پھول اور تھوڑی سی مندی پانی میں گھول کر رکھیں۔ بغیر توشہ کے حاضرات نہ کھلے گی۔ لہذا توشہ لازمی رکھیں پھر حاضرات شروع کریں۔

طریقہ

نقش پر دس بار (شکل و صورت مکمل حفاظت) پڑھ کر دم کریں اور بچے کو نقش میں دیکھنے کو کہیں۔ بعدہ بچے سے معلوم کریں کہ کیا چاروں موکل تشریف لے آئے ہیں جب بچہ ہاں کے تو

ان کو بچے کے ذریعے سلام عرض کریں۔ اور اپنا مقصد و مدعا بیان کریں غرض جو بھی پوچھنا ہو۔ تمام سوالات کے جوابات سو فیصد درست پائیں گے۔

حاضرات کرنے سے پہلے اور حاضرات ختم کرنے پر بچے پر تین بار آیت الکرسی اور گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کریں۔

یہ حاضرات نہایت ہی طاقتور ہے۔ ہر کام چاہے کتنا ہی سخت ہو مؤکل سرانجام دیتے ہیں۔ جادو بھی دور کرتے ہیں اور جادو کے مؤکلوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ ہر کام عامل کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔

شرط یہ ہے کہ عامل ادب و احترام اور عاجزی سے درخواست کرے۔

☆

عمل مؤکلہ مناد یوی

طریقہ

آکطیش - جطیش

ماہ ثابت رجال الغیب پس پشت ہو تخلیہ میں اپنے پاس گوگل انگلیٹھی شراب خالص تین عدد انڈے دسی مرغی کے۔ پہلے آگ پر قدرے گوگل و شراب ڈالو۔ ایک سانس میں اسم آکطیش کو بلا تعداد پڑھو۔ جب سانس ختم ہو تو اسم دوم جطیش دو سانس بطور سابق پڑھو جب سوا گھنٹہ ہو جائے ایک چمچ شراب آگ پر ڈالو۔ پڑھائی مسلسل جاری رہے اسی طرح ڈھائی گھنٹے پڑھو۔

کچھ دیر بعد ایک نہایت ہی حسین عورت حاضر ہوگی۔ جب وہ منہ کھولے انڈا پھوڑ کر آگ پر ڈالو وہ اس کو پی جائے گی۔ اس طرح وہ جتنی مرتبہ منہ کھولے انڈا پھوڑ کر آگ پر ڈالتے رہو۔ بعدہ وہ مسخر ہو جائے گی۔ وعدہ پر کام کرے گی۔ عامل کو انڈے کم از کم ایک درجن رکھنے چاہئیں تاکہ اٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ دیوی اس قدر حسین ہوتی ہے کہ عامل کا سنبھلنا مشکل ہوتا ہے لہذا شہوت کا خیال نہ لائیں اور خیالات پاک رکھیں۔ اگر شہوت کا خیال دل میں لائے گا تو مارا جائے گا اس لئے اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ یہ دیوی دست غیب مقرر کر دے گی۔ پرہیز جلالی و جمالی کریں۔

حاضری دیوی

عمل

صدابھوانی کالکا۔ کھول دے خزانہ مال کا۔ کھاوے تیرا ہالکا۔

طریقہ

یہ عمل ہفتہ یا منگل سے شروع کریں۔ چالیس دن تک عمل تقریباً ایک گھنٹہ بلا تعداد پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں۔ اگر دوران عمل سامنے آئے تو ڈرنا نہیں۔ جو پوچھو گے وہ بتا دے گی۔

پرہیز

جلالی و جمالی گوشت بڑا چھوٹا، انڈا، مچھلی، عمل پورا ہونے کے بعد اگر کوئی کام لینا ہو تو دو روز پہلے پرہیز کر کے کام لینا چاہیے۔ عمل پورا ہونے کے بعد صرف گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ باقی جو مرضی ہو کھائیں۔

☆

تسخیر دیوی

عمل

روپ سروپ کا یا کلپ سیکاتور انیش۔

طریقہ

یہ عمل چاند کے آخری دنوں میں کریں۔ انمول عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ بہت سی کرامات دکھا سکتے ہیں۔ لیکن دوران عمل نیکی کا کوئی کام نہ کریں اور نہ ہی نماز پڑھیں۔ چودہ دن میں سوا لاکھ کی تعداد پوری کریں۔ تسخیر کے بعد ہر کام لے سکتے ہیں مثلاً اس کے نمبر پر انڈیا باند نمبر ریس گھوڑا امتحان اور مقدمہ میں کامیابی حسب تسخیر، مرض و علاج وغیرہ۔

پرہیز

صرف بڑا گوشت۔ پاؤں لٹے ہیں دو عورتوں کے ماہواری کے کپڑے حسین عورت کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوا اسکا ایک کپڑا۔

☆

درشن کرشن مہاراج

عمل

اوم نموسوم ہے

طریقہ

اکیس سو بار روزانہ گیارہ دن تک پڑھیں۔ بخور عود اور لوبان کا جلائیں اور یکسوئی سے پڑھیں۔ ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ غروب آفتاب کے وقت علیحدہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اس عمل سے سٹ نمبر پرائز بانڈ نمبر امتحان میں کامیابی۔ غرض ہر کام لے سکتے ہیں۔ عمل کے بعد کرشن مہاراج سے ملاقات ہوگی بالکل بے خوف خطر۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔

☆

حاضری برائے پیر مردم

عمل

یا شاہ تل وجو فاغول بوان شاہت الوجوہ لقاساغرینا۔

طریقہ

گیارہ سو بار گیارہ دن تک رات کے دو بجے شروع کرنا ہے۔ پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس عمل میں نہانا مشروط ہے۔ نہا کر عمل کریں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ہر کام لے سکتے ہیں۔

☆

حاضری پری
عمل

اقسمت علیکم یا عونل ملک مشفقہ بنت ابلیس بحق مطبعون غل تم
قوس بقتابین یاسریل مشفقہ قولافہما قوس لمرود علوہم علوہم
الساء الساء الساء۔

طریقہ

بدھ جمعرات اور جمعہ نوچندی دنوں میں پہلے دن تین سو بار اور دوسرے دن چار سو بار تیسرے دن پانچ سو بار پڑھیں۔ بخور گوگل اور لوبان کا جلائیں اور عمل پڑھتے وقت منہ مغرب کی طرف رکھنا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑھیں۔ جب حاضر ہوگی تو جو بھی بات معلوم کرنی ہوگی یا کوئی بھی کام کروانا ہو تو وہ فوراً کرتی ہے یہ لاجواب عمل ہے۔

☆

حاضری برائے پریاں

عمل

بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر امن الجن فقالوا اننا
سمعنا قرانا عجباً یهدی الی الرشدا فما منا بہ۔

یہ سورہ جن کی پہلی چار آیات ہیں۔ ان کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ منتر تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں۔

یا اہل عیطوناش عظموٹ

اسی طرح روزانہ چالیس دن تک پڑھتے رہیں۔ اگر دوران عمل کسی قسم کی کوئی آواز آئے یا سلام علیک کرے تو دل میں جواب دینا اور عمل پورا ہونے پر بات چیت کریں۔ عمل ختم ہونے پر شرعی پر مومکلات کی نیاز دلا کر معصوم بچوں کو بانٹ دیں۔

☆

حاضرات بابا خاکی شاہ

نیل گھوڑی سبز پلان۔ چڑھیا آوے خاکی شاہ جوان۔ ہتھ وچ ڈنڈا بغل قرآن۔ کے کردا ست سلام۔ حاضر ہو بابا حاضر ہو بابا حاضر ہو بابا۔

طریقہ ریاضت

عروج ماہ میں اتوار کے روز سے بعد از نماز عشاء کلمات عمل کو گیارہ سو گیارہ مرتبہ روزانہ گیارہ یوم تک پڑھیں۔ گیارہ روز کے بعد بیٹھے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ دوران عمل خوشبودار بخور روشن کریں۔ جب کبھی حاضرات کرنا ہو کسی بچے یا بچی کے ناخن پر سیاہی لگا کر اوپر کوئی عطر لگا کر کلمات عمل کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ حاضرات کا نزول ہو گا۔ بامقصد سوالات کریں ہر سوال کا جواب ملے گا۔



حاضرات بابا روڈے شاہ عمل

قادری محی الدین۔ میدان محی الدین۔ شاہ سیدا۔ تیرے سر میں سودا۔ سودا کرو دست بدست۔ اگے اگے فقیر کچھے کچھے گلدست۔ عام دریا نگاہ دھرتی۔ کل مخلوق میں روح خلقی۔ اگے فقیر کچھے فقیر۔ سچے فقیر کچھے فقیر۔ سب جگ نبھ کے کر زیر میرے پیرتے مرشد دا پنن نہ پھیر۔ روڈا شاہ بلقاری ستر سو بلا تیرے پنچے بیٹھ ماری۔ رکھ اگے تے کچھے دی خبرداری۔ مائی حسنی بابا روڈے شاہ۔ دنیا دا پکڑ کے تو اگوڈا۔ نخی شمیر پکڑے پیر۔ انموں پئی خزانوں خیر۔ نخی شاہ جل بخش۔ بخش دین و دنیا و تخت مونگا شاہ فقیر مار کے وکھاں سیناں دا تیر۔ عرس کی نیر۔ سکی ندی و گاؤے نیل۔ دا تا نخی روڈے شاہ قلندر۔ بسم اللہ یا فقیر بابا روڈے شاہ حاضر ہو۔ حاضر ہو۔ حاضر ہو۔

طریقہ ریاضت عمل

عروج ماہ نوچندی جمعرات سے بعد از نماز عشاء اول و آخر اکتالیس مرتبہ درود پاک اور گیارہ مرتبہ عمل کی عبارت روزانہ پڑھیں۔ عمل کی ریاضت کی مدت اکتالیس یوم ہے۔ دوران عمل

خوشبودار بخور روشن کریں۔ اس عمل میں پرہیز جلالی و جمالی کرنا ہو گا۔

طریقہ حاضرات

جب کسی پر حاضرات کرنا ہو۔ تو اس کی آنکھوں بند کرادیں۔ اور پھر آنکھوں پر سیاہ کپڑا باندھ دیں۔ اور معمول کو ہدایت کریں کہ وہ آنکھوں کے ڈیلے کو حرکت نہ دے۔ اب آپ کلمات عمل کو سات مرتبہ پڑھ کر معمول پر دم کریں۔ اور معمول سے پوچھیں کے آنکھوں کے سامنے ٹیلی ویژن کی طرح سفید لائٹ آئی ہے یا نہیں۔ اگر معمول کے لائٹ نظر نہیں آئی۔ تو پھر سات مرتبہ عمل پڑھ کر دم کریں۔ لائٹ آجائے گی۔ جب لائٹ آجائے۔ تب بابا روڈے شاہ کو طلب کریں۔ حاضرات ہونے پر اپنے مقصد کے سوالات پوچھیں۔ بیماری۔ سحر جادو۔ آسیب کے سوالات۔ بیماری سحر جادو اور آسیب کا علاج وغیرہ ہر طرح کے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ حاضرات کا بہترین عمل ہے۔



حاضرات حضرت پیر بہاؤ الحق عمل

عمل وچ سیوان خواجہ خضر نوں۔ باہر سرور پیر۔ میری بدھی چھڑاوے کون۔ میرا حضرت طاہر پیر۔ نوپلی حضرت سلیمان دی پنے سنگے ویز سب دی نگا منادے میرا سوہنا حضرت پیر۔ پیر بہاؤ الحق کردہ کچ کچ۔

ریاضت عمل

جمعرات کی رات سے بعد از نماز عشاء کلمات عمل کو گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مدت ریاضت صرف گیارہ یوم ہے۔ آخری یوم پیر بہاؤ الحق کی کسی چیز پر نیاز دیں۔ پھر جب کبھی ضرورت ہو۔ معروف طریقہ سے حاضرات کریں۔

تسخیر کالی مائی

تین روز دریا یا سمندر پر جا کر حاضری دے۔ ہانڈی کے اندر ایک اصلی گھی کا چراغ، آٹھ عدد لونگ، دو چھوٹی لالچی، ۵ عدد ہاتھی، پانچ گلاب کے پھول، پان کایز، تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول، دو عدد اگر بنی صگا کر اور یہ منتر تین مرتبہ پڑھ کر تمام اشیاء سمندر / دریا میں بہا دے۔

منتر۔ اوگم دریا۔ اوگم بڑی موج بہار۔ کالا باوا کی تلی لالہ گیر۔ محمد کی سواری۔ آئے جی آئے بائیس خواجہ آئے۔ آئے بائیس خواجہ آئے۔

توشہ :- ایلے کی آگ جلا کر اوپر والا توشہ سامنے رکھے اور ایک بوتل شراب لوبان، بہمن، صندل کا برادہ آگ پر ڈالے، تھوڑی تھوڑی شراب آگ پر ڈالتا جائے۔ شراب پیالہ میں پاس رکھے۔

منتر

کالی کالی مہاکالی۔ اندر کی پتری۔ برہما کی سالی۔ چاہے پان۔ بجاوے تالی۔ پشو کر بے کرائی۔ پیو پیالہ رہے متوالی۔ برہما کی سالی۔ پھر و منتر پھر و باچا میرے گرو کاشد سانچا۔ تعداد ۱۰۸ مرتبہ روزانہ اکیس یوم اپنا حصار ضرور کریں۔

پرہیز :- انڈا، گوشت، مچھلی سے پرہیز کرے ایک وقت یعنی رات بارہ بجے اور ایک ہی جگہ عمل کرے۔ جگہ تبدیل نہ کرے۔

تسخیر ملکہ الجمال

یہ ملکہ سات سو بادشاہوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر بادشاہ سات سو قبیلے پر حکومت کرتا ہے اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کا ارادہ اس سے شادی

کرنے کا ہو تو علیحدہ مکان میں پاک و صاف کپڑے اور نماز گاہ کو بارہ دن بیٹھیں۔ دھونی خوشبو وغیرہ کی پوری رات اور تلاوت کے وقت اور نماز کے وقت جاری رہنی چاہئے۔ دھونی مندرجہ ذیل چیزوں کی ہو۔

جاو تری، عود، میو، کندر، مصطلی رومی۔

وہ کلام جو ہر نماز کے بعد سو بار اور آدمی رات میں ہزار بار پڑھتا ہے وہ یہ ہے۔ منتر

یوش۔ عترطوش۔ اغیطوش۔ حزطاح۔ اشخاخ۔ شامخ۔ مامون۔ عرطافون۔ سام شون مملہ مستمیتال۔ اجیبی و احضری یا ملکہ الجمال حتی یتتم زواجنا بالتمام والکمال۔ سحر و کان و علی اللہ الاتکال۔ ہر رات اپنے دائیں ہاتھ پر یہ نقش لکھ کر دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے اور بائیں ہاتھ کو سینے پر نیند کے وقت رکھنا ہے۔ دائیں ہاتھ پر یہ نقش لکھیں مایکتب علی الید الیمنی

۶۸ ۴۹۹ ۸
۷۳۶۱۰۷۰۱۹۴۸

بائیں ہاتھ پر یہ نقش لکھیں۔

مایکتب علی الید الشمال

☆ ۷۳۶ ۸

۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

آٹھویں رات سارا مکان روشن ہو جائے گا اس سے ڈرنا نہیں۔ نویں رات کچھ سیاہ نکلائے اور کچھ سفید آپ کو نظر آئیں گے۔ اس سے بھی نہیں ڈرنا۔ گیارہویں رات چاند کی

طرح بہت سی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی اور وہ کہیں گی ہم سے کسی ایک کو لے کر یہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دے۔ آپ ان کو کہیں مجھے صرف مکتہ الجمال چاہئے اور کوئی نہیں وہ چلی جائیں گی۔ بارہویں رات عورتیں چاند کی شکل میں آئیں گی ان کے درمیان مکتہ الجمال ہوگی۔ سورج کی طرح اس پر کپڑے اور زیورات اتنے ہوں گے کہ ان کا خریدنا ناممکن ہو گا۔ ان کے پیچھے قاضی ہو گا اگر آپ کو سلام کریں گے آپ کھڑے ہو کر جواب دیں۔ آپ کو نکاح نامہ وہ لکھ دیں گے اور آپ کو مکتہ الجمال حاصل ہو جائے گی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔

تسخیر شہنشاہ جنات

مہینے کے پہلے اتوار کے دن سے شروع کر کے ایکس دن روزے رکھیں۔ روزہ اپنے دین کے لحاظ سے طلال اشیاء پر رکھیں۔ انتظار کے وقت جو کی روٹی کے ٹکڑوں کو زیتون کے روغن میں جگلو کر کھائیں اس میں نمک نہ ہو۔ روزے کے دنوں میں گوشت یا انڈہ وغیرہ نہ کھائیں۔ ہر دن اور رات میں سات بار پانچ نمازوں اور تہجد و اشراق کے بعد ایک ہزار دو بار یہ اسم پڑھیں۔

عاقبیس۔ تمانس بعد آن۔ یواو۔ وغد اس نوفاغادوس ان اسماء کی تلاوت کے وقت طلحہ کرہ ہو روشنی بالکل کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ اس کمرے میں خوشبو مندرجہ ذیل اشیاء کی ہو۔
عود، جلو تری، کندر، کبیرہ، صمغی، تاسری۔ سوتے وقت اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں انگوٹھے کے نشان پر یہ نام لکھیں۔

یا طیبہ ج یا طیبہ ج اور پھر یہ آیتیں پڑھیں ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت الہم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا یغون عنها حولا قل لو کان البحر مدادا لکللمات ربی لنعذ البحر قبل

ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مدد اقل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الہم اوحی الی امر کذا و کذا انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احداد و هكذا حتی یغلب علیک النوم فا انک تری ما تطلبہ منا ما او عیانا باذن اللہ تعالیٰ۔ نیند تک یہ پڑھتے رہیں۔ ایک پختے کے بعد آپ سو مٹی کی روشنی پختی روشنی دیکھیں گے آپ کا ہاتھ جو دبتا ہوا معلوم ہو گا اس سے ڈرنا نہیں۔ دوسرے پختے روشنی نہیں لائیں اور چاند جیسی دیکھیں گے کہہ سارا جتا ہوا معلوم ہو گا پھر بھی نہیں ڈرنا۔ تیسرے پختے بہت سے ارواح ظاہر ہوں گے ان کے درمیان بادشاہ ہو گا وہ آگے آکر آپ کو سلام کرے گا۔ آپ جواب دیا وہ آپ سے معاہدہ کرے گا اللہ کی فرمائیداری کا تائے گا اور کے گا کہ جب آپ چاہیں اس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کا جو کام ہو گا میں کروں گا۔

تسخیر کالا دیو

کالا دیو بیابانی آکے مل میرے جانی

طریقہ :- ایکس دن کا عمل ہے۔ روزانہ غسل کر کے ایک ہزار بار پڑھیں یہ عمل ہر جگہ کو فوری طور حاضر کرنے کا ہے لیکن اس کو تین چل کر ثابت ہے اگر پہلے چل میں کامیاب ہو جائیں تو پھر چلانی بند کر دیں چونکہ اس عمل میں کالا دیو کی حاضری ہے۔ جب وہ حاضر ہو جائے تو قول و قرار لے کر رخصت کر دیں اس کے بعد عمل چند بار پڑھیں۔ کالا دیو حاضر ہو کر جس کام کا کہیں گے فوراً کرے گا۔ (پرہیز جلالی و جمالی لازمی)

تسخیر ہمزاد

جب کوئی مر جائے تو اس مردہ کی پانچٹی کھڑے ہو کر ایک سو ایک بار یہ کلمات پڑھے اور ننگا جنے سے تعداد ختم کر کے وہاں سے چلا آئے میت کے ساتھ نہ جائے۔ اب رات کو نو دس بجے اس مردے کی قبر پر جائے اور سات چھٹانک شرنی سات قسم کی یعنی ایک ایک قسم کی مٹائی ایک ایک چھٹانک ہو اور تھوڑا سا عطر اور پھول بھی مٹائی کے ساتھ ہوں۔ قبر پر پہنچ کر یہ مٹائی 'عطر' پھول قبر پر رکھ دے اور دکھن کی طرف منہ کر کے یہی کلمات ایک سو ایک بار پڑھے یا کم از کم آدھا کھنڈ پڑھے۔ پہلے دن ہی ہمزاد حاضر ہو گا اور مٹائی مانگے گا۔ ہمزاد سے قول و قرار لے کر مٹائی اسے دیدے اور اپنے گھر چلا آئے۔ راستے میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ہمزاد مسخر ہو گا۔

حاضرات حضور (خود)

اللہ میرے تن میں محمد میرے من میں اللہ میرے کم سوار و ایک گھڑی ایک پل میں خواجہ کی تسبیح محمد کائنور بھجیو موکل لاؤ ضرور لا الہ الا اللہ ملا دے یا حضرت محمد رسول اللہ حاضرات دکھا دے۔

طریقہ :- کمرہ صاف ستھرا ہو، عامل پاک و صاف اور با وضو ہو، کمرہ خوشبو سے معطر ہو۔ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر بچہ / بچی پر حاضرات کرنی ہو تو بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور اس پر تھوڑا سا عطر لگائیں۔ درود شریف وغیرہ پڑھ کر مندرجہ بالا کلمات حاضرات میں مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں اور بچے کو انگوٹھے میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں عمل سونپھد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خود حاضرات کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا آئینہ لیں اس پر تھوڑا سا کاجل لگائیں اور اس پر تھوڑا سا عطر

گلاب لگادیں۔ پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور مندرجہ بالا کلمات حاضرات تھوڑی دیر یا آدھا کھنڈ پڑھ کر آئینہ پر دم کریں۔ یقین کامل خود اعتمادی و یکسوئی سے حاضرات کی جائے تو تمام حال مثل ٹی۔ وی کے آئینہ میں نظر آئے گا۔ یاد رکھیں سب سے بڑا پیر اعتقاد و بھروسہ ہے۔ اگر حاضرات جلد نہ کھلے تو بار بار کوشش کریں پھر بھی حاضرات نہ کھلے تو پھر اپنے میں خالی اور کمی تلاش کریں۔ مثلاً صوم و صلوة کی پابندی، سچ بولنا، رزق حلال کھانا، نعبیت نہ کرنا، سود سے پرہیز کرنا، زنا کاری سے بچنا، جو 'شراب نوشی' تمباکو نوشی وغیرہ وغیرہ۔

اگر عامل بننا ہو تو مندرجہ بالا عمل کو جمعرات کی رات سے بعد از نماز عشاء کلمات عمل کو گیارہ سو مرتبہ گیارہ روز پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آخری یوم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر نیاز دیں پھر معروف طریقہ سے حاضرات کریں۔

حاضرات غوث پاک

يَا هُنَّ سَابِغَاتٌ بِمَاءِ حَيَّاتٍ (۱۱۰۰) بار

طریقہ :- کمرہ پاک و صاف اور خوشبو سے معطر ہو۔ عامل پاک و صاف اور با وضو ہو نو چندی جمعرات سے عمل شروع کرے اول و آخر درود شریف ۱۱/۱۱ بار ۱۱۰۰ بار گیارہ دن یا پھر ۳۱ یوم۔ (پرہیز جلالی و ہمالی) انشاء اللہ عامل اپنی دلی مراد پائے گا۔

حاضرات حضور (خود)

لَا إِلَهَ حَيْلَهُ - إِلَّا اللَّهُ وَسِيلَهُ - مُحَمَّدًا الرَّسُولَ اللَّهُ
وَكَيْلَهُ حاضرات دیکھا، يَا حضرت وَحْيِ جِبْرَائِيلَهُ -
طریقہ :- کمرہ پاک و صاف ہو خوشبو سے معطر ہو عامل نماذھو کر اور با وضو ہو کر

حاضرات کرے۔ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے بچے کے دائیں انگوٹھے پر کابل لگائے پھر ایک سو ایک بار مندرجہ بالا عزیمت پڑھ کر بچے پر دم کرے تھوڑی سی دیر میں حاضرات کانزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خود حاضرات کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو پھر مندرجہ بالا عزیمت کو گیارہ یوم گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پھر ایک پاک و صاف شیشہ لیں اور اس پر تھوڑا سا کابل لگائیں اور معمولی سا کوئی بھی عطر لگائیں۔ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک سو ایک بار مندرجہ بالا عزیمت پڑھ کر آئینہ پر دم کریں تھوڑی سی دیر میں آئینہ میں حاضرات کانزول ہو گا جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

تسخیر بھیروں

کالا بھیروں بگا بھیروں کیکر کنڈا جہاں و نگار ان بھیروں تینوں آویں کھیل کھلنڈاں چچی نوں پر لگا دیوے ہئے داہٹ و کاوے ڈھائی پل گزرے بھٹاپٹ منکاوے سار کی منگی لوہے کا کڑا جہاں و نگاروں بھیروں تینوں وہیں حاضر ہو جا کھڑا۔ تعداد ۱۰۸ مرتبہ ۳۱ یوم پر ہیز جلالی و جمالی۔
توشہ :- شراب کی ایک بوتل
کیکر کے درخت کے نیچے رات بارہ بجے پڑھیں حصار کریں عمد و بیان سوچ سمجھ کر کریں دنیا کا ہر کام چند لمحوں میں کرتا ہے۔


حاضرات حضوری (خود)

اللہ میرا بادشاہ نبی ہے وزیر۔ اللہ میرا کام کرے جناب و بگیر۔ حضرت بی بی فاطمہ مد علی شیر۔ چڑھے محمد مصطفیٰ حاضرات کو لاؤ بگیر۔

طریقہ :- اگر بچی / بچہ پر حاضرات کرنی ہو تو اس کے دائیں انگوٹھے پر کابل

لگائیں اور گیارہ مرتبہ درود شریف اور مندرجہ بالا عزیمت پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ تھوڑی سی دیر میں بچے کو سیاہ ناخن میں بزرگ نظر آئیں گے۔ بچے کے ذریعہ ان کو سلام عرض کریں اور اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد مکمل درست معلومات حاصل کریں۔ اگر عامل خود حاضرات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا عزیمت کو اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر عزیمت کو گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم پر ہیز جلالی و جمالی کے ساتھ پڑھیں اور حضرت علی کی کسی میٹھی چیز پر نیاز دیں۔ پھر کسی آئینہ پر کابل لگائیں اور عزیمت کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر آئینہ پر دم کریں۔ تھوڑی سی دیر میں آئینہ میں تمام حال مثل نبی۔ وی کے نظر آئے گا۔ عامل شیشہ میں تمام لوگوں کو سارا منظر دکھا سکتا ہے اور خود بھی حاضرات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

حاضرات



طریقہ :- اگر عامل خود حاضرات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اسم اعظم کو پر ہیز جلالی و جمالی کے ساتھ ایک مینہ تک ایک سو دس (۱۱۰) بار روزانہ پڑھے تو عامل ہو جائے گا۔ جب بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو ایک صاف شیشہ

لے اور اس پر کاجل لگائے پھر سیاہ دائرہ میں اسم اعظم کو ۳۳ مرتبہ پڑھے فوراً ہی حاضرات کا نزول ہو گا تمام احوال ٹی۔ وی کی طرح آئینہ میں نظر آئے گا۔ اسم اعظم یہ ہے۔

يَا رَحِيمُ كُل صَرِيخٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَ
مَعَاذِ يَارَحِيمِ ○ اگر بچی بچے پر حاضرات کرنی ہو تو بچے کے دائیں ناخن کے انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور عامل گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور اسم اعظم کو ۱۱۰ بار پڑھ کر بچے پر پھونکے پھر ناخن میں دیکھنے کو کہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

اے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے۔ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے۔ اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے۔ یا حسین ابن علی حاضرات دکھاؤ خدا کے واسطے۔

طریقہ :- کسی بچے کو نسلادھلا کر اور عطر لگا کر اس کے دائیں ناخن کے انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور اسے سیاہ ناخن میں دیکھنے کو کہیں اور عامل گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر مندرجہ بالا ربائی کو ایک سو ایک بار پڑھ کر بچے پر پھونکے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا۔ بچے سے بزرگ ہستی کو سلام عرض کروائیں اور اپنے مشکل امور کے مسائل کے بارے میں سو فیصد درست و مکمل معلومات حاصل کریں۔

اگر عامل بننا ہو تو جمعرات کی رات سے بعد از نماز عشاء کلمات عمل کو گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں آخری یوم حضرت امام حسین مکی کسی مٹھی چنے پر نیاز دلائیں پھر جب کبھی ضرورت ہو معروف طریقہ سے حاضرات کریں۔

حاضرات حضور

حاجت روائی ہر قسم

طریقہ :- ایک ایسا کمرہ مخصوص کریں جس میں چالیس دن تک آپ یہ عمل کر سکیں دوران عمل آپ کے پاس کوئی نہ ہو۔ عمل نوچندی جمعرات کو شروع کریں اور بلا ناغہ چالیس دن کریں بالکل سچا اور تجربہ شدہ عمل ہے۔

مغرب کی اذان سے ذرا قبل مخصوص کمرے میں چلے جائیں۔ اذان مغرب کے بعد نماز ادا کریں اور نماز کے فوراً بعد عمل شروع کر دیں وہ اس طرح کہ چار رکعت نفل حضور ﷺ کو ہدیہ پیش کریں اور ہر رکعت میں پچیس بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور جب سلام پھیرنے کے لئے التیمات میں بیٹھیں تو درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح بیس رکعت مکمل کریں پھر تین رکعت اسی طرح پڑھیں پھر درود رکعت اس طرح ادا کریں یہ نو نفل پچیس رکعت ہوئیں۔ اس کے بعد سو مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں پھر پچیس نفل اور درود شریف کا ہدیہ حضور ﷺ کو پیش کریں اور اپنے مقصد کے لئے دعا کریں۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہوں گے تو عشاء کی اذان کا وقت ہو گا اگر غنودگی آرہی ہو تو فوراً اسی کمرے میں لیٹ جائیں پھر جیسے ہی آنکھ کھلے تو عشاء کی نماز ادا کریں اگر غنودگی نہ بھی آرہی تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر فوراً سو جائیں۔ اس طرح چالیس دن عمل کریں کچھ دنوں بعد دو سو نفل خواب میں آئیں گے جو آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ڈر گئے یا ان کے اکسانے پر آپ بھاگ گئے تو آپ کی محنت ضائع جائے گی اور آپ کو پھر دوبارہ نئے سرے سے عمل شروع کرنا پڑے گا یہ سو نفل بہت چالاک ہیں اس عمل میں جو بھی واردات ہوگی خواب اور غنودگی کی حالت میں ہوگی۔ کچھ دنوں بعد دونوں سو نفل آئیں گے اور آپ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت کروا کے چلے جائیں گے۔ پھر کچھ دنوں بعد آئیں گے اور آپ کو مسجد

نبوی کی بیڑھیوں میں یا دروازے میں چھوڑ دیں گے۔ غرض اسی طرح آپ آخر چالیسویں دن فجر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں پہلی صف میں حضور کے بالکل پیچھے ادا کریں گے اور وہ دونوں منوکل آپ کے دائیں اور بائیں موجود ہوں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور بالکل آپ کے روبرو ہوں گے حضور کو آپ بہت ہی عقیدت کے ساتھ سلام عرض کریں اور جو بھی حاجت ہو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کریں۔ انشاء اللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی اور وہ دونوں منوکل بھی آپ کے تابع ہوں گے ایک دائیں طرف ہو گا اور ایک بائیں طرف۔ آپ کو ان دونوں منوکلوں کی موجودگی کا ہر وقت احساس ہو گا۔ دیگر اسی عمل کے دوران کسی بھی دن اگر کوئی بزرگ حاضر ہوں اور آپ سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو بزرگ تین مرتبہ پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاء اللہ وہ حاجت اور چیز آپ کو ملے گی۔

حاضرات

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ وَأَنَا الْمَحْفُوظُ فَمَنْ يَدْوَعُ
الْمَجْرُوحَ إِلَّا الْحَافِظُ يَا رَبَّ يَا رَبَّ يَا رَبَّ ۝

طریقہ :- جمعرات کی رات سے بعد از نماز عشاء کلمات عمل کو گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے کسی نابالغ بچے کے دونوں ہاتھوں پر کوئی سی بھی کالی سیاہی لگائیں یعنی ہاتھ سیاہ کر دیں اور مندرجہ بالا عزیمت اکیس بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور اکیس بار مندرجہ بالا عزیمت گز پر پڑھ کر بچے کے منہ میں ڈال دیں اور پھر معروف طریقہ سے حاضرات کریں انشاء اللہ سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔

اس حاضرات کو اسی طریقے سے بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ جب حاضرات ختم کرنا چاہیں تو

بچے پر درود شریف پڑھ کر پھونکیں اور حاضرات کے منوکل کو جانے کی اجازت دیں۔

حاضرات سورۃ یسین

طریقہ :- جمعرات کی رات سے سورۃ یسین پہلی بین تک روزانہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن تک ماہ محرم الحرام میں پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر آپ اس کے عال ہو جائیں گے۔ جب بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے صرف تین مرتبہ سورۃ یسین بین تک پڑھیں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں ہر قسم کی تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات بڑوں اور چھوٹوں پر یکساں کار آمد ہے اس حاضرات کو بڑوں پر اور شیشہ پر پانی پر اندازہ پر غرض ہر طریقے سے حاضرات استعمال کر سکتے ہیں۔

حاضرات آیت الکرسی حضوری (خود)

طریقہ :- جمعرات کی رات سے آیت الکرسی روزانہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم تک پڑھیں۔ پھر آپ اس کے عال بن جائیں گے جب بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے معروف طریقہ سے حاضرات کریں۔ اگر آئینہ پر حاضرات کرنی ہو تو صرف گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آئینہ پر دم کریں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات کو آپ بڑوں اور بچوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو حاضرات کا آسان طریقہ یہ ہے ایک چھوٹی نیلے رنگ کی شیشی لیں اب اس شیشی میں تین بار درود شریف اور تین بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں تقریباً دس منٹ تک شیشی کو غور سے دیکھیں اگر دیر ہو تو دو تین مرتبہ آواز لگائیں۔ منوکل جلد حاضر ہو منوکل فوراً حاضر ہو گا پھر سوال و جواب کریں اسے قابو میں رکھنے کے لئے

بعد نماز عشاء تین بار آیت الکرسی شیشی پر پڑھ کر دم کر کے شیشی کو بند کر دیں۔ اس حاضرات کو بوڑھا جوان مرد عورت بچے سب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت الکرسی کی حاضرات سے مرض کا پتہ لگانا۔ چور کا پتہ لگانا۔ آسب اور سحر کا پتہ لگانا۔ آسب کو قید کرنا۔ سحری اثرات کیسے ختم ہوں گے اس کی معلومات کرنا غرض ہر قسم کے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست و مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

مندرجہ ذیل آیت کو ایک سفید کانڈ پر لکھیں اور اچھی طرح معطر کر دیں۔ عامل اور معمول دونوں با وضو ہوں اب اس نقش کو سینہ سے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر لیں اور انگوٹھے کے ناخن پر کابل لگا کر عطر لگا کر فور سے دیکھنا شروع کریں تقریباً ۵ منٹ بعد منوکل حاضر ہو گا۔ سوال و جواب کریں انشاء اللہ ہر قسم کے سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔ اس حاضرات کو قابو رکھنے کے لئے بعد نماز عشاء اتالیس بار روزانہ عمل کو پڑھنا ہے اول و آخر تین بار درود شریف پڑھیں۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ طَظَهَ طَسَ طَسَمَ
كُهَيْعَصَ يَسِينِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. حَمَعَسَقَ نَ
وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝

حاضرات

مندرجہ ذیل حاضرات نابالغ بچے اور بچی دیکھ سکتے ہیں اس حاضرات سے گشودہ کا پتہ لگانا امراض کا معلوم کرنا چوری کا پتہ لگانا سحری اثرات اور مکان میں آسب اثرات کا پتہ لگانا۔ بھاگے ہوئے شخص کا پتہ لگانا کہاں اور کس جگہ ہے وغیرہ وغیرہ غرض اس حاضرات سے

آپ کو ہر قسم کی مدد ملے گی۔ مندرجہ ذیل نقش کو ایک بڑے کانڈ پر لکھیں اور جہاں سیاہ نشان لگا ہے بچہ وہاں نگاہ جما کے رکھے پہلے بچے پر تین مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور نقش کو عطر سے معطر کر لیں۔

يَا اللّٰهُ يَا حَيُّ ۷۸۶ يَا قَيُّوْمُ يَا مُحَمَّدٌ

۲۳۲	۲۳۵	۲۳۸	۲۳۵
۲۳۷	۲۳۶	۲۳۱	۲۳۶
۲۳۷	۲۵۰	۲۳۳	۲۳۰
۲۳۲	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۹

يا حسين

يا حسن

يا علي يا غوث الاعظم دستگیر يا فاطمہ

نوٹ :- آسب معاملات میں مشکلات ہوں تو غوث پاک کے حضور میں منوکل بھیج کر اپنا سلام پیش کریں اور غوث پاک سے لشکر طلب کریں مدد ملے گی۔

خضر علیہ السلام کے نام کی نیاز دلائیں اور برنی معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔ پھر جب کبھی حاضرات کرنی ہو تو عمل بالا کو صرف اکیس مرتبہ پڑھیں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑوں پر حاضرات کرنی ہو تو پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر معمول کی آنکھیں بند کروائیں اور مذکورہ بالا عمل کو اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ حاضرات کرنی ہو تو شیشہ پر عمل کو پڑھ کر دم کریں۔ غرض یہ حاضرات بڑے اور بچوں پر بھی کی جاسکتی ہے اور اس حاضرات کو آپ ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حاضرات میں سر تاج و چوٹی کا عمل ہے۔

حاضرات حضوری (خود)

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ وَأَنَا الْمَحْفُوظُ فَمَنْ يَدْعُ
الْمَحْفُوظَ إِلَّا الْحَافِظُ ۝ يَا حَافِظُ يَا حَافِظُ يَا
حَافِظُ

طریقہ :- مندرجہ بالا عمل کو بہتر مرتبہ گیارہ دن پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھیں اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی نصیب فرما پھر دو نفل نماز شکرانہ ادا کریں۔ جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے ایک بڑا آئینہ لیں اور مندرجہ بالا عمل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر آئینہ پر دم کریں۔ تھوڑی سی دیر میں انشاء اللہ حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے ہر امور کے بارے میں عمل درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات بڑوں اور چھوٹوں پر یکساں کار آمد ہے اس حاضرات کو آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے حاضرات کریں انشاء اللہ ہر سوال کا جواب سو فیصد درست ملے گا۔ یاد رکھیں! عملیات کی دنیا میں کامیابی کے لئے تین چیزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔

(1) قوت ارادی (2) یکسوئی (3) اعتقاد۔ اگر اعتقاد نہیں ہے تو عمل ناکام رہے گا۔ سمجھ کر عمل کرنا کہ میں تجربہ کر رہا ہوں کہ عمل غلط ہے یا صحیح تو عمل میں کامیابی غیر یقینی ہے کیوں کہ یہ حکمت، طب یا کیمیاگری کا نسخہ نہیں کہ تجربہ کیا جائے تو سو فیصد یقینی کامیابی ہوگی عمل کو کبھی تجربہ کے طور پر نہ آزمائیں ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔


گزشتہ اوراق میں میں نے کئی رباعیاں اور اذکار لکھے ہیں جو کہ حاضرات کو سو فیصد کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ قارئین کرام میں نے حاضرات میں کافی تکنیک اور نئی جدت پیدا کی ہے ایسے ایسے اعمال لکھے ہیں جو اساتذہ اپنے سینوں میں لیجاتے تھے اور ہوا تک لگنے نہ دیتے تھے لیکن میں نے بغل کے کفر کو توڑ کر ایک نئی مثال قائم کی ہے۔

پریوں کی حاضرات

ترکیب :- داہنی آنکھ ہد کی اور داہنی آنکھ گرگ کی دونوں کو سکھا کر پانی میں پیو اور بوقت غروب آفتاب اپنی آنکھ میں لگاؤ تو پریوں سے ملاقات ہوگی اور ہر طرح کی مراد حاصل ہوگی۔ رخصت کرنا چاہو تو سات بار سورۃ الحمد اور سات بار آیت الکرسی پڑھ کر رخصت کرو غائب ہو جائیں گی۔

حاضرات

شمال



طریقہ :- گیارہ سو بار نوچندی جمعرات سے گیارہ دن مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود انیم پڑھیں۔ درود شریف یہ ہے الصلوة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَالِيكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ۝ جب بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے نقش کے سیاہ نشان میں غور سے خود دیکھیں اور مندرجہ بالا درود شریف کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ تمام احوال سیاہ نشان میں

طریقہ :- سیاہ خانہ میں عطر لگائیں اور گیارہ بار اسم شَرَنْطِیخ پڑھ کر سیاہ خانہ میں پھونکیں۔ پھر دس گیارہ سال کے بچے کے گلے میں گلاب کا ہار ڈالیں اور اسے سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر شَرَنْطِیخ بلا تعداد پڑھ کر پھونکتا رہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو اس وقت تک اسم بلا کو پڑھتا رہے۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے ہر مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات

کالی سیاہی سے درج ذیل نقش لکھ کر نابالغ لڑکے یا لڑکی کے ہاتھ میں دیں اور مٹھی بند کرادیں۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
محمّد محمد محمد
یا اللّٰه یا اللّٰه یا اللّٰه
محمّد محمد محمد

یہ نقش بچے کی مٹھی میں دے کر مندرجہ ذیل عزیمت تین بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور کہیں کہ بزرگ محمد و قاسم صاحب کے دوست حاضر ہو۔ اسی وقت حاضری ہو جائے گی۔ سوال و جواب لے کر شکر یہ کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اگر جی سلگائیں۔ شرنی رکھیں۔ جگہ اور بچہ پاک و صاف ہو۔

عزیمت جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ حَسْبِيَ رَبِّي يَا
اللّٰه مَا فِي قَلْبِي خَيْرَ اللّٰه نُوْرٌ مَّحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَلِيْقًا عَلِيْقًا
طَلِيْقًا طَلِيْقًا طَلِيْقًا مَخْلُوْقًا مَخْلُوْقًا مَخْلُوْقًا
شَافِيًا شَافِيًا شَافِيًا اِرْتَضَى بِحَقِّ اَسَانَا سَانَا
سَالُوْسًا

نایاب حاضرات

طریقہ :- ایک پاک صاف نابالغ بچے کی ہتھیلی پر خاتم غزالی لکھ کر لوہان اور گول کی دھونی روشن کر کے بچے کی ہتھیلی کو دھونی کے دھوئیں کے مقابل کر کے دعائے برہتی پڑھتا جائے اور منوکلات کو حکم دے کہ ہتھیلی کی انگلیاں متفرق کر دیں۔ جب انگلیاں الگ الگ دکھائی دیں تو ان کو حکم دے کہ ہتھیلی سر پر رکھ دے۔ جب یہ کام بھی منوکل کر دیں تب ان سے کہے کہ اس بچے میں طول کرو اور بچے کو بغیر تکلیف کے زمین پر لٹا دو۔ بچہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا۔ اس وقت بچے پر ایک سفید چادر اوڑھادیں۔ پھر بچے کی طرف خطاب کر کے اسماء عمد یعنی دعا برہتی پڑھ کر یہ آیت پڑھے۔

وَقَالُوْا بِجَلُوْدِهِمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنْطَقْنَا
اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ اَنْطَقَ اَيْهَا الرُّوْحُ بِحَقِّ الَّذِي
اَنْطَقَ النَّمْلَةَ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَنْطَقَ
عِيْسَى فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

مندرجہ بالا کلمات کو برابر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ بچہ بولنے لگے۔ اس وقت جو کچھ دریافت کرنا ہو اس سے دریافت کریں۔ سو فیصد درست جواب دے گا۔ مثلاً غائب یا مسافر یا خزانہ معلوم کرنا۔ دو لشکروں میں یہ معلوم کرنا کہ کس کی فتح یا کس کی

گھلت ہو گی۔ یا کسی بیمار کا مرض یا دوا معلوم کرنا۔ گویا جو بھی سوال شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو گے اس کا فوراً جواب دے گا۔ جو کچھ معلوم کرنا ہو دریافت کریں۔ بچے فوراً جواب دے گا۔ جب حاضرات سے فارغ ہو جاؤ تو منوکل کا شکر یہ ادا کر کے اور بچے پر دعائے برحق سات بار پڑھ کر رخصت کر دیں۔ بچے ہو شیار ہو کر اٹھ بیٹھے گا۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ اپنا دامن خوشیوں و موتیوں سے بھر لے گا۔

خزانہ معلوم کرنا

اگر زمین میں خزانہ معلوم کرنا ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایسے درخت کی لکڑی لیں جس میں اس وقت تک پھل نہ لگا ہو۔ اس لکڑی پر خاتم غزالی کے حروف اور سات حروف حسان لکھیں۔ پھر جس جگہ خزانہ کا خیال ہو وہاں اس لکڑی کو ڈال دیں اور خشک دھنیا آگ پر روشن کریں اور اکیس بار دعوت برحق کو پڑھو اور ہر بار منوکل کا حکم کرو کہ اس لکڑی کو خزانہ کی جگہ کھڑا کر دیں۔ منوکل انشاء اللہ ایسا ہی کریں گے۔ تم وہاں سے خزانہ نکال لو اگر خزانہ نکالنے میں کوئی مانع یعنی جن وغیرہ درپیش ہو تب لوہان ذکر سیاہ روشن کرو اور دعائے برحق پڑھ کر منوکل کو اس کے مانع کے دفع کرنے کا حکم دو۔ پس ہر قسم کا مانع دفع ہو گا اور خزانہ نکالنے میں کوئی دقت نہ ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ خزانہ نکالنے پر صدقہ خیرات شرعی طریقہ سے ادا کریں ورنہ نقصان جان و مال دونوں کا ہو گا۔

بچے کی ہتھیلی پر جو خاتم غزالی لکھی جائے گی وہ یہ ہے۔

۷۸۶

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	ح

دعائے برحق یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ
اٰتِیْهَا الْاٰرَواْحُ الرَّوْحٰنِیَّةُ الْعَلِیُّوْتَةُ وَاسْفَلِیَّةُ وَخَدَامُ هٰذِهِ
الْعَهْدِ الْكَبِیْرَانِ تَجِیْبُوْا دَعْوَتِیْ وَتَقْضُوْا حَاجَتِیْ بِعِزِّهِ
بِرَهْتِیَّةِ كَرِیْمَةٍ تَسْلِیَّةِ طُوْرَانِ مَزْجِلٍ بِزَجِلٍ تَرْقِیْبٍ بِرَهْشِ
عَلْمِیْشِ خُوْطِیْرِ قَلْنَهُوْدٍ بِرَشَانِ كَطْهَیْرِ نَمُوْشَلِیْخِ
بِرَهْیُوْلًا بِشَكِیْلِیْخِ قَزْمِزِ الْغَلَلِیْطِ قَبْرَاتٍ غِیَاہَا
كِیْدَهُوْلًا شَمَخَاہِرِ شَمَخَاہِرِ شَمَهَاہِرِ بِحَقِّ هٰذَا
الْعَهْدِ الْمَاخُوْذِ عَلَیْكُمْ یَا خَدَامَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ الْاَنْقِیَادِ
فِیْ مَا اَمْرُكُمْ بِہِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْمُعْتِزِّ فِیْ عِزِّعِزِّہِ وَ
اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاہَدْتُمْ اِلَیْ قَوْلِہِ كَفِیْلًا وَبِحَقِّ الَّذِیْ
لِیْسَ كَمِثْلِہِ شَیْئِیْ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اَحْضَرُوْ
اَحْضَرُوْا السَّاعَةَ وَاسْمِعُوْا وَاَطِیْعُوْا وَاَعُوْا اَعُوْا لِیْ عَلٰی
جَمِیْعِ مَا اَمْرُكُمْ بِہِ (یہاں اپنی مابت کا نام لیں) بِحَقِّ اِسْمِ اللّٰهِ
الْاَعْظَمِ اِحْتَرَقْ مَنْ عَصٰی اَسْمَاءَ اللّٰهِ نَبَارِ الْمُوْقَدَةِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ هٰذِهِ الْاَسْمَاءُ الَّتِیْ عَاہَدْتُمْ بِہَا عِنْدَ
بَابِ الْهَیْکَلِ الْكَبِیْرِ وَ بِحَقِّ اٰهْیَا اِشْرَهْیَا اَذُوْنِیْ
اَصْبَاوْتُ اِلَ شِدَاۤیْ وَاِنَّہٗ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُوْنَ عَظِیْمٌ الْوَحَا
الْوَحَا الْعَجَلُ الْعَجَلُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بَارِکَ اللّٰهِ فِیْكُمْ
وَ عَلَیْكُمْ۔

نوٹ :- اس حاضرات کی خوبیاں و قدر و منزلت احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس حاضرات کو اگر کشف کہا جائے تو بجا ہو گا کیونکہ اس حاضرات سے آپ دنیا کے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست جوابات معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ

حاضرات کسی معجزہ و کرامت سے کم نہیں۔ اس کی سچائی و خوبیاں حاضرات کرنے پر معلوم ہوں گی۔

حاضرات بر آئینہ

يَا اِلٰهِي بِحُرْمَتِكَ كُنْ كُنْ فَيَكُونُ فَتَحْ بَرَبِ
الْاَخْسَانِ خَالِقِيْنَ مُسْتَحِيْدًا بِحَقِّ حَضْرَتِ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

طریقہ :- اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف۔ 742 بار گیارہ یوم
مندرجہ بالا عزیمت۔ پر صیر جلالی و جمالی۔ شیشہ نیا اور کمرہ بند۔

نوٹ :- عمل کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیاز دلا کر تقسیم
کردیں۔

جب کبھی حاضرات کرنی ہو تو مندرجہ بالا عمل کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر شیشہ
پر دم کریں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں اور خود شیشہ میں حاضرات کا
مشاہدہ فرمائیں۔ یہ حاضرات بڑوں اور بچوں پر بھی کی جاسکتی ہے۔

حاضرات سورہ الحشر

طریقہ :- سب سے پہلے کسی بچے کی ہتھیلی پر سیاہ نشان لگائیں اور اسے
سیاہ نشان میں دیکھنے کو کہیں۔ آپ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تین مرتبہ آیت الکرسی
پڑھ کر سات بار یہ آیت بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور اس پر پھونکیں۔ جب تک
بچے کے سر پر ہاتھ رہے گا اس وقت تک حاضرات جاری رہے گی۔ جب سر پر سے ہاتھ
ہٹالیں گے حاضرات بند ہو جائے گی۔ آیت یہ ہے۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَّصِدًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَفَرْتُهَا

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۗ بِحَقِّ كَهَيْعَتِصْ يَا صَادِقِ
(سورہ الحشر۔ پارہ 28)

بے مثل حاضرات

طریقہ :- کمرہ صاف ستھرا ہو۔ اگر بتیاں سلگائیں اور ایک بچے کو سیاہ
خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور آپ عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور یہ
عزیمت پڑھ کر پھونکیں۔ جب تک حاضرات نہ کھلے اس وقت تک برابر پڑھتا رہے۔

۷۸۶

۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱

عزیمت یہ ہے۔

اَبِسْمِ اللّٰهِ جَا بِسْمِ اللّٰهِ حاضرات کو جلد گھیر
گھار کے لا بِسْمِ اللّٰهِ

چند ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے
بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات چڑی

جب کبھی حاضرات کی ضرورت ہو تو کسی بچے کے دائیں انگوٹھے پر کھال
لگائیں اور تھوڑا سا عطر بھی لگائیں تاکہ چمک پیدا ہو۔ مندرجہ ذیل عزیمت 21 بار پڑھ
کر بچے پر دم کریں اور اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں۔ اس حاضرات سے

آپ ہر قسم کے سوالات کے جوابات سو فیصد درست معلوم کر سکتے ہیں۔

عزیمت یہ ہے۔

کالی چڑی کُل چڑی کالا پھل کھائے۔
مَحَمَّد ﷺ کی برکت سے حاضرات دکھائے۔

بِحَقِّ كَهَيْعَصَ يَا صَادِق۔

توشہ :- 3 عدد گلاب کے ثابت پھول ایک پاؤ برفی چند عدد اگر بتیاں وغیرہ سلگائیں۔ بعدہ حاضرات کریں۔ بغیر توشہ کے حاضرات نہیں کھلے گی لہذا توشہ لازمی رکھیں۔

جنات کا مشاہدہ کرنے کی

نایاب حاضرات

اجزاء :- سیاہ مرغی کا پتہ۔ سیاہ بلی کا پتہ۔ سرمہ سیاہ تینوں کو عرق گلاب میں کچھ پختہ منازل قمری نثرہ کی ساعت میں کھل کریں اور فجر کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ الْعَلِيْمُ الْوَنِيَابُ پڑھ کر طلوع شمس سے قبل اس سرمہ کو آنکھوں میں لگائیں تو " ارواح روحانی " نظر آئیں گی جو سوال کریں گے بالمشافہ جواب ملے گا۔ سرمہ کو بچوں اور بڑوں سب سے چھپا کر رکھیں۔ کیونکہ انجان آدمی اگر یہ سرمہ استعمال کرے گا تو اس کے پاگل ہونے کا خدشہ ہے۔ سو فیصد درست و آزمودہ عمل ہے۔

حاضرات غوث الاعظم

جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو کسی بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اور مندرجہ ذیل عزیمت 101 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس حاضرات سے آپ ہر مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

عزیمت یہ ہے۔

لا الہ دی کنجیاں الا اللہ دے تیر
حاضرات دکھاؤ یا غوث الاعظم دیکھیر
بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ

حاضرات شاہ نور

الف سے اللہ م سے محمد ﷺ ع سے علی ﷺ
حاضرات دکھاؤ حضرت شاہ نور ولی
بحق کھيحص يا صادق

کسی نابالغ بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اگر بتیاں وغیرہ سلگائیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر مندرجہ بالا عزیمت 101 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور بچے کو ناخن میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا۔ جس سے آپ ہر مشکل امور کے بارے میں سو فیصد معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات جلوہ طور

جلوہ طور برق نور
محمد ﷺ کی برکت سے حاضرات دکھاؤ اہل نور
بحق کھيحص يا صادق

کسی نابالغ بچے کے دائیں انگوٹھے پر کاجل لگائیں اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر مندرجہ بالا عزیمت 101 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور بچے کو ناخن میں دیکھنے کو کہیں۔ تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا۔ جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں سو فیصد معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات شیر

یا علیؑ شیر حاضرات کو لاؤ گھیر

یا قوی قادر حاضرات کو جلد کر حاضر

بحق لاله الا الله محمد رسول الله

طریقہ :- اگر بتیاں سلگائیں۔ کمرہ صاف ستھرا ہو۔ حامل اور بچے دونوں

پاک و صاف ہوں۔ چند عدد گلاب کے پھول اور ایک پاؤ تازہ برنی رکھیں۔ کسی نابالغ لڑکے کے دائیں انگوٹھے پر کاہل لگائیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر مندرجہ بالا عزیمت 101 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں اور اسے سیاہ انگوٹھے میں دیکھنے کو کہیں۔ چند ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو گا۔ جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حاضرات سے غیر شرعی سوال مت کریں ورنہ نقصان کا احتمال ہو گا۔ حاضرات ختم کرنے کے بعد برنی معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔

حاضرات غازی

سلطان الغازی شاہ عبدالکریم جنتی کی

دعوت

یہ حاضرات نہایت عمدہ و تجربہ رسیدہ ہے۔ چاہیے کہ تمام شرائط و ترک حیوانات مطلق سے زکوہ اسم اعظم کی ادا کرے۔

شب پنجشنبہ سے عمل شروع کریں۔ پہلے فاتحہ حضور سید یوم الشوریٰ ﷺ جناب غوث الصمدانی قطب ربانی سید عبدالقادر جیلانیؒ کی دے کر شرعی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ ہر شب 115 بار پڑھا کریں۔ پندرہ شب میں انشاء اللہ عمل تمام ہو گا اور نقش جو

آتش کی بھی زکوہ صغیرہ کبیرہ ادا کریں کہ بغیر زکوہ کے کماحقہ تاثیر نہیں ہوتی۔

زکوہ صغیرہ یہ ہے کہ پندرہ روز تک ہر نقش جو کو 41 مرتبہ جو کا بخوردے کر لکھا کریں۔ نقشوں کو الگ الگ آرد گندم خمیرہ کردہ میں غلول کر کے آب رواں عمیق میں چھوڑ دیں اور پھیلیوں کو ڈال دیں۔
نقش جامع منوکل یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۲	۹	۴

بناؤ حاضرات کو


زکوہ کبیرہ اس نقش کی یہ ہے کہ پندرہ روز تک ہر روز 101 مرتبہ لکھا کریں۔
بعد زکوہ ہر روز تین مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 15 مرتبہ لکھا کریں۔

اسم اعظم حاضرات کہ یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمْتُ وَأَسْلَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا
سُلْطَانَ الْجِنِّ الْغَازِي مَوْلَانَا عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ زَيْبِرِ
بِحَقِّ رَبَّنَا وَرَبِّكُمْ وَرَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
وَعِزْرَائِيلَ وَدَفْتَمَائِيلَ وَتَنَكْفِيلَ وَلَوْ مَائِيلَ وَبِحَقِّ
عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ بِحَقِّ دِينِ مُحَمَّدٍ
مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضَرُوا مَعِ
جَيْشِكَ يَا أَيُّهَا السُّلْطَانُ بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ شَيْئِشَاهِ مُوَكَّلَاتِ وَبِحَقِّ شَاهِ
مُحَمَّدِ عَزِيزِ الدِّينِ قَادِرِي بِحَقِّ يَابُدُّوْحِ يَابُدُّوْحِ
الْعَجَلِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ

حاضرات

شَمَّحِيَالِ حَالِ إِسْرَافِيلَ مَلُومَائِيلَ مَيِّطَطْرُونَ
تَوَاكَلُويَا حُدَامَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ



طریقہ :- مندرجہ بالا نقش و عزیمت لکھ کر بچے کے ہاتھ میں دے کر مٹھی بند کرائیں اور بچے کے ناخن پر کاجل لگا کر بچے کو کہیں کہ وہ اسے غور سے منگنی باندھ کر دیکھتا رہے۔ چند ثانیہ کے بعد حاضرات شروع ہو جائے گی۔ بچے پر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر پھونکیں اور مندرجہ بالا عزیمت سات یا گیارہ بار پڑھ کر پھونکیں۔ عامل بننے کے لئے عزیمت کو روزانہ 1100 بار 21 یوم تک پڑھیں۔

حاضرات بکتانوش

یہ عمل تمام حاضرات کے عملوں کا سر تاج عمل ہے۔ اس عمل کی بدولت احوال چور مع نام و نشان، احوال گمشدہ مع نام و پتہ، احوال ماضی و حال مع سرگزشت، شفاء امراض، ہر قسم کے لاعلاج امراض کے دفعہ، دفع آسیب و دیو پری و کیفیت اقلح و شر و موضع و صفائی قلب و توجہ، فتح و شکست، منڈی کے اتار چڑھاؤ کے بھاؤ، نفع و نقصان، دینہ اور حالات با آسانی معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

حاضرات الارواح کا علم بہت پرانا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ معمولی بھی اور مشکل بھی۔ عام بھی اور مخفی بھی۔ ان تمام طریقوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی بھی غیر مرئی مخلوق مثلاً جن، بھوت، پریت، پری، مَوکلات یا انسانی ارواح کو حاضر کر کے ان سے بات چیت کرنا اور استفادہ حاصل کرنا یا کسی انسان کو تکلف دینے سے دفع کرنا اگر

ضد کرے تو بھگا دینا یا جلا دینا۔

چونکہ انسان خاکی ہے اس کی قوتیں محدود ہیں اس لئے وہ ان قوتوں سے کام لینا چاہتا ہے جن کے ہاں وقت اور فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور جن کی اور ان کی قوتیں انسان سے زیادہ بیدار ہیں۔

حاضرات الارواح کا علم ایسا ہے کہ ہر شخص دلچسپی لیتا ہے اور اس کے لئے غایت درجہ بے قرار رہتا ہے۔ بہر حال ارواح سے بات چیت تین طرح سے ہوتی ہے۔

- 1 :- تحریری۔
- 2 :- سمعی۔
- 3 :- بصری۔

پہلے طریقہ میں لکھ کر جواب آتا ہے۔ دوسرے میں آواز سنائی دیتی ہے اور تیسرے میں روح نظر آتی ہے اور بالمشافہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ سمعی و بصری حاضرات میں قوت برداشت اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ عامل متاثر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ضبط کا یارانہ نہیں رکھتے وہ روز مرہ کے معمول کی تمام کوتاہیاں غلطیاں اور نقصان کی وجہ عمل کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ قطعی غلط ہے کہ روح تکلیف دیتی ہے۔

اس عمل کی زکوہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک صغیر اور دوسرا کبیر۔

صغیر طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 101 بار روزانہ 41 دن تک پڑھیں اور کبیر طریقہ کی زکوہ میں بعد نماز عشاء گیارہ سو 41 دن تک پڑھیں آپ عامل ہو جائیں گے۔ بعد عمل روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ عمل قابو میں رہے۔ عمل یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَادِشَاهُ بَكْتَانُوشَ مَلِكُ
الْجَشِّ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ الْبُوحَا الْبُوحَا الْبُوحَا. أَبُوكَ أَبُوكَ
أَبُوكَ. طَهْرَكَ طَهْرَكَ طَهْرَكَ. جَبْرَكَ جَبْرَكَ جَبْرَكَ.
أَزَلِ أَزَلِ أَزَلِ. تَحْرِيرُ تَحْرِيرُ تَحْرِيرُ. أَتَزَلِ مَمْلُوكَكَ.

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامِ بِحَقِّ يَا بُدُوْح (3 بار) حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ
حَاضِرْ شَوْ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ بِحَقِّ
تَوْرِيْتٍ وَبِحَقِّ انْجِيْلٍ وَبِحَقِّ زُبُوْرٍ وَبِحَقِّ فُرْقَانٍ بِحَقِّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

طریقہ :- جب حاضرات کرنا چاہیں تو ایک نابالغ بچہ جس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ شرارتی بھی نہ ہو۔ عمل کرنے سے پہلے بچے کو غسل دے کر اپنے سامنے بٹھائیں پھر اس کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر کاہل لگائیں۔ پھر اس میں عطر لگائیں اور بچے کو کہیں کہ غور سے نظر جما کر اپنے ناخن میں دیکھو۔ کرہ خوشبو سے معطر ہو۔ عامل خود بھی پاک و صاف ہو۔ عمل کے وقت اندر باہر آمد و رفت کی ممانعت کر دیں۔ یکسوئی و خاموشی ہونا لازمی ہے۔ بچے کے پاس بیٹھ کر چند بار عزیمت پڑھیں۔ حاضرات فوراً کھل جائے گی۔ جب حاضرات کھلے گی تو بچے کو زمین یا میدان نظر آئے گا۔ پھر کچھ آدمی نظر آئیں گے۔ جب آدمی نظر آئیں تو ان آدمیوں کے ذریعے زمین خوب صاف کروائیں اور چھڑکاؤ کروائیں۔ دریاں بچھوائیں۔ جب بچہ بتائے کہ سب سلمان درست ہو گیا ہے تب عامل کی ہدایت پر بچہ کہے کہ جس بادشاہ کا آج کے روز عمل ہے حاضر ہو۔ بادشاہ کے آنے کے بعد ان آدمیوں کے ذریعے ایک بکرا منگوا کر ذبح کروا کر پلاؤ پکوائیں اور بادشاہ کو دعوت دیں۔ بعد ازاں اپنا مدعا بیان کریں اور سوالات کے جوابات لیں۔ جب سوالات مکمل ہو جائیں تو باادب اجازت طلب کریں اور عمل کو ختم کریں۔

یاد رکھیں کہ حاضرات میں تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یکسوئی کا ہونا لازمی ہے۔ شروع میں بعض اوقات حاضرات جلدی نہیں کھلتی اس لئے گھبراتا نہیں چاہیے جب عامل عمل میں ماہر ہو جاتا ہے تو جہاں جی چاہے حاضرات کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روجوں سے عاجزی و انکساری اور پریم سے پوچھیں۔ اگر آپ نے اس نقطہ کو سمجھ لیا تو سب کچھ پالیا۔ یاد رکھیں کہ قتل اوٹ پہاڑ ہے۔

حاضرات

ی ع م ب ر ص ل ان ا ہ ف ق ک ل ذ ی ع ل ع ل ی م

طریقہ :- سب سے پہلے مندرجہ بالا عزیمت کی زکوہ ادا کریں۔ یہ عزیمت ل م پر ختم ہوتی ہے۔ عزیمت یہ ہے۔

عَزَمْتُ وَاقْسَمْتُ يَا خُدَّامَ هَذَا الْحَرُوفِ يَا - عَيْن -
مِيم - با - را - صاد - لام - الف - نون - الف - با - فا - قاف -
کاف - لام - ذال - یا - عین - لام - عین - لام - یا - میم - بحق
یا علیم -

اس عزیمت کو عامل 150 بار روزانہ 23 دن تک پاک و صاف باوضو چراغ کے سامنے پڑھے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے۔ دوران عمل اگر بتی وغیرہ سلگائے۔ پھر روزانہ 23 دفعہ پڑھے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ بعدہ عمل شربی معصوم بچوں میں تقسیم کرے۔

جب کبھی حاضرات کرنا چاہیں تو ایک طفل نابالغ جس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہ ہو اسے چراغ کے سامنے بٹھائیں اور مندرجہ بالا عزیمت تین یا سات بار پڑھ کر بتائے پر دم کر کے بچے کو کھلائیں اور عامل چراغ کی روشنی میں عمل کو پڑھے اور بچے کو چراغ کی لومیں دیکھنے کو کہے۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح عمل جاری رکھے۔ تھوڑی دیر میں لڑکے کی آنکھوں سے ایک دم پردہ حجاب اٹھ جائے گا۔ پہلے ایک وسیع میدان نظر آئے گا پھر ایک خاکروب یعنی بھٹی صفائی کرتا ہوا دکھلائی دے گا پھر متہ چھڑکاؤ کر کے چلا جائے گا۔ فرش وغیرہ بچھوائیں۔ جب بچہ بتائے کہ سب سلمان درست ہو گیا ہے تب عامل کی ہدایت پر بچہ کہے کہ شاہ جنات عبداللہ آکر اس تخت پر رونق افروز ہوں۔ پھر عامل اس

لڑکے کی معرفت شہنشاہ جنات عبداللہ کو بڑے ادب سے السلام علیکم عرض کرے۔ پھر شہنشاہ جنات کی طرف سے جواب سلام موصول ہونے پر اپنے مدعا بیان کریں اور جواب لیں۔ جب سوال مکمل ہو جائیں تو باادب اجازت طلب کریں اور شکریے کے ساتھ عمل کو ختم کریں۔

روحانی حاضرات

اس عمل کی اجازت ان ہی لوگوں کو ہے جو صوم و صلوة کے پابند ہوں اور ناجائز طریق پر اس کا استعمال نہ کریں نیز جو امور خفیہ اس میں ظاہر ہوں وہ کسی پر ظاہر نہ کریں اور نہایت احتیاط کریں۔ غیر شرعی کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں ورنہ سخت نقصان کا خوف ہے۔ یہ بچوں کا کھیل اور مداری کا تماشہ نہیں جیسا عام طریق پر لوگ بازاروں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔

پہلے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں۔ طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ اول گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب روح اقدس جناب مولا علی علیہ السلام مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سلطان اولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر پہنچا کر یہ عمل یا علی علیہ السلام ایک بار پڑھیں پھر گیارہ بار درود شریف۔ بس اس طرح زکوٰۃ مکمل ہوئی۔ شرعی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب آپ اس عمل کے عامل ہیں۔

عمل پڑھنے کی جگہ پاک و صاف ہو اور تمنائی ہو۔ خوشبو جلائیں تو بہتر ہے۔ اب جس معاملہ میں کوئی بات معلوم کرنا ہو تو ایک لڑکے یا لڑکی کو جس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہ ہو اسے اپنے سامنے بٹھائیں اور داہنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس کے انگوٹھے کے ناخن پر یا علی علیہ السلام لکھو اور کافور جلا کر اس سیاہی کو عطر میں ملا کر اس کے انگوٹھے کے ناخن پر لگا دو۔ یہ سیاہی پہلے سے تیار کر کے کسی ڈبیہ میں اپنے پاس رکھو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کافور کو ایک لوہے کے برتن یا اسٹیل کے برتن میں رکھ کر آگ لگا دو پھر اس کافور کے اوپر ایک پلیٹ رکھو تاکہ اس کا دھواں پلیٹ کے اوپر جمع

ہو جائے۔ پھر اس میں روغن چینیلی ڈال کر انگلی سے حل کرو اور اس میں عطر گلاب ڈال دو۔ پھر ایک ڈبیہ یا پیالہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے یا علی علیہ السلام لکھو پھر کسی بچے سے کہو کہ دیکھو پیالہ میں روشنی نظر آتی ہے۔

حاضرات شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا علی علیہ السلام پڑھ کر دم کریں۔ تھوڑی دیر میں پیالہ میں حاضرات کا نزول ہو گا اور اگر انگوٹھے پر حاضرات کرنا ہو تو انگوٹھے پر سیاہی لگائیں اور مذکورہ بالا طریقہ پر یا علی علیہ السلام پڑھ کر دم کریں اور معمول سے معلوم کرو کہ کیا نظر آتا ہے۔ عمل میں پہلے دو تین مرتبہ کچھ عجائبات نظر آئیں گی۔ بعد ازاں معمول کو صاف طور پر اس عمل کے مٹوکل نظر آئیں گے۔ معمول انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا رہے۔ جب معمول کے کہ مجھے کوئی مٹوکل نظر آ رہا ہے تو معمول اس مٹوکل کو باادب سلام عرض کرے اور بادشاہ سلامت کو بلوائے پھر اپنا مدعا بیان کرے۔ عامل معمول کے وساطت سے جو دریافت کرے گا انشاء اللہ سو فیصد درست جواب ملے گا۔ بیک وقت تین سوال سے زیادہ نہ کریں۔ بعدہ شکریہ کے ساتھ اجازت دیں۔

عجیب حاضرات

یہ عجیب و غریب حاضرات ہر کام میں مدد دیتی ہے۔ اس حاضرات کے مٹوکل مات متحرک قوت کے مالک ہیں جس جائز کام کے لئے کہو آنا فانا کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ہر نئے چاند کی چار تاریخ کو ہوتا ہے اور ایک دن میں صرف ایک ہی غرض کے لئے کام لیا جاتا ہے دوبارہ حاضرات کرنا ہو تو دوسرے ماہ کا انتظار کرو اور نیا نقش تیار کرو۔

طریقہ :- چاند کی چار تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے 12 بجے دن تک کسی ساعت سعد میں اس نقش کو زعفران سے سفید کانڈ پر لکھو اور نیچے جو مقصد ہو وہ لکھو اگر نقش کو حب و بغض وغیرہ میں استعمال کرنا ہو تو نیچے نام طالب مع والدہ اور نام مطلوب مع والدہ یا اگر کوئی کام یا مقصد ہو تو وہ لکھو اور اس نقش کو سامنے رکھ کر 536

بار یہ عزیمت پڑھو۔

كَالِيَّ جِزْيُ بَسْ بَهْرِي أَنْتَ فِي أَمْرِي

اور نقش پر دم کرو۔ دوسرے دن پھر اس عزیمت کو اتنی ہی مرتبہ پڑھ کر نقش پر دم کر کے رکھو۔ چار دن ایسا ہی کرو۔ اب جب کبھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو سیاہ خانہ میں بچے کو دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر صرف 21 مرتبہ مندرجہ بالا عزیمت پڑھ کر پھونکے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات و کام لے سکتے ہیں۔

نقش حاضرات یہ ہے۔

۵۲۳	۵۳۶	۵۲۱
۵۲۸	۵۲۰	۵۲۲
۵۳۹	۵۲۴	۵۳۷

حاضرات حاضرت شو حاضرت شو حاضرت شو

حاضرات

یا میکائیل

۷۸۶

یا جبرائیل

۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱

یا عزرائیل

یا اسرافیل

اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش معمول کو دے کر کہیں کہ وہ انگوٹھے میں دبا کر رکھے اور معمول کے دائیں انگوٹھے کے ناخن میں کاہل لگائیں اور تھوڑا سے عطر گلاب لگائیں اور معمول کا ناخن میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور یہ عزیمت گیارہ یا 21 بار پڑھ کر دم کرے۔

عزیمت یہ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام تجھے اللہ اور رسول اللہ کی قسم تجھے چار یاروں کی قسم۔ حضرت پیران پیران پیر کی قسم۔ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی قسم روشنی کر جو پوچھوں صحیح جواب دے۔

چند ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور و مسائل کے بارے میں سو فیصد درست جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی سوال مت کریں ورنہ نقصان کا احتمال ہے۔ بیک وقت تین سوال سے زیادہ مت کریں۔

حاضرات نقش

۷۸۶

۱۰۹۲	۱۰۸۵	۱۰۹۰
۱۰۸۷	۱۰۸۹	۱۰۹۱
۱۰۸۸	۱۰۹۳	۱۰۸۶

طریقہ :- کمرہ صاف ستھرا ہو۔ خوشبو وغیرہ لگائیں۔ عامل و معمول دونوں پاک و صاف ہوں اور دونوں کپڑوں پر خوشبو لگائیں۔ سیاہ نقش پر عطر لگائیں اور معمول کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ عامل معمول پر گیارہ بار درود

شریف اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکے۔ چند ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے اہم مسائل و امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات جنات و روحانیات کے مشاہدہ کے لئے

جو شخص جنات و روحانیات کی مخفی مخلوقات کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لئے سیاہ بلی کا پتہ اور اس کی چربی ہموزن لے کر دونوں کو سرمہ میں پیس کر فجر کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ **الْعَلِيمُ الْوَهَّابُ** پڑھ کر طلوع شمس سے قبل اس سرمہ کو آنکھوں میں لگائیں تو جنات و روحانیات کی پوشیدہ مخلوقات کا مشاہدہ ہو گا۔ (آزمودہ ہے)

مشاہدہ جنات و روحانیات کا عجیب عمل

جو شخص یہ چاہے کہ وہ جنات و روحانیات کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ بط سیاہ کو حاصل کر کے سیسے کے برتن میں ذبح کرے پھر اس کے خون و چربی کو نکال کر علیحدہ کر کے محفوظ کر لے۔ اس عمل کے بعد اس ذبیحہ جانور کو بحفاظت چینی یا تانبے کے برتن میں ڈال کر آگ پر جلانے اور اس طرح جو راکھ تیار ہو اس میں جانور مذکور کا خون اور چربی باہم آمیز کر کے خوب پیس کر خشک کر کے مس احمر کی سرمہ دانی میں رکھ چھوڑے اور بوقت ضرورت اس سرمہ کو آنکھ میں لگانے سے جنات و روحانیات کا مشاہدہ عمل میں آئے گا۔ (آزمودہ است)

دخندہ کے ذریعہ عمل مشاہدہ جنات و روحانیات

چرائیہ خون کو تر، بھیڑیے کی چربی، زربسی، تمام چیزیں کوٹ کر اس قدر کھل کریں کہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں پھر بوقت شب اس دخندہ کو آبادی سے دور کسی ویران جگہ پر روشن کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس دخندہ کے اجزاء کی تاثیر سے اس جگہ کے

جنات و روحانیات عامل کے سامنے جمع ہو جائیں گے اور عامل جو حکم کرے گا اسے بجا لائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ عامل دل میں کسی خوف یا خطرے کو جگہ نہ دے بلکہ دل قوی رکھے تاکہ وہ کچھ اذیت نہ پہنچائیں بلکہ عامل کی تابعداری اور اس کی حاجات کی بجا آوری کے پابند ہوں۔

مشاہدہ جنات و روحانیات

سرخ رنگ کی صحرائی بکری کو ذبح کر کے اس کا بھیجا (مغز) نکال کر سایہ میں خشک کر لیں اور کھال اتار کر اس کو دباغت دے دیں۔ پھر اس خشک شدہ بھیجا کو اسی بکری کی دباغت شدہ کھال میں ہی کر محفوظ کر لیں۔ جب جنات و روحانیات کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کھال کو اپنے سر پر باندھیں اور مشاہدہ فرمائیں۔ عمل سو فیصد درست ہے۔

جنات و روحانیات کا مشاہدہ

کتے اور سیاہ بلی کا خون ہموزن لے کر سایہ میں خشک کر کے باریک پیس کر آپس میں ملا لیں اور ان تمام کو کسوف و خسوف کے اوقات میں کسی خلوت کے مکان میں بیری کی لکڑی و کنیر کی لکڑی لے کر کوکلوں کی آگ پر اس مواد کو سلگائیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جنات و روحانیات کی پر اسرار مخفی مخلوقات حاضر ہو جائیں گی اور جو حکم دیں گے اس کی بجا آوری کے پابند ہوں گے۔

حاضرات عمل تسخیر لوچنی

عمل :- آم کام لوچنی بیجا بیجوتری ۔
لونگاں جیسے گچھے کڑے جیسی گٹوہ ۔ بُلْبُل جیسا
بچہ ایک لونگہ ماراں تین ٹکڑے ہوں۔

طریقہ :- عروج ماہ نوپندے اتوار یا ہفتہ یا جمعرات کو 5 عدد بتاشے، دو عدد لونگ کلاہ دار اور دو عدد گلاب کے پھول اپنے سامنے رکھے۔ رات بارہ بجے کے بعد شمال مشرق کی طرف منہ کر کے کسی مناسب کپڑے پر بیٹھ کر 41 بار مندرجہ بالا کلمات پڑھے۔

دوران عمل جلائی و جمالی پرہیز کریں۔ دھوپ کا بخور روزانہ جلائے۔ تین یا سات یا گیارہ یا 21 یوم تک عمل کرے۔ لوچنی حاضر ہوگی۔ عمد و پیمان لے لو۔ دوران عمل لوچنی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کی اس حرکت سے قطعی متاثر نہ ہوں۔ مباشرت سے پرہیز کریں ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔

حاضرات عمل تسخیر جنتی

طریقہ :- عروج ماہ میں جنگل میں جا کر بروز منگل یا ہفتہ کھلے میدان میں درمیان میں بیٹھ کر مندرجہ ذیل کلمات 101 بار پڑھے اپنے سامنے بکرے کی کلیجی، سات رنگ کے پھول، سات رنگ کی مٹھائی، عطر کا پھویہ، پرہیز جلائی و جمالی کرے۔ 21 یا 41 یوم میں جنتی حاضر ہوگی عمد و پیمان لے لیں۔

کلمات یہ ہیں۔

” اے جنتی کہہ دے “

ایک سو ایک بار پڑھیں۔

میں اپنی پرانی بیاضوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس دوران مجھے جنتی کا عمل ہاتھ لگا۔ یہ عمل میں نے آج سے تقریباً 20 سال قبل جب میں سہون شریف لعل شہباز قلندر کے مزار پر گیا تھا تو وہاں ایک ملنگ سے یہ عمل ملا تھا۔ یہ ملنگ دیگر ملنگوں کے ساتھ محو رقص تھا۔ سینکڑوں انسان اس رقص کو دیکھ رہے تھے جن میں بھی شامل تھا جب رقص ختم ہوا اور سب ملنگ اپنے اپنے راستوں پر چلے گئے تو وہ ملنگ جو رقص کر رہا تھا اچانک میری طرف آیا اور مجھ سے میرا نام لے کر مخاطب ہوا اور بولا ” تم قیصر احمد

ہو “

میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری پیشانی پڑھ لی ہے تو بزرگوں کی عزت کرنے والا اور قدر کرنے والا اور اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے والا ہے میں تجھے آج ایک عمل دے رہا ہوں یہ عمل ضرور کرنا اور مجھے دعا دینا۔

میں نے اس ملنگ سے وہ عمل لیا اور کراچی چلا آیا میں نے وقت نہ ہونے اور مصروفیات کی وجہ سے عمل نہیں کیا۔ ایک رات میں اپنے بزرگوں کے عطا کئے ہوئے وخطائف پڑھ کے مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک شہنائی اور ڈھول بجنے کی آواز آئی اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ یہ ایک نئی صورت حال تھی جس سے پہلی مرتبہ میرا واسطہ پڑ رہا تھا۔ میں نے دل میں اپنے بزرگوں کو یاد کیا کہ اچانک ایک سفید ریش بزرگ جناب یوسف شاہ اپنے کئی سو جناتوں کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ میرے والد مرحوم حضرت یوسف شاہ (ملتان شریف) کے بہت معتقد تھے۔ حضرت جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے ہمارے گھر قیام پذیر ہوتے تھے۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور جب کبھی زیادہ پیار آتا تو میری پیشانی چومتے تھے۔ جب حضرت یوسف شاہ اپنے جناتوں کو ہمراہ حاضر ہوئے تو میں نے سلام عرض کر کے اس پریشانی کا بیان کیا جو ڈھول بجنے سے مجھے لاحق ہوئی تھی۔ فرمایا بیٹے ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ والوں کے شہزادے ہو کر ڈرتے ہو یہ ڈھول وہ ملنگ بجا رہا ہے جو تمہیں سہون شریف میں ملا تھا وہ ہمارے بعد آئے گا تم اس سے بلا خوف و خطر بات چیت کرو۔ حضرت کے جانے کے بعد وہ ملنگ آیا اور مجھ سے مخاطب ہوا کہ اللہ والوں کے شہزادے آپ نے وہ عمل کیوں نہیں کیا جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ میں نے اپنی مجبوری بیان کی تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارا اپنا ہوں تم یہ عمل کرو میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ عمل بہت جلد شروع کروں گا۔ قصہ یہ کہ میں نے یہ عمل کیا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل میں کامیاب ہوا۔ میں عمل کی تاثیرات دوران عمل پیش آنے والے واقعات، حالات اور مناظر کو یہاں بیان نہیں کروں گا بلکہ جو اس عمل کو کرے گا وہ ضرور لطف اندوز ہو گا اور اپنا دامن موتیوں سے بھرے گا جو شخص یہ عمل کرے وہ پہلے

مجھ سے یا پھر عامل شاہ زنجانی سے ضرور اجازت لے لے۔ میں نے بلا بخل کاٹ چھانٹ کے عمل لکھ دیا ہے۔ تاہم اس عمل کی تاثیر سے آنکھ والا ہو جائے گا اور گونگے بولنے لگیں گے۔ یہ عمل ہر موڑ پر ہر جگہ آپ کی مدد کرے گا۔

دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین۔

حاضرات تسخیر دیوی۔ کالی ناگنی

طریقہ :- عروج ماہ میں نوچندے اتوار کو شمال مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اپنے دست راست کی طرف کوٹلوں کی دھونی سلگائے اور وقفہ وقفہ سے دیسی شراب اور اصلی دیسی گھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالتا رہے۔ جب تک عمل پڑھتا رہے صاف ستھرے کپڑے پہنے رنگ کی کوئی قید نہیں۔ کپڑوں پر اعلیٰ قسم کا عطر لگائے۔ عطر چنبیلی اعلیٰ قسم کا لگائے تو بہتر ہے۔ پرہیز جلابی و جمالی لازمی ہے۔

21 یوم تک روزانہ ایک گھنٹہ رات بارہ بجے کے بعد یہ کلمات پڑھے تعداد کی

کوئی قید نہیں۔ عمل صرف ایک گھنٹہ 21 یوم تک پڑھنا ہے۔ کلمات یہ ہیں۔
"جھبوت ماتا جھبوت پتا جھبوت پیر پتال اٹھ کالی ناگنی ایسی لاگی رگنا
جیسی کڑی کمان کی دلیا تیر جیلا"

دیوی حاضر ہوگی عمد و بیان لے لیں۔

نوٹ :- یہ عمل ان باریش لوگوں سے نہیں ہو سکتا جو اپنی داڑھی کے بال توڑ کر دانتوں سے چباتے ہیں یا نماز پڑھتا ہو مگر روزہ نہیں رکھتا ہو یا بغیر روزہ تراویح پڑھاتا ہو ان حضرات پر پابندی ہے اور رجعت کا خوف ہے۔ میں نے ہر بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ عمل کی تاثیر کے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا جو کرے گا وہ پائے گا اور مجھے یقیناً دعا دے گا۔ یہ عمل میرے بزرگوں کے سینہ کا راز ہے جو میں نے بلا بخل پیش کر دیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ آمین۔

حاضرات یزقان

کمرہ صاف ستھرا ہو اگر بتیاں وغیرہ سلگائیں پرہیز صرف گوشت کا ہے۔ دوران عمل گوشت نہ کھائیں باقی دنیا بھر کی شے کھا سکتے ہیں۔ دودھ 'گھی سب کھائے۔ مہینہ تاریخ کوئی ہو۔ بدھ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد 903 مرتبہ یہ عمل پڑھو۔

اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا يَرْقَانُ الْعَجَائِبِ بِحَقِّ يَا
مِيكَائِيلُ وَبِحُرْمَةِ الثَّابِتِ أَحْضِرِ الْعَجَلُ السَّاعَةِ۔

عمل پڑھنے کی جگہ تھائی ہو کوئی دوسرا کمرے میں نہ آئے۔ اسی طرح 40 دن روزانہ کرو اگر درمیان میں کوئی صورت نظر آئے یا کوئی خوف والی صورت پیدا ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اپنا عمل ترک نہ کرو۔ یہ سب تماشے و شعبدے ہوتے ہیں۔ ظاہری کچھ نہیں ہوتا۔ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اطمینان و سکون سے اپنا ورد ختم کرو۔

اب معلوم کرو کہ آپ نے پہلے دن سورج طلوع ہونے سے ایک گھنٹہ کے درمیان میں عمل کیا یہ ساعت عطار د کی ہے۔ اب دوسرے دن صبح کو عمل شروع نہ کرو بلکہ جب عطار د کی ساعت آئے عمل اسی میں کرو۔ ساعت عطار د کی پابندی بنزلہ اساس کے ہے۔ اگر عطار د کی ساعت میں عمل نہ پڑھو گے تو کوئی اثر نہ ہو گا۔ ساعت دن رات میں کئی بار آتی ہے۔ ستارے سات ہیں۔ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں۔ بدھ کے دن سورج نکلنے ہوئے پہلی ساعت ہے ایک گھنٹہ تک۔ پھر ساتویں گھنٹہ میں عطار د کی ساعت آ جائے گی۔ دوران عمل کوئی شکل نظر آئے تو ہرگز اس سے کلام نہ کریں۔ چالیسویں دن یزقان دست بستہ مثل غلاموں کے حاضر ہو گا۔ آپ اس سے کہہ دیں کہ تم جاؤ اور جب میں بلاؤں تو حاضر ہوا کرو۔ جب بلانا ہو تو تین مرتبہ مندرجہ بالا عمل پڑھو وہ فوراً حاضر ہو گا اور ہر کلام کرے گا۔

حاضرات شمس

اتوار کے دن سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ تک اس عمل کو شروع کریں۔ منوکل کا نام رو قائل ہے اور جن کا نام عبداللہ ہے۔ پرہیز صرف گوشت کا ہے۔ دودھ 'دی'

گھی 'انڈا کھا سکتے ہیں۔ بخور صندل سرخ کا ہے۔ عمل ساعت شمس میں ہی کیا جائے۔ شمس کی ساعت دن رات میں کئی مرتبہ آتی ہے۔ یہ ساعت ایک گھنٹہ رہتی ہے۔ عمل شروع ہی ساعت میں کرو اور ختم چاہے کس وقت ہو۔ عمل یہ ہے۔

اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِالرُّوقَانِيْلِ
بِحُرْمَتِ الْقَرَوِ أَحْضِرُوا أَحْضِرُوا أَحْضِرُوا الْعَجَلَ
السَّاعَةِ۔

عمل کو 284 مرتبہ 40 یوم پڑھو۔ چالیسویں دن عبد اللہ حاضر ہو گا اور جو حکم دیں گے تعمیل کرے گا۔ جب بلانا مقصود ہو تو تین مرتبہ مندرجہ بالا عمل پڑھیں وہ حاضر ہو جائے گا۔ حصار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حاضرات الاحمر

منوکل کا نام ابی المحرز الاحمر ہے۔ عمل منگل کے دن سے شروع کریں۔ پرہیز صرف گوشت کا ہے۔ دودھ 'دہی' انڈا اور گھی کھا سکتے ہیں۔ بخور گندھک اور عود کا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ ساعت مرغ تھائی میں اس عزیمت کو 1272 بار پاک سرخ رنگ کا کپڑا بچھا کر 40 یوم میں پڑھیں۔ کونکہ دھکا کر پاس رکھیں اور بخور گندھک اور عود کا تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں۔ عمل روزانہ ساعت مرغ ہی میں کریں۔ درمیان میں اگر خوفناک صورتیں نظر آئیں تو گھبرائے نہیں وہ عامل کے پاس نہ آئیں گی۔ چالیسویں دن احمر حاضر ہو گا اور تابع ہو گا۔ جب اس کو بلانا ہو تو کونکے دھکا کر اور اس پر گندھک اور عود ڈال کر تین مرتبہ عزیمت کو پڑھیں۔ احمر حاضر ہو گا۔

عزیمت یہ ہے۔

اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا اَبِي الْمَحْرَزِ الْاَحْمَرِ
يَا كَلِكَايِيْلُ وَاَقْسَمْتُ يَا شَهِيْدُ أَحْضِرُوا أَحْضِرُوا

اَحْضِرُوا الْعَجَلَ السَّاعَةِ۔

حاضرات قرآنی

طریقہ :- مندرجہ ذیل نقش کسی سفید کانٹھ پر بنائیں اور کسی بچے یا بچی کو سیاہ دائرہ میں دیکھنے کو کہیں۔ اگر بتیاں وغیرہ سلگائیں۔ سیاہ دائرہ میں عطر لگائیں۔ عمل بچے پر یہ عزیمت پڑھ کر برابر پھونکتا رہے۔

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (سپارہ 5)

جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو اس وقت تک عزیمت پڑھ کر پھونکتا رہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں۔ چند ہی ثانیہ بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

۷۸۶

۱۰۴	۱۰۷	۱۱۰	۹۶
۱۰۹	۹۷	۱۰۳	۱۰۸
۹۸	۱۱۲	۱۰۵	۱۰۲
۱۰۶	۱۰۱	۹۹	۱۱۱

حاضرات الغیب

طریقہ :- مندرجہ ذیل نقش کسی سفید کانٹھ پر بنائیں اور سیاہ دائرہ میں عطر لگائیں اگر بتیاں وغیرہ سلگائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونکے پھر یہ عزیمت بلا تعداد پڑھے جب تک

حاضرات کا نزول نہ ہو۔

۷۸۶

۷۹۸	۸۰۲	۸۰۵	۷۹۱
۸۰۲	۷۹۲	۷۹۷	۸۰۳
۷۹۳	۸۰۷	۸۰۰	۷۹۶
۸۰۱	۷۹۵	۷۹۲	۸۰۶

عزیمت یہ ہے۔

ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ -

تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں سو فیصد درست معلومات کر سکتے ہیں۔

حاضرات صدور

۷۸۶

۲۰۹	۲۱۳	۲۱۶	۲۰۲
۲۱۵	۲۰۳	۲۰۶	۲۱۲
۲۰۲	۲۱۸	۲۱۱	۲۰۷
۲۱۲	۲۰۶	۲۰۵	۲۱۷

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کسی صاف سفید کاغذ پر بنائیں اور بچے کو سیاہ خانہ میں دیکھنے کو کہیں۔ سیاہ دائرہ پر عطر لگائیں۔ اگر بتیاں وغیرہ لگائیں۔ پہلے گیارہ مرتبہ

درود پڑھیں اور عامل یہ عزیمت برابر پڑھ کر بچے پر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔ عزیمت یہ ہے۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

پندرہ ثانیہ کے بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات الارض

۷۸۶

۷۱۲	۷۱۷	۷۲۰	۷۰۶
۷۱۹	۷۰۷	۷۱۳	۷۱۶
۷۰۸	۷۲۲	۷۱۵	۷۱۱
۷۱۶	۷۱۱	۷۰۹	۷۲۱

طریقہ :- مندرجہ بالا نقش کسی سفید کاغذ پر بنائیں۔ کالے دائرہ میں عطر لگائیں اور بچے کو سیاہ دائرے میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور عامل بچے پر یہ عزیمت برابر پڑھ کر پھونکتا رہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو جائے پڑھتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ تلمیحی بخش سوال کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔

حاضرات نقش 9461

طریقہ :- کمرہ پاک و صاف ہو عامل اور معمول دونوں پاک ہوں۔

کپڑے صاف ستھرے ہوں اور ان پر خوشبو لگی ہو۔ اگر تیاں سلگائیں اور بچے کو سیاہ دائرہ میں غور سے دیکھنے کو کہیں۔ سیاہ خانہ میں عطر لگائیں۔ عامل بچے پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھونکے اور یہ عزیمت برابر پڑھ کر پھونکتا رہے جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو۔

یا جبرائیلُ <۸۶> یا میکائیلُ

۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱
۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱	۹۲۶۱

عزیمت یہ ہے۔

اَبِسْمِ اللّٰهِ جَا بِسْمِ اللّٰهِ حَاضِرَاتِ كُو جَلْدِ گھیر
کھار کے لَا بِسْمِ اللّٰهِ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -
تھوڑی دیر میں حاضرات کا نزول ہو گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات بر آئینہ

طریقہ :- سب سے پہلے اس عمل کی زکوہ ادا کریں۔ 21 یوم تک با وضو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ 500 پر یا حَافِظُ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود تنجینا پڑھیں۔

پابندی :- جس روز عمل شروع کریں اس دن سے 21 یوم تک مقام ایک ہی ہونا چاہیے۔ جگہ تبدیل نہ کریں۔ پرہیز جلالی و جمالی لازمی کریں۔ عمل قابو میں

رکھنے کے لئے روزانہ 100 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا
لِلّٰہِ اور یا حَافِظُ پڑھیں۔ اول و آخر تین تین بار درود تنجینا پڑھیں۔

اب جب بھی حاضرات کرنی ہو تو ایک صاف شیشے لے کر آٹھ سال سے 12 سال کے لڑکے یا لڑکی کو وضو کروا کر آئینہ کے سامنے بیٹھائے۔ عامل پاس بیٹھ کر ایک بار درود تنجینا پڑھے اور گیارہ بار یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ پڑھے اور پھر گیارہ مرتبہ یا حافظ پڑھ کر بچے پر دم کرے اور بچے کو شیشے میں دیکھنے کو کہیں۔ پھر بچے سے پوچھیں کہ کون آیا؟ جب کوئی آجائے تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ اس حاضرات میں تین موکل آتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

اللہ دتہ۔

صوفی اکبر۔

گلناز۔

یہ حاضرات بڑوں پر بھی کی جاسکتی ہے اور تمام لوگوں کو دکھائی بھی جاسکتی ہے۔

حاضرات

<۸۶>

۱۵۵	۱۵۸	۱۶۱	۱۶۴
۱۶۰	۱۶۸	۱۵۲	۱۵۹
۱۶۹	۱۶۳	۱۵۶	۱۵۳
۱۵۷	۱۵۲	۱۵۰	۱۶۲

طریقہ :- سیاہ خانہ میں عطر لگائیں اور یہ عزیمت اِنَّہٗ بِکَلِّ شَیْءٍ
بَصِیْرٍ اکیس مرتبہ پڑھ کر سیاہ خانہ میں پھونکیں پھر دس گیارہ سال کے بچے کو سیاہ

خانہ میں دیکھنے کو کہیں اور عامل بچے پر بلا تعداد مندرجہ بالا عزیمت برابر پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا جس سے آپ اپنے مشکل امور کے بارے میں سو فیصد درست معلومات حاصل کر سکیں گے۔

حاضرات

طریقہ :- سیاہ خانہ میں عطر لگائیں اور گیارہ بار یہ عزیمت وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ پڑھ کر سیاہ خانہ میں پھونکیں۔ پھر دس گیارہ سال کے بچے کو سیاہ خانے میں دیکھنے کو کہیں اور آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر مندرجہ بالا عزیمت برابر پڑھ پڑھ کر بچے پر پھونکتے رہیں۔ جب تک حاضرات کا نزول نہ ہو جائے۔ جب حاضرات کا نزول ہو جائے تو اپنے مشکل امور کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور تسلی بخش جوابات حاصل کر کے شکر یہ کے ساتھ اجازت دیں۔

۷۸۶

۲۱۵	۲۱۸	۲۲۲	۲۰۸
۲۲۱	۲۰۹	۲۱۴	۲۱۹
۲۱۰	۲۲۴	۲۱۶	۲۱۳
۲۱۷	۲۱۲	۲۱۱	۲۲۳

حاضرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ يَا حَنَّانَ يَا مَنَّانَ
يَا رَحْمٰنَ يَا دَائِبَانَ بِحَقِّ حَضْرَتِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ

السَّلَامِ بِحَقِّ حَضْرَتِ مَهْرِ اَكْسَانَ يَا حَضْرَتِ
سُلَيْمَانَ حَاضِرًا شَوْ.

طریقہ :- 21 دن تک 700 بار اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ پرمیز
جلالی و جمالی لازمی کریں۔

جب بھی حاضرات کرنی ہو تو کسی بچے کو آنکھیں بند کرا کے پٹی باندھ دیں اور
اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں اور مندرجہ بالا عزیمت گیارہ بار پڑھ کر بچے
پر دم کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اگر بڑوں پر حاضرات
کرنی ہو تو مندرجہ بالا طریقے سے ہی کریں اور اپنے تمام مسائل کے بارے میں سو فیصد
درست معلومات حاصل کریں۔

آسیب کو بذریعہ حاضرات حاضر کرنا

طریقہ :- جس پر یہ شک ہو کہ اس پر آسیب مسلط ہے تو سورہ فیل سات
مرتبہ پڑھ کر پہلے عامل اپنی ہتھیلی پر دم کرے۔ اگر اس کو ہتھیلی پر معلوم ہو کہ واقعی
آسیب ہے تو اپنی ہتھیلی کو آسیب زدہ پر ملے اور ساتھ ہی تین مرتبہ سورہ مذکورہ بالا پڑھ کر
مریض پر دم کرے۔ آسیب فوراً حاضر ہو گا۔ اس سے قول و قرار و شرائط لے کر آزاد کر
دے اور مریض کو نقش سورہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ بَنَّا كَرْدَةَ اور مریض اسے گلے میں
ڈالے تاکہ آئندہ کوئی آسیب نہ ستائے۔

حاضرات کی طلسماتی انگوٹھی بنانا

سورج گرہن کے روز آٹھ دھاتوں سے انگوٹھی بنوائیں۔
پتیل ایک ماشہ، تانبہ ایک ماشہ، جست ایک ماشہ، سکہ ایک ماشہ، قلعی ایک
ماشہ، لوہا ایک ماشہ، چاندی ایک ماشہ، سونا ایک ماشہ۔
اب گھینڈ والی جگہ میں پتھرا لاکھ بھر دیں اور اس کو کسی خوشبودار تیل سے

چکنا کر دیں۔ بعدہ اس میں غور سے دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات کی طلسماتی انگوٹھی

طریقہ :- برادہ جست، نیلا تھوٹھا، سندرس، گندھک، ان تمام چیزوں کو ہموزن لیں پھر چبڑا عمدہ چار ماشہ اور بروزہ خشک ایک تولہ اول لوہے کی کڑاہی میں ذرا باریک کر کے بروزہ ڈالیں۔ جب بروزہ پگھل جائے تو پھر تمام دوائیں باریک کر کے اس میں ڈال کر ملا کر گرم گرم تھینے کی جگہ میں بھر دیں۔ بس انگوٹھی تیار ہے۔ جب کبھی حاضرات کرنی ہو تو مصالحوں پر تھوڑا سا تیل لگا کر اس میں نظر جما کر دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ جس سے آپ ہر قسم کی تسلی بخش معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

حاضرات کھولنے کے اعوان

معزز قارئین کرام آج ہم حاضرات کھولنے کے اعوان بیان کر رہے ہیں۔ حاضرات کیوں نہیں کھلتی اور حاضرات نہ کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس موضوع پر آج تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا اور نہ کسی نے حاضرات کھولنے کے اعوان بتائے ہیں۔ آج احقر حاضرات کھولنے کے اعوان بیان کر رہا ہے۔ ان اعوان کو بڑے بڑے عامل و اساتذہ کسی بھی قیمت پر نہیں بتاتے لیکن میں نے خلق خدا کی خدمت کے لئے عمل بلا بخل پیش کر دیا ہے لہذا تمام قارئین و عالمین سے گزارش ہے کہ وہ عمل پڑھنے سے پہلے میرے استاد گرامی منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی مرحوم کو فاتحہ پڑھ کر بخشیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔

عزیمت یہ ہے۔

اعطو ثانی بویا ہی بویا لہ بویا یایا

طریقہ :- جب کوئی حاضرات کسی بھی طریقے سے نہ کھلے تو عامل کو چاہیے کہ مندرجہ بالا اعوان کی عزیمت 270 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرے اور کہے کہ حاضرات کو فوراً حاضر کرو اور حاضرات جلد دکھاؤ۔ چند ہی منٹ میں حاضرات کھل جائے گی۔

لاکھوں روپے کا عمل ہے لیکن احقر نے خلق خدا کی خدمت کے لئے بلا بخل پیش کر دیا ہے۔ امید واثق ہے کہ قارئین کرام دعائیں یاد فرمائیں گے۔

معزز قارئین کرام۔ میں نے اپنی کتاب حاضرات کی دنیا بہت ہی محنت اور لگن 'خلوص' عاجزی و انکساری سے لکھی ہے۔ احقر نے اپنی کتاب میں کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے جیسا کہ بعض عالمین اپنی کتابوں میں کرتے ہیں کہ یہ عمل یا فلاں عمل دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ عمل صرف میرا ہی ہے اگر یہ عمل کوئی کسی کتاب میں دکھا دے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس قسم کے دعوے کرنا مبتدی حضرات پر رعب و دبدبہ ڈالنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹے دعوؤں میں کہیں بھی صداقت کی کرن نظر نہیں آتی۔

واضح رہے کہ اعمال آسمان سے اتر کر نہیں آتے بلکہ تمام اعمال اساتذہ و اہل علم کی ایجاد ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ میرے تمام اعمال کرنے میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کے طفیل کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین۔

قیصر احمد بی اے

3۔ ایف 15 / 8 ناظم آباد نمبر 3

کراچی۔ 74600 (پاکستان)

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
1	بابا ولایت شاہ	9	19	جن و شیاطین حاضر 1	27
2	سظلی ہریارام	10	20	جن و شیاطین حاضر 2	27
3	آیت کریمہ	10	21	جن و شیاطین حاضر 3	28
4	آیت کریمہ 2	12	22	عزیمت نمبر 1	29
5	دستیابی چور	13	23	عزیمت نمبر 2	31
6	گرفقاری چور	14	24	عزیمت نمبر 3	32
7	تشخیص الامراض	15	25	حاضرات کلمہ طیبہ	35
8	شہنشاہ جنات	16	26	بنوع دیگر	36
9	ملک قیقطوش	17	27	بن سرارہ	38
10	بادشاہ بکتانوش	17	28	بنوع دیگر	38
11	بنوع دیگر	18	29	بنوع دیگر 2	39
12	دزدی و سارق	19	30	بنوع دیگر 3	40
13	مال کی واپسی	21	31	بنوع دیگر 4	40
14	گرفقاری چور	22	32	بنوع دیگر 5	41
15	چور بنوع دیگر	23	33	شاہ بکتانوش	41
16	پدرو نامشا اور ونامنا	23	34	سید الشہداء علیہ السلام	42
17	سحر گلاب	24	35	بنوع دیگر 1	44
18	بنوع دیگر	26	36	بنوع دیگر 2	45

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
37	حاضرات بنوع دیگر	45	59	حاضرات بنوع دیگر	63
38	حاضرات بنوع دیگر	46	60	حاضرات بنوع دیگر	63
39	برائے جنات	46	61	حاضرات بنوع دیگر	64
40	حاضرات بنوع دیگر	48	62	حاضرات بنوع دیگر	64
41	حاضرات بنوع دیگر	48	63	مردان غیب	65
42	حاضرات بنوع دیگر	50	64	حاضرات بنوع دیگر	67
43	حاضرات بنوع دیگر	50	65	حاضرات بنوع دیگر	68
44	حاضرات بنوع دیگر	51	66	حاضرات بنوع دیگر	68
45	حاضرات بنوع دیگر	53	67	حاضرات بنوع دیگر	68
46	حاضرات سورہ کوثر	53	68	حاضرات بنوع دیگر	69
47	حاضرات بنوع دیگر	55	69	حاضرات بنوع دیگر	70
48	حاضرات بنوع دیگر	56	70	حاضرات بنوع دیگر	70
49	حاضرات بنوع دیگر	56	71	آئینہ سکندری	71
50	حاضرات بنوع دیگر	57	72	طلسماتی کا جمل	73
51	حاضرات بنوع دیگر	57	73	منگلا پتماری	74
52	حاضرات بنوع دیگر	58	74	نایاب حاضرات	74
53	حاضرات بنوع دیگر	59	75	حاضرات وقت	76
54	حاضرات بنوع دیگر	60	76	حاضرات بنوع دیگر	77
55	حاضرات بنوع دیگر	61	77	تسخیر ہمزاد 1	77
56	حاضرات بنوع دیگر	61	78	تسخیر ہمزاد 2	78
57	حاضرات بنوع دیگر	62	79	تسخیر ہمزاد 3	78
58	حاضرات بنوع دیگر	62	80	تسخیر ہمزاد 4	79

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
81	تسخیر ہمزاد 5	79	103	حاضرات دیگر	91
82	تسخیر ہمزاد 6	79	104	شاہ بکتاوش	92
83	تسخیر ہمزاد 7	80	105	حاضرات دیگر	93
84	تسخیر ہمزاد 8	80	106	باتیں معلوم کرنا	93
85	تسخیر ہمزاد 9	81	107	حاضرات بنوع دیگر	94
86	حضورِ مَوَکَل	81	108	حاضرات بنوع دیگر	95
87	عمل ابلیس	81	109	حاضرات بنوع دیگر	95
88	تسخیر جن	82	110	حاضرات بنوع دیگر	96
89	حاضرات بنوع دیگر	82	111	حاضرات بنوع دیگر	97
90	حاضرات بنوع دیگر	85	112	حاضرات بنوع دیگر	97
91	حاضرات بنوع دیگر	85	113	حاضرات بنوع دیگر	98
92	حاضرات بنوع دیگر	86	114	حاضرات بنوع دیگر	98
93	حاضرات بنوع دیگر	86	115	حاضرات بنوع دیگر	99
94	حاضرات بنوع دیگر	87	116	بطریق دائرہ	100
95	حاضرات بنوع دیگر	87	117	حاضرات بنوع دیگر	101
96	حاضرات بنوع دیگر	87	118	حاضرات بنوع دیگر	101
97	حاضرات بنوع دیگر	87	119	آیت کریمہ	102
98	جادوئی آئینہ	88	120	بطریق جدید	103
99	حاضرات بنوع دیگر	88	121	بطریق جدید	104
100	یا مشو دیتا	89	122	بطریق جدید	105
101	آئینہ سکندری	90	123	حاضرات بنوع دیگر	106
102	حاضرات دیگر	91	124	حاضرات بنوع دیگر	106

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
125	حاضرات بنوع دیگر	107	147	حاضرات خود	124
126	محمد یاری	107	148	حاضرات بنوع دیگر	125
127	حاضرات بطرز جدید	108	149	حاضرات بنوع دیگر	126
128	ہمزاد خود	108	150	حاضرات بنوع دیگر	126
129	حاضرات بطرز جدید	110	151	حاضرات بنوع دیگر	127
130	حاضرات بطرز جدید	110	152	حاضرات بنوع دیگر	127
131	حاضرات بطرز جدید	111	153	حاضرات بنوع دیگر	128
132	حاضرات بطرز جدید	111	154	حاضرات بنوع دیگر	128
133	حاضرات بطرز جدید	112	155	حاضرات آئینہ	129
134	حاضرات بطرز جدید	114	156	آئینہ خود	129
135	حاضرات بطرز جدید	115	157	حاضرات دائرہ	130
136	جادوئی انگوٹھی	116	158	حاضرات آبی	131
137	حاضرات بطرز جدید	116	159	ریس و سٹ	132
138	حاضرات بطرز جدید	117	160	حاضرات بطرز دیگر	133
139	حاضرات بطرز جدید	117	161	حاضرات بطرز دیگر	135
140	حاضرات بطرز جدید	118	162	حاضرات بطرز دیگر	136
141	حاضرات بطرز جدید	119	163	حاضرات بطرز دیگر	136
142	حاضرات بذریعہ جنت	121	164	حاضرات بطرز دیگر	137
143	حاضرات بذریعہ منتر	121	165	حاضرات بطرز دیگر	137
144	جادوئی انگوٹھی	122	166	حاضرات بطرز دیگر	138
145	لوح مقطعات	123	167	حاضرات دستگیری	138
146	حاضرات خود	124	168	سورہ عنکبوت	139

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
169	حاضرات نور الہدیٰ	140	191	حضرت خضر علیہ السلام	153
170	حاضرات مقربین	141	192	حاضری جنات	154
171	حضرت خضر علیہ السلام	141	193	حاضری جنات	155
172	حاضرات بطرز خاص	142	194	عزیمت گلستان	155
173	حاضرات بطرز خاص	143	195	آسیب نکالنا	158
174	حاضرات ارواح	144	196	حفاظت از جنات	159
175	حاضرات بطرز جدید	144	197	حاضرات دائرہ	159
176	حاضرات ذکر خاص	145	198	تسخیر ہنومان	160
177	حاضرات بطرز جدید	146	199	تسخیر پونا	160
178	حاضرات بطرز جدید	146	200	تسخیر بھیروں	160
179	حاضرات بطرز جدید	147	201	تسخیر کالا دیو	161
180	حاضرات بطرز جدید	147	202	تسخیر ملکہ کنڈیاس	161
181	شہنشاہ جنات	148	203	تسخیر زعفران پری	162
182	پریوں کی حاضرات	148	204	تسخیر کالا کلوا	162
183	ملاقات شاہ جنات	149	205	حاضرات آبی	164
184	حاضرات بطرز جدید	150	206	روحانی مخلوق	164
185	حاضرات کہہ و مہمہ	150	207	حاضرات آبی	165
186	حاضرات کہہ و مہمہ	151	208	حاضرات آبی	166
187	حاضرات بنوع دیگر	151	209	حاضرات بطرز جدید	167
188	حاضرات چمپل کاف	152	210	حاضرات بطرز جدید	167
189	حاضرات درود نوری	152	211	حاضرات بطرز جدید	167
190	حاضرات پری	153	212	برائے گمشدہ	169

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
213	حاضرات بنوع دیگر	169	235	حاضرات بطرز جدید	184
214	حاضرات گرینختہ	170	236	حاضرات بطرز جدید	185
215	حاضرات بطرز جدید	170	237	تسخیر ہنومان	186
216	حاضرات آبی	172	238	تسخیر جمیلہ پری	187
217	حاضرات یک روزہ	173	239	تسخیر بیر شہزادہ	187
218	حاضرات سکندر شاہ	174	240	تسخیر بھوت	187
219	حاضرات کی انگوٹھی	175	241	تسخیر حبشی بچہ	188
220	حاضرات بنوع دیگر	175	242	حاضرات بنوع دیگر	189
221	حاضرات آیت الکرسی	176	243	حاضرات بنوع دیگر	190
222	سٹہ لائری وغیرہ	177	244	حاضرات بنوع دیگر	191
223	حاضرات بنوع دیگر	178	245	حاضرات گمشدہ	191
224	حاضرات ناد علی علیہ السلام	179	246	حاضرات بطرز جدید	193
225	حاضرات درود تاج	179	247	جگ جگا دیوی	193
226	حاضرات بنوع دیگر	180	248	حاضرات آیت کریمہ	195
227	حاضرات بنوع دیگر	180	249	حاضرات بطرز جدید	196
228	حاضرات بنوع دیگر	180	250	حاضرات ہمزاد	197
229	حاضرات بنوع دیگر	181	251	جادوئی انگوٹھی	198
230	گرفقاری سارق	181	252	آئینہ سکندر	198
231	حاضرات بطرز جدید	182	253	تشخیص امراض	199
232	حاضرات بطرز جدید	182	254	حاضرات کافران	200
233	حاضرات بطرز جدید	183	255	حاضرات ہمزاد	201
234	حاضرات بطرز جدید	184	256	حاضرات سفلی	202

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
257	حاضرات بنوع دیگر	203	279	حاضری پیر مردم	222
258	عمل برائے سٹہ	203	280	حاضری پریاں	223
259	حاضرات بطرز دیگر	203	281	حاضری پریاں	223
260	حاضرات بطرز دیگر	204	282	بابا خاکی شاہ	224
261	حاضرات مسمریزم	206	283	بابا روڈے شاہ	224
262	پرائز بانڈز	207	284	پیر ہماؤ الحق	225
263	حاضرات انگوٹھی	209	285	تسخیر کالی مائی	226
264	حاضرات چراغ	209	286	تسخیر ملکہ الجہال	226
265	تسخیر ورجینا پری	210	287	تسخیر شہنشاہ جنات	228
266	حاضرات بنوع دیگر	212	288	تسخیر کالا دیو	229
267	حاضرات بنوع دیگر	213	289	تسخیر ہمزاد	230
268	حاضرات بنوع دیگر	214	290	حاضرات حضوری خود	230
269	سامری جادوگر	215	291	حاضرات غوث پاک	231
270	حاضرات بنوع دیگر	215	292	تسخیر بھیرو	231
271	حاضری مٹوکلات	216	293	حاضرات حضوری	232
272	جادوئی چراغ	217	294	حاضرات دائرہ	233
273	حاضرات جدید	218	295	حاضرات بنوع دیگر	234
274	حاضرات شاہ جنات	218	296	حاضرات حضور	235
275	عمل مٹوکلا دیوی	220	297	حاضرات سورہ یسین	237
276	حاضری دیوی	221	298	حاضرات آیت الکرسی	237
277	تسخیر دیوی	221	299	حاضرات بطرز جدید	238
278	درشن کرشن مہاراج	222	300	حاضرات بطرز جدید	238

ادارہ ”آئینہ قسمت“ کی گولڈن جوبلی



بانی ادارہ حضرت منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی قدس سرہ

نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات حاضرات	صفحہ نمبر
301	حاضرات حضوری خود	240	323	حاضرات بنوع دیگر	262
302	پریوں کی حاضرات	241	324	حاضرات نقش خاص	263
303	حاضرات دائرہ	243	325	روحانیت کا مشاہدہ	264
304	حاضرات بنوع دیگر	244	326	تسخیر لوہنی	265
305	نایاب حاضرات	245	327	حاضرات تسخیر جننی	266
306	خزان معلوم کرنا	246	328	حاضرات شمس	270
307	حاضرات بر آئینہ	248	329	حاضرات الاحمر	270
308	حاضرات سورہ الحشر	248	330	حاضرات قرآنی	271
309	بے مثل حاضرات	249	331	حاضرات الغیب	271
310	حاضرات چڑی	249	332	حاضرات صدور	272
311	جنات کا مشاہدہ	250	333	حاضرات الارض	273
312	حاضرات غوث الاعظم	250	334	نقش 9481	273
313	حاضرات شاہ نور	251	335	حاضرات بر آئینہ	274
314	حاضرات جلوہ طور	251	336	حاضرات بنوع دیگر	275
315	حاضرات شیر	252	337	حاضرات بنوع دیگر	275
316	حاضرات غازی	252	338	حاضرات بنوع دیگر	276
317	حاضرات بر آئینہ	255	339	حاضری آسیب	277
318	حاضرات بنوع دیگر	256	340	ظلمتاتی انگوٹھی	277
319	حاضرات بکتاوش	256	341	ظلمتاتی انگوٹھی	278
320	حاضرات بطرز جدید	259	342	حاضرات کھونا	278
321	روحانی حاضرات	260	343	سوانح عمری منجم اعظم	289
322	عجیب حاضرات	261	344	حضرت ناظر شاہ زنجانی	289

تعارف اور علوم روحانیہ کا تحفظ حضرت شاہ زنجانی کی ذات گرامی کا مرہون منت ہے۔

شجرہ سادات زنجانیہ

العلیٰ سید ناصر حسین شاہ زنجانی بن
سید بابا جیون شاہ زنجانی بن
سید سکندر شاہ زنجانی بن
سید محمد شاہ زنجانی بن
سید شاکر علی شاہ زنجانی بن
سید غلام نبی شاہ زنجانی بن
سید مراد شاہ بلقش باقر شاہ زنجانی بن
سید غلام علی شاہ زنجانی بن
سید شاہ محمد زنجانی بن
سید معظم شاہ زنجانی بن
سید شاہ محمد زنجانی بن
سید سید علی شاہ زنجانی بن
سید عبدالوہاب شاہ زنجانی بن
سید اسعیل شاہ زنجانی بن
سید سلیمان شاہ زنجانی بن
سید بابو شاہ زنجانی بن
سید کمال الدین شاہ زنجانی بن
سید جلال الدین شاہ زنجانی بن
سید شاہ ابی زید زنجانی بن
سید میر احمد شاہ زنجانی بن
سید اسعیل شاہ زنجانی بن
سید میر علی شاہ زنجانی بن
سید میر حسن شاہ زنجانی بن
سید میرا حسین شاہ زنجانی مدفون لاہور

سید علی شاہ جنائیاں زنجانی بن
سید ابو جعفر شاہ زنجانی بن
سید انجی ابوالفرح شاہ زنجانی بن
سید امیر علی شاہ زنجانی بن
سید میر عالم ابی محمد شاہ زنجانی بن
سید میر جعفر نظام الملک زنجانی بن
سید میر علی شاہ زنجانی بن
سید محمد میر عالم نور شاہ زنجانی بن
سید میر احمد ابو عبداللہ شاہ زنجانی بن
سید موسیٰ اصغر شاہ زنجانی بن
سید شاہ احمد ثانی زنجانی بن
سید محمد الاعرج شاہ زنجانی بن
سید احمد پاک کبیر شاہ زنجانی بن
سید موسیٰ المبرقع شاہ زنجانی بن (آمد زنجان 225ء)
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بن
حضرت امام علی نقی علیہ السلام بن
حضرت امام علی رضا علیہ السلام بن
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن
حضرت امام باقر علیہ السلام بن
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بن
حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء بن
امام حضرت علی مرتضیٰ داماد رسول مصطفیٰ
سے 47 ویں پشت سے جا ملتا ہے

شاہ زنجانی کی ولادت باسعادت ٹھانھیں مارتے ہوئے دریائے راوی کے کنارے پنجاب کے ایک مشہور و معروف علاقہ پسیانوالہ ضلع شیخوپورہ کے علاقہ میں ہوئی۔ پیدائش بھی وہیں ہوئی اور نشوونما بھی وہیں ہوئی۔ پسیانوالہ میں جائے ولادت باسعادت کے بارے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا بلکہ اس بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے۔ آپ کے برادر بزرگ سید غلام مصطفیٰ شاہ زنجانی بھی پسیانوالہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے لیے آپ نے اپنے عمده طفلی میں متعدد مقامات کی سیر و سیاحت بھی کی اور مختلف مقامات پر تشریف لے جا کر علوم و فنون حاصل کئے۔ تاہم آپ کا زیادہ تر قیام لاہور میں ہی رہا اور آپ مدرسہ حزب الاحناف میں ہی درس و تدریس کرتے رہے۔ وہیں قرآن کریم کو حفظ فرما کر اکتساب علم فرمایا۔ کلام اللہ حفظ کیا اور درس نظامی عربی و فارسی کے امتحانات پاس کئے۔ ظاہری علوم و فنون کے حصول کے بعد آپ باطنی علوم کے حصول میں مشغول ہو گئے اور والد ماجد شیخ بابا سید جیون شاہ زنجانی قطب الاقطاب کی زیر نگرانی چلہ کشی کے مراحل طے کئے آپ کے والد بزرگوار بابا صاحب نہایت ہی اصلاح سے مزین اور تقویٰ سے مرقع تھے۔ اپنے وقت کے ولی کامل اور غایت بزرگ تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت بابا صاحب ولایت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عمده کے عامل و کامل انسان بھی تھے۔ آپ خصوصی طور پر جنات و روحانیات کے ماہر و حاذق تھے۔ اکثر بڑے بڑے مشائخ حضرات نے ان سے کسب فیض کیا ہے اور ان کو صاحب جلال و جمال دیکھا ہے۔ حضرت بابا صاحب کی وفات کے بعد (المتوفی 1889ء) شاہ زنجانی قدس سرہ العزیز نے کسب معاش اور نشر علم و فن کے لیے لاہور کے علاقہ محلہ داراشکوہ عقب لنڈا بازار میں روحانی ادارہ کاسنگ بنیاد رکھا اور خدمت دین و علم کے ساتھ ساتھ اپنا گذر اوقات فرمانے لگے۔ کسب حلال کا تجسس اور اسے اپنانا اولیائے کاملین کا وطیرہ حیات رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے گھر اور لنگر کے مصارف پورے کرنا ہی ولایت کی تکمیل کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا حضرت شاہ زنجانی کو جو آمدنی ہوتی تھی اس سے آپ بابا جیون شاہ زنجانی کے دربار کے لنگر کو بھی چلاتے تھے۔ اپنا اور بچوں کا پیٹ

بھی پالتے تھے اور اس سے جو کچھ بچ جاتا تھا اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ راقم السطور سے ایک ملاقات میں شاہ زنجانی نے ایک مجذوب سے ملاقات کا ذکر فرمایا جو اس طرح پر تھا کہ آپ ادارہ آئینہ قسمت میں تشریف فرماتے کہ وہاں پر علی کنڈی نامی مجذوب تشریف لائے۔ جب آپ نے اس مرد حق کو دیکھا تو احتراماً آگے بڑھے اور ان کے پاؤں کا بوسہ دیا۔ اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور انگور کا طشت تھمٹہ پیش کیا۔ شاہ زنجانی ان کے سامنے زانوئے ادب سے کر کے بیٹھ گئے۔ مرد مجذوب نے اپنی زنجیل سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر اپنے دانتوں میں چبایا پھر شاہ زنجانی کے منہ میں ڈال دیا جسے حضرت شاہ زنجانی نے تمام و کمال کھالیا اور کسی قسم کی کراہت محسوس نہ کی۔ شاہ زنجانی چبایا ہوا ٹکڑا کھانے سے سراپا نور بن گئے جس سے آپکا سینہ بے کینہ علوم و فنون کا ٹھانڈا مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ شاہ زنجانی کے بقول اس دن کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک پاک و ہند میں کوئی بھی صاحب علم و فن ان کے مقابل آنے کا دعویٰ نہ کر سکا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تائے عبادت خدائے بخشدہ

بلاشبک و شبہ آپ کے روحانی کمالات اس بلندی پر تھے کہ آپ اپنے عہد کے ارباب تصوف اور ارباب معرفت کے بھی سرخیل تھے۔ روحانی علوم و فنون سے ظہور و عمل میں آنے والے عجائبات سے ہٹ کر آپ صاحب کمالات تھے اور آپ سے خوارق عادات اعمال دیکھے گئے۔ حضرت مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فیصل آبادی، نقہ الاسلام سرکار علامہ محمد بشیر صاحب انصاری فاتح ٹیکسلا اور علامہ حافظ کفایت حسین صاحب آف لاہور، زندگی بھر آپ کے کمالات کے معترف رہے۔ حافظ صاحب قبلہ جو خود اپنے دور کے ایک کامل و اکمل انسان تھے، فرمایا کرتے تھے کہ شاہ زنجانی معشوق صدیقی ہیں اور یہ کہ کمال حصول میں آپ کے تمام دوست اس مقام پر نہ پہنچے کہ جس مقام کو آپ نے حاصل کیا۔ شاہ زنجانی کی روحانی برتری کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کو آپ کے سلسلہ زنجانیہ کے اکابر بزرگان سے

دو تھے ملے۔ ایک ادب و سرا علم۔ چنانچہ زنجانی خاندان میں سے شاہ زنجانی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر کسی کا ادب کیا کرتے تھے اور دوسری خصوصیت کے طور پر ہر وقت علم و فن کے متلاشیوں پر علم و فن کے فیوض و برکات کی بارش کیا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ سید ناظر حسین شاہ صاحب زنجانی لاریب بر صغیر پاک و ہند کے مجدد فن ہیں جن کی روحانی برتری اور حکومت تا قیام قیامت برقرار رہے گی اور یہ شرف عظیم شاہ زنجانی کو ہی حاصل ہے کہ پورے پاک و ہند بلکہ دنیا بھر میں انکی جلالی ہوئی شمع علم و فن آج بھی فروزاں و روشن ہے۔ آپ کی ذاتی محنت خدا داد صلاحیت اور خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم نے آپ کو روحانی علوم و فنون کے مجدد کے درجہ پر فائز کر کے پاک و ہند میں آپ کو روحانی حکومت تفویض فرمائی۔ آپ کی علمی و فنی حیثیت ایک مسلمہ حقیقت ہے اور آپکی زندگی کے اوراق اس پر شاہد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ زنجانی پر روحانی کیفیت طاری ہوئی جس میں آپ نے میری موجودگی میں ارباب محفل کو اس بات کی نوید دی کہ میرا ایک فرزند ہوگا جس کا مجھے انتظار ہے اور میں اسکا نام نامی بھی شہزادہ سید انتظار حسین زنجانی تجویز کرتا ہوں۔ یہ میرا بیٹا میرا روحانی خلیفہ ہوگا اور اس کی اولاد سے تار و ز قیامت میرا مشن جاری رہے گا۔

علمی و فنی خدمات

اکابر زنجان اور خود شاہ زنجانی جہاں کہیں بھی قیام پذیر رہے انہوں نے علمی و فنی اشاعت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے حلقہ کے مریدان کے علاوہ بھی اپنے دروازے ہر وقت مخلوق خدا کے لیے کھلے رکھے تاکہ جس وقت بھی کوئی علم و فن کی حاجت رکھنے والا حاجت مند آئے تو وہ مایوس نہ لوئے۔ چنانچہ لہذا بازار میں اقامت پذیر ہو کر شاہ زنجانی نے مخلوق خدا اور طالبان علم و فن کی بہت زیادہ خدمت کی۔ آپ کی علمی و فنی خدمات کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک الگ دفتر کی ضرورت ہوگی۔ مختصر طور پر اسی قدر ہی عرض کر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں اشاعت علم پر بے حد زور دیا گیا ہے لہذا اسی بنا پر ہی شاہ زنجانی نے روحانی ادارہ قائم کیا اور مسند علم و فن پر بیٹھ کر علمی و فنی خدمات سرانجام دیں۔ خود اکابر علمائے علم

وفن کے نزدیک علم و فن کی اشاعت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہر صاحب علم و فن ایک سلسلہ میں منسلک ہو جاتا ہے۔ شاہ زنجانی کی کوششوں سے علم و فن کی اشاعت و تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب ان کی پیش گوئی کے مطابق شہزادہ سید انتظار حسین زنجانی اور ان کے بعد ان کی اولاد کی شکل و صورت میں تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ شاہ زنجانی نے جب آئینہ قسمت کا اجراء فرمایا تو اس وقت پاک و ہند کفر و طاغوت کے اعمال و اوراد کے زیر اثر تھے۔ اعمال قرآنی اور اوراد روحانی کا کوئی نام لیوا نہ تھا۔ بالخصوص پاکستان میں ہندووانہ تقویم اور جوگیوں و ساحروں کے جنتوں منتروں کی کتابوں کا شرہ تھا سفلی و کالے علم کی دھوم دھام تھی۔ جب آپ نے علمی و فنی علم بلند کیا تو لوگوں کو اعمال قرآنیہ اور وظائف ربانیہ سے آشنائی ہوئی۔ جو لوگ مدت مدید سے سفلی و کالے علم کے اعمال کا چاپ کرتے چلے آ رہے تھے وہ آپ کی علمی و فنی اشاعت سے متاثر ہو کر ورثہ حیرت میں ڈوب گئے۔ حیران تھے کہ یہ کون ہے، کیا کتا ہے، اسکی اس کوشش کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس سے قبل سرزمین پاکستان پر کسی نے اس قسم کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ آپ کے انداز اشاعت کا اس قدر اثر ہوا کہ پاکستان میں روحانی علوم و فنون کی اشاعت کے بہت سے اور بھی ادارے کھل گئے۔ حضرت شاہ زنجانی کا انداز خدمات اس قدر پر خلوص اور واضح و شستہ تھا کہ اہل وطن نے اپنا رخ سفلی عاملوں اور جادوئی کتابوں سے موڑ کر آپ کی طرف کیا اور آپ کی مصنفہ و مولفہ کتابوں نے وہ روحانی لطائف و حقائق پیش کیے کہ جس سے مرعوب ہو کر صاحبان علم و فن نے اسلامی تقویم (زنجانی جنتی) کو بخوشی قبول کر لیا۔

خصائص جمیلہ

حضرت شاہ زنجانی خصائص و معارف کے مجموعہ تھے آپ کی تمام عبادت ایسے و ذکر و فکر سے وابستہ رہی۔ ستر برس تک کامل آپ نے رات و دن اپنا انداز اشاعت نہیں بدلا۔ سفر و حضر میں بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ رات کو روزانہ اعمال اور اوراد ختم قرآن فرماتے تھے۔ اسی طرح دن کو بھی قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر محمد و آل محمد

میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے بشرہ مبارک پر ہمیشہ خوف آخرت کی تمکینی کے ساتھ ساتھ روحانی طمطراق نمایاں رہتا تھا۔ عمر بھر کبھی اپنے لیے دعائیں فرمائی بلکہ صاحبان علم و فن کے لئے ہر وقت دعاگو رہے۔ آخری عمر میں آپ پر روحانی وجد و استفراق کو طاری ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا۔ تو آپ پر خود بخود استفراق ختم ہو جاتا نماز کی ادائیگی کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ اس دوران کاروبار زندگی بھی چلتا رہتا۔ لوگ جوق در جوق اپنے مسائل و مشکلات کے ساتھ چلے آتے اور شاہ زنجانی کی نگاہ کرم سے فیض یاب ہو جاتے۔ شاہ زنجانی نے اپنی نیاز مندی اور دل سوزی کی بنا پر خداوند کریم کا قرب حاصل کیا اور اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اسکی خوشنودی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ زنجانی کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کے باوجود وہ اہل بصیرت کے نزدیک زندہ جاوید اور صاحب تصرف ہیں۔ جس سے ان کے حلقہ کے احباب و معتقدین مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ زنجانی قدس سرہ نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہو کر اپنے آپ کو بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہونا ثابت کیا۔ عمر بھر کبھی بھی ایسی بات آپ سے ظاہر نہ ہوئی جس پر کوئی شاتم انگشت نمائی کرنے کی جسارت کرتا۔

شاہ زنجانی کا فیضان کرم

حضرت شاہ زنجانی کے اخلاق حسنہ اور عدیم السطوہ فیضان کرم سے لاکھوں کی تعداد عامل و کامل پیدا ہوئے۔ مرید و شیخ کا رابطہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں ہر وقت قائم رہتا ہے چنانچہ ارادت مند جہاں بھی ہو وہ اپنے روحانی پیشوا سے مستفید ہوتا رہتا ہے اور مرید کی نظر سے اسکا شیخ و مرشد کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتا جسکی وجہ سے مرید کی روحانی استعداد میں روز بروز ترقی ہوتی رہتی ہے اور منزل بہ منزل شیخ کی رہنمائی و دیکھیری ہوتی رہتی ہے۔ شاہ زنجانی کا روحانی فیضان ان کی ظاہری زندگی کے بعد بھی ان کے حلقہ کے مریدان تک جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری ہی رہے گا۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین بلا فصل حضرت شہزادہ السید انتظار حسین شاہ زنجانی ثانی نے سلسلہ زنجانیہ کے فیضان کو بے حد فروغ دیا۔ چنانچہ

خاندان زنجانیہ کے خلفاء حضرات میں سے موصوف کی روحانی و علمی خدمات قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے حضرت زنجانی قدس سرہ کی علمی اور روحانی مشق کی اشاعت و ترویج کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت شاہ زنجانی حضرت نعمان کے مذہب کے مطابق تھے کیونکہ انہی کی بدولت نہ صرف مسلک و مذہب میں ترقی ہوئی بلکہ یہ تمام کا تمام سلسلہ نعمانی ہی ہے۔ موصوف عقائد و مذہب کے حنفی ہونے کے باوجود امت کے تمام تر اکابر عقائد و مذہب کے ہاں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دو بڑے مذہب شیعہ و سنی دونوں ہی آپ کے لئے بے پناہ عقیدتوں اور محبتوں کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ کی تمايزات گرامی نے اختلاف امت کو مٹانے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بھی فریضہ انجام دیا اور شریعت محمدیہ کو کمال خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا خود شاہ زنجانی کا قول ہے کہ دین خدا اور سید الانبیا کا ہے چاہئے کہ آئمہ امت میں سے کسی ایک کا خود کو مقلد بنا لیا جائے اس لئے کہ اگر آپ خود کو مقلد نہ بنائیں گے تو ضعیف الایمان ہو جائیں گے۔

تصانیف حضرت شاہ زنجانی

سب سے پہلی تصنیف مصباح الجفر ہے۔ یہ کتاب حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم مقدس جفر کے حقائق و دقائق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب پر برصغیر پاک و ہند کے نامور شیعہ عالم دین علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز نے تقریظ فرمائی ہے اور اس کتاب کو جفر پر ایک جامع دماغ صحیفہ قرار فرمایا ہے۔ یہ کتاب آپ کی بہت سی دوسری کتابوں کے مقابلہ میں مشہور ہوئی۔ آپ کی اسکے علاوہ بھی تصانیف ہیں جن سے آپ کے علمی تجربہ کا پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک نابغہ روزگار مصنف و مؤلف تھے اور مجدد برحق تھے۔ اس وقت جو کتابیں ملتی ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کی غیر مطبوعہ تصانیف ہیں۔ آپ فی الحقیقت کثیر التصانیف بزرگ تھے مگر بیشتر کتابیں دور زمانہ کی وجہ سے اوہل ہو گئیں۔ اسکا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ کے خلیفہ مجاز شاہ زنجانی ثانی اس وقت کم سنی کے عالم میں تھے۔ ان سے بلوغت کے بعد جو کچھ ہو سکا آج وہ سب کے سامنے

ہے۔ تاہم وہ ان کے تحریر کردہ رسائل کو پوری طرح تلاش کر کے نشر نہ کر سکے۔ اس میں ان کی کوئی کوتاہی نہ ہے ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ حضرت شاہ زنجانی مصنف و مؤلف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ راقم کے نزدیک حضرت زنجانی قدس سرہ شعراء کے گروہ میں نابغہ عصر تھے۔ اضافہ شعر، قصیدہ، غزل اور رباعی میں کمال و رچہ رکھتے تھے۔ آپ کے کلام کے بارے میں تصحیح کے باوجود بھی معلوم نہ ہو سکا مگر صرف اردو شاعری ہی آپ کی زیادہ معروف ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ عرفان جو غیر مطبوعہ ہے فی الواقع گرامی بہا ہے۔ اس میں ہزاروں شعر مرقوم ہیں۔ زمانہ کی دست برد سے آپ کا بیشتر کلام ضائع ہو گیا اس میں سے بہت ہی کم باقی رہ گیا ہے۔ یہ سب کچھ بھاری ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کے خلیفہ مجاز کی طرف سے اسکی اشاعت و تکثیر ہو سکی۔ شہزادہ صاحب سے جملہ شائع کرنے کی استدعا ہے۔

اوراد و وظائف

حضرت شاہ زنجانی کے اوراد و وظائف کو موصوف نے مصباح العمیلات نامی کتاب میں تحریر کیا ہے یہ وہ وظائف و اوراد ہیں جو حضرت شاہ زنجانی کو اپنے سلسلہ عالیہ زنجانیہ کے مشائخ حضرات کی طرف سے عطا ہوئے۔ شاہ زنجانی مرحوم و مغفور زندگی بھر ان کی مداومت کرتے رہے اور آج تک ان کے حلقہ کے ارادت مند حضرات انہیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان اعمال و اوراد میں سے حضرت بابا جیون شاہ صاحب زنجانی کے وظائف و مہربات کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ شاہ زنجانی کو خلافت و خرقہ ان کے والد مرشد کی طرف سے ہی عطا ہوا ہے۔ زنجانی سلسلہ سادات کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام اکابر ان زنجانیہ شرعی اصولوں کے پابند درویش کو خرقہ خلافت مرحمت فرماتے رہے ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جسے خاندان زنجانیہ کی طرف سے خرقہ خلافت عطا ہوا ہو اور وہ بعد میں چل کر نااہل ثابت ہوا ہو کیونکہ ایسا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ بابا جیون شاہ کا یہ قول سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص تکبر کرے اور بڑائی کو ظاہر کرے وہ کسی طور پر بھی درویش نہیں بلکہ دنیا پرست ہے، رہبر و رہنما

نہیں رہن ہے۔ ایسا شخص مشائخ و اولیائے کرام کے خرقہ کے حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسے سارق سمجھا جائے گا۔ ایسا شخص اس نعمت عظمیٰ کے لائق نہیں بلکہ وہ ضال و بے نعمت ہے۔ اس قسم کے شخص سے ارباب روحانیت متنفر ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص پر اولیاء و خاصان خدا کی نظر التفات ہو جائے، ناممکن ہے۔ اور ادو و طائف کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی تذکرہ ہو گا کہ صاحب عمل و اعمال ہونے کے سبب شاہ زنجانی قدس سرہ عمر بھر بھی سادہ غذا اور عام لباس استعمال فرماتے رہے۔ اس معاملہ میں آپ نے شرائط کا ہمیشہ لحاظ رکھا اور کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیا۔ نان شبینہ آپ کی مرغوب غذا تھی۔ اگر قدرے سخت ہو جاتی تو اسے پانی سے تر کر کے استعمال فرماتے۔ ان کے ہم عصر اس حقیر راقم السطور سمیت ان کے اس عمل سے واقف تھے کہ آپ سفر میں بھی ہمیشہ درویشوں کی خانقاہوں اور مدارس دینیہ میں قیام فرماتے۔ نام و نمود کو انسانی و قار کے منافی گردانتے کیونکہ اصول درویشی کی روایت بھی یہی چلی آرہی ہے۔ حضرت شاہ زنجانی نے اسی طریقہ کو اپنا کر اپنے اسلاف کے طرز طریق کو زندگی بھر برقرار رکھا۔ ایک مکمل عامل و کامل ماہر کی طرح آپ نے زہد و تقویٰ اور سادہ زندگی کو اپنائے رکھا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر اپنے وجود کو کبھی بھی آسائش نہیں پہنچائی۔ موصوف جہاں ولی کامل اور صاحب کرامت بزرگ تھے وہاں بلند درجہ عامل بھی تھے۔ ان کے کمالات عمل کا اندازہ ان کے زیر قبضہ و تصرف روحانیت سے کیا جاسکتا تھا۔ شاہ زنجانی جہاں اپنے جسم لطیف کے عامل تھے وہاں جناتی نوع کا ایک مسلمان قبیلہ بھی ان کے تابع فرمان اور زیر اثر تھا۔ زندگی بھر لوگ ان کی ان تسخیر کردہ نادیدہ قوتوں کی کرامات کو ملاحظہ و مشاہدہ کرتے رہے۔ موصوف جب بھی حل طلب مسائل کے لئے اپنی تسخیر کردہ قوتوں کو طلب فرماتے تو اس کو روحانی مجلس کا نام دیتے تھے۔ ان روحانی مجلس میں ان کے خاص الخاص احباب ہی شامل ہوتے تھے اور اس طرح آپ کی مسکور کن مشاہداتی محافل میں شرکت کر کے جہاں آپ کے باقاعدہ حلقہ ارادت میں آجائے تھے وہاں نادیدہ قوتوں کا مشاہدہ کر کے ان کا ایمان و ایقان مضبوط ہو جاتا اور وہ زنجانی

قدس سرہ کی روحانی عظمت سے متاثر ہو کر خود صاحب عمل و ہدایت بن جاتے۔ آج سے نصف صدی قبل جب شاہ زنجانی نے علم، علم فرض بلند کیا تو اس وقت سحر و جادو کے پرستاروں اور کفر و ضلالت کے خوگروں نے آپ کا متعدد بار مقابلہ کیا مگر تاب نہ کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ موصوف حضرت بابا جیون شاہ صاحب زنجانی کی رحلت کے بعد سیدھے لاہور ہی تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمۃ (المتوفی 465ھ) کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ وہاں پر موجود بزرگ حضرات نے آپ کا استقبال کیا۔ مزار مقدس پر حاضری دینے کے بعد آپ کا ارادہ چلہ کشی کا ہوا۔ اس کے لئے آپ کچھ مدت تک تو دربار پاک پر ہی سکونت پذیر رہے۔ تاہم آپ کے قیام پذیر ہونے کی مدت کا تعین ثابت نہیں، صرف چند دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ چند دن کے توقف کے بعد روحانی رہنمائی میں آپ حضرت مخدوم سید فخر الدین المعروف سید میراں حسین زنجانی قدس سرہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے۔ یہیں پر ہی آپ کی چلہ کشی ثابت ہے۔ میراں حسین زنجانی کے مزار اقدس پر موجود چبوترے کی شکل کی چلہ گاہ کی شکل شاہ زنجانی کی چلہ گاہ کے طور پر مشہور ہے۔ زنجانی سلسلے کے اکابر بزرگان سے روایت ہے کہ شاہ زنجانی چلہ کشی کے مراحل سے گزر کر عامل تو ہو ہی گئے تھے مگر اس چلہ کشی کے عمل کی بنا پر ان کے والد مرشد حضرت بابا جیون شاہ صاحب زنجانی نے انہیں درجہ غوثیت پر فائز فرما دیا۔ اسی دوران انہیں جنت کی بھی بشارت دی گئی اور اس بشارت کے بعد خود شاہ زنجانی قدس سرہ نے اپنے تمام تر مریدوں اور حلقہ روحانیت کے احباب کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر شریفہ 70 سال کے قریب تھی۔ وصال شریف کے وقت سے مہینوں قبل آپ نے اپنے ارادت مندوں کو اپنے واصل ہونے کی خبر کر دی تھی۔ آپ کے خلیفہ مجاز شاہ زنجانی ثانی اس وقت بلوغت کے قریب تھے انہوں نے اپنے والد گرامی کے فرامین اور متعین کردہ خطوط کو نشان منزل بنا کر علمی و فنی ترویج کا بیٹہ اٹھالیا اور آج جب شاہ زنجانی قدس سرہ ہم میں موجود نہیں ہے شاہ زنجانی ثانی نے ان کی کمی بہت حد تک پوری کر دکھائی ہے۔ سلطان

انجمن شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی ثانی، شاہ زنجانی قدس سرہ کی اولاد امجد اور نسل پاک میں سے ایسے ہم صفت موصوف ہیں جو ان کے خلیفہ مجاز ہونے کی تمام تر صلاحیتوں سے ممتاز ہیں اور اہل حال و کمشوفات میں سے ہیں۔ انہیں والد مرشد کی طرف سے جفر و نجوم کے علاوہ علم لانی بھی حاصل و تعلیم ہوا ہے۔ خود شاہ زنجانی بھی باطنی طور پر ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ علاوہ بریں روحانی افراد کا ایک دوسرے سے باطنی رابطہ تو ہمہ اوقات رہتا ہے اور خلفاء مجاز کو اکابر کی زیارات ہوتی رہتی ہیں خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں کیونکہ بزرگان دین کا حاضر و ناظر ہونا نعمانی عقیدہ ہے اور بالکل برحق عقیدہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ الغرض حضرت شاہ زنجانی قدس سرہ جس علم و عمل کے عمدہ و مرتبہ پر فائز تھے اسی اعلیٰ مقام پر ان کے جانشین شاہ زنجانی ثانی بھی فائز ہو چکے ہیں۔ ارباب علم و فن کے علم میں رہے کہ جفر و نجوم اور روحانی علوم و فنون سے ظاہر ہونے والے حالات و نتائج کے مقابلہ میں باطنی کشف و اخبار اور اطلاعات و انکشافات بہر حال زیادہ قابل اعتماد و لائق التفات ہوتے ہیں۔ شاہ زنجانی ثانی نے اپنے والد گرامی سے باطنی طور پر معنک ہو کر باطنی و ظاہری ہر دو طرح کے علوم و فنون اور فیوض و برکات حاصل کئے ہیں۔ شاہ زنجانی قدس سرہ کی اولاد میں سے بلاشبک و شبہ شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی ثانی ہی قابل ذکر ہیں جو مسلک زنجانی اور علوم و فنون روحانی کی اشاعت و ترویج کے لئے اپنی زندگی کو وقف کئے ہوئے ہیں۔ ماہنامہ ”آئینہ قسمت“ کے علاوہ دیگر کتابوں کے ذریعہ فنی و علمی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ موصوف کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم ایک صد کتابیں شائع کروانے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں۔ خداوند عالم انہیں اس میں کامیابی بخشے۔ قارئین کرام، ماہنامہ ”آئینہ قسمت“ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں اور ادارہ کی طرف سے شائع کردہ کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو انصاف پسند طبیعت بیساختہ پکار اٹھے گی کہ شاہ زنجانی قدس سرہ کے انتخاب کردہ اس علمی و فنی گلدستہ جیسا اور کہیں بھی کوئی گلدستہ نہیں ہے ایک طرف ادب و علم کا منظر اور دوسری جانب عجائبات و کرشمات کا منظر ہے۔ نصف صدی سے ہزاروں عاشقان علم و فن اس روحانی

سرچشمہ سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ماہنامہ ”آئینہ قسمت“ کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ یہ چند ایک طور اسی مناسبت سے خاندان زنجانیہ کے آفتاب علم و حکمت شاہ زنجانی قدس سرہ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر تحریر کی گئی ہیں۔ آپ کے فیضان کرم اور ظہور کمالات کا مشاہدہ مقصود ہو تو ان کے جانشین و وارث حضرت شاہ زنجانی ثانی کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ ہم نے تو صد ہا مرتبہ ان سے مناظر اور خوارق و کرامات کو دیکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود شاہ زنجانی قدس سرہ ہی انتظار حسین زنجانی ثانی کی صورت میں دوبارہ تشریف فرما ہو گئے ہیں اور مخلوق خدا کو فیض یاب فرما رہے ہیں۔ بزرگان دین کے بعد ان کے مزارات مقدسہ پر حاضری دینا اور ان کے خلفاء سے فیض یاب ہونا از حد ضروری ہے کیونکہ روحانی اشخاص اپنی قبروں میں رہتے ہوئے ارادت مندوں کو ان کی حاجت روائی کے لئے سامان رہنمائی فراہم کرتے رہتے ہیں وہاں ان کی اولاد امجاد اور خلفائے مجاز بھی ظاہری طور پر خلق خدا کو مستفید کرتے رہتے ہیں۔ سلطان الفقراء حضرت شاہ زنجانی قدس سرہ کی عظمت و توقیر کے لئے یہی کافی ہے کہ انہیں انکے اسلاف کی طرف سے خرقہ ولایت ملا ہے اور خدائے بزرگ و برتر نے انہیں نسل سادات سے ممتاز فرمایا ہے۔ آپ تمام اذلیائے کرام اولین و آخرین خصوصاً اصحاب کف کے توشہ کی ہر ماہ اپنے ہاں محافل برپا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے حد درجہ کا عشق فرماتے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین کی محبت سے سرشار رہتے تھے۔ زنجانی سید تھے اور حضرت سیدنا غوث اعظم قدس سرہ کی اولاد سے بھی نسبت رکھتے تھے۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی عظمت تھی۔ آپ کے ملفوظات طیبات میں والدین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنے، تلاوت قرآن کرنے اور اس پر عمل کرنے، کعبہ شریف اور مدینہ الرسول کی زیارت کرنے، اکابر و مشائخ کی مجالس میں جانے اور ان کے فرمودات پر مکمل طور پر عمل کرنے کو اہم قرار دیا گیا ہے۔

شاہ زنجانی قدس سرہ کے تعارف میں اگر یہ بیان نہ کیا جائے کہ موصوف اپنے وقت کے ایک ماہر نباض اور ایک حاذق طبیب تھے تو یہ ایک بہت بڑی فاش غلطی ہو

گی اور ناقابل معافی کو تباہی ہوگی۔ شاہ زنجانی روحانی طبیب بھی تھے اور طبیب جسمانی بھی تھے۔ خدائے بزرگ و برتر نے ان کے ہاتھوں میں اعجاز مسیحائی کو عطا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی امراض و عوارضات میں جکڑا ہوا علاج جو بھی مریض آپ کی بارگاہ اقدس میں علاج معالجہ کے لئے حاضر ہوتا۔ وہ کبھی بھی خالی نہ جاتا تھا۔ آپ کی با بصیرت نظر اور شفا بخش ادویاتی تجویز مریض کی کہنہ ترین مرض و درد کو صحت و شفا یابی میں تبدیل کر کے رکھ دیتی۔ عام لوگوں کے علاوہ آپ کے شفا بخش معالجات کا اس قدر شہرہ ہوا کہ پاکستان بھر سے جو بھی طبیب خواہ وہ کہیں سے لاہور آیا، اس نے سب سے پہلے حضرت شاہ زنجانی قدس سرہ کی بارگاہ غوثیت میں حاضری دی اور روحانی و جسمانی طور پر استفادہ کیا۔ مرض انحراس میں مریض عورت کی اولاد زندہ نہیں بچ پاتی اور مرتی جاتی ہے، اسی طرح تحر یعنی بانجھ پن جس میں جملہ عورت زندگی بھر بے اولاد رہتی ہے۔ ان ہر دو غیرالعلاج امراض کا آپ خصوصی طور پر روحانی و جسمانی علاج فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حقیقت ہے کہ لاتعداد مایوس العلاج خواتین آپ کے مسیحائی علاج کی بدولت دولت شفا سے مالا مال ہوئیں۔ ہزاروں خالی گودیں اولاد کی نعمت عظمیٰ سے بھر گئیں اور در بدر کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگوں کو در زنجانی سے شفا و سکون ملا۔ شاہ زنجانی اپنے مریدان اور معتقدین حضرات کے معاملات میں حد درجہ کے حساس اور غم ناک ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی نیاز مندی اور دل سوزی سے ان کی مشکلات و حاجات کے حل و عقد کے لئے بارگاہ خدا سے دست بدعا رہتے تھے اور اس وقت تک ان کا اضطراب و کرب ختم نہ ہو پاتا جب تک کہ ان کے مرید و معتقد کی حاجت براری نہ ہو جاتی۔ شاہ زنجانی قدس سرہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود آج بھی وہ زنجانی ثانی کی شکل و صورت میں اپنے نیاز مندوں کو فیوض و برکات سے مستفید فرما رہے ہیں۔ شاہ زنجانی ولی کامل تھے اور اولیائے کاملین اس دار فانی سے رخصت ہونے کے باوجود زندہ و جاوید او متصرف ہوتے ہیں کیونکہ اولیاء ہرگز نہیں مرتے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

تقویم سیارگان علم النجوم کے ہر طالب علم کیلئے یکساں مفید سہمی سیارگان امریکن نوی کی تصدیق شدہ۔
 مصباح الجفر آئمہ معصومین کا پاک و پاکیزہ علم سیکھنے کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔
 خزینہ جفر مبتدی حضرات کے لئے علم الجفر پر ایک آسان اور سہل تصنیف از لیاقت قریشی۔
 ارواح الجفر مصنف الحاج مولانا محمد شفیق رامپوری جسے شاہ زنجانی نے ترتیب نو دی۔
 تجلیات جفر از قلم بابر سلطان قادری، علم الجفر سے شوق رکھنے والوں کیلئے ایک جفری تحفہ
 مصباح القیافہ FACE READING دنیاہ مردم شناس کے لئے مخم اعظم کی ایک سدا بہار تصنیف۔
 مصباح الرمل نقطوں اور لکیروں کا بے پایاں علم، ماضی، حال اور مستقبل جاننے کے راز۔
 رموز سوال و قعی زانچہ تشنگان علوم فلکیات کے لئے اطمینان و اعتماد کا دلکش مرجع۔
 جامع النجوم علم النجوم سیکھنے کے شائقین کے لئے ایک آسان اور سہل تصنیف۔
 مصباح الاعداد علم الاعداد 1'2'3'4'5'6'7'8'9 سے منگولیاں کرنے کے قواعد۔
 مصباح العمیلات اعمال خاندان زنجانیہ عالیہ، اعمال قادریہ اور اعمال چشتیہ، غویہ، نقشبندیہ قرآنی
 مصباح الرویا حضرت یوسف علیہ السلام کا درس، خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہر شخص کی ضرورت۔
 مصباح الریمیا شعبہ بازی کیا ہے؟ اور اس کے سرستہ راز کیا ہیں؟ از قلم مخم اعظم۔
 مصباح الفراست المشور دنیا والوں کے لئے، دشت شامی پر ایک جامع تصنیف۔
 آپ کی تاریخ ولادت آپ کا ماضی، حال اور مستقبل یہ کتاب آپ کو سمجھنے سے بے نیاز کر دے گی۔
 تسخیرات ہمزاد ہمزاد کیا ہے؟ آپ کے جسم لطیف کی تسخیر کیسے ممکن ہے؟ از عال شاہ زنجانی
 استخارہ قرآنیہ جفار اعظم حضرت اکبر محی الدین ابن عربی عراقی کے قال نکالنے کے قرآنی قواعد۔
 بیاض عملیات تلاش، دو سو فیصد درست عملیات کا گلدستہ۔ از قلم علامہ شاہ گیلانی
 ساہر منتر زمانہ مسابھارت کے قدیم و نادر آسان منتروں کا تحفہ، از اشتیاق حسین ایڈووکیٹ۔
 طلسمات سامری کالے جادو کے حلاشی شائقین کی نفسی دور کرنے کے لئے، از مخم اعظم
 قرآن سائنس اور نجوم منکرین علم النجوم کے لئے ایک بہترین کتاب۔ مبتدی حضرت ضرور پڑھیں۔
 ناد علی علیہ السلام مولائے کائنات جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو منفرد انداز میں ہدیہ، از ریاض جعفری ایڈووکیٹ
 طلسمات حد حد محبت میں بے چین رہنے والوں کے لئے کامیابی کا تحفہ، از افتخار حسین زنجانی
 حروف صوامت عملیاتی تحفہ گرہن 1997ء تا 2050ء کے ساتھ از قلم شاہ زنجانی
 کلیہ ریس و سٹ شائقین ریس و سٹ کے لئے انمول تحفہ و شائقین علوم ہفنیہ۔
 قانون طلسمات صدیوں پرانے عظیم و نادر عبرانی سرمایہ قواعد کا مرجع، از محمد رفیق زاہد
 مفتاح الغیب حضور سیدنا صادق آل محمد کی تصنیف و اقصی خزائن غیب کی کلید ہے۔
 فیوض طلسمات بد اعمال طلسمات سحر و جادو سے نیکی کی جنگ، از قلم سید فیض احمد شاہ بخاری۔
 سحر اسود پاک و ہند میں کالے جادو پر اس سے بہتر کتاب موجود نہیں، از مخم اعظم شاہ زنجانی۔
 اسرار عجیبہ ایسے عجیب و غریب اعمال جو اس سے پہلے شائع نہیں ہوئے۔
 حاضرات کی دنیا شائقین حاضرات کے لئے سینکڑوں مجرب حاضرات، از قلم قیصر احمد بی اے۔
 بحر الحاضرات حاضرات کی دنیا کے بعد ایک اور تحفہ، از قلم ڈاکٹر منشور عالم صدیقی۔

روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت لاہور ہر ماہ باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے سال نامہ

زنجانی جنتری اور البیرونی تقویم بھی ہر سال باقاعدگی سے شائع ہوتی ہے۔